



مجموعه قوائمه اسلام

جلد سوم

دکتر حمزه الرحمن (تمدن ایران)
شیخ سید جمال کورت



مجموعہ قوانین اسلام

جلد سوم

قوانين
نسب اولاد و حضانت
لفقة اولاد و آباء و اجداد
ہبہ اور وقف

تنزیل الرحمن

ایم - اے، ایل ایل - بی، ایل دو کیٹ
اعزاڑی مشیر قانون
ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

یکی از مطبوعات
ادارہ تحقیقات اسلامی (پاکستان) اسلام آباد

مطبوعات اداره تحقیقات اسلامی

نمبر ۱۰ (۳)

۱۹۹۱، اداره تحقیقات اسلامی، پوست بکس نمبر ۱۰۳۵، اسلام آباد
جمله حقوق محفوظ
اشاعته اول ۱۹۶۹، طبع دوم ۱۹۷۱، طبع سوم ۱۹۸۵، طبع چهارم ۱۹۹۱،
طبع پنجم ۱۹۹۸، طبع ششم ۲۰۰۵ء

ذکر محمد حمید الله لاثریری، اداره تحقیقات اسلامی
کوائف فهرست سازی دوران طباعت

نزیر الرحمن، ۱۹۲۸
مجموعه قوانین اسلام جلد سوم، قوانین نسب اولاد و حضانت،
نفقة اولاد و آیاً و اجداد، هبه اور وقف

(اداره تحقیقات اسلامی، اسلام آباد
سلسله مطبوعات نمبر ۱۰ (۳)
کتابیات ص ۱۱۴۳، ۱۱۴۴،
اناریہ ص ۱۱۵۳، ۱۱۵۴
۱ - فقه اسلامی ۲ - نسب اولاد (فقه اسلامی)
۳ - حضانت (فقه اسلامی) ۴ - نفقة (فقه اسلامی)
۵ - وقف (فقه اسلامی) ۶ - هبه (فقه اسلامی)
الف - عنوان ب - سلسله

ISBN 969-408-012-6 ۳۴۰.۵۹ dc 20 ج ۲ طبع چهارم

طبع و ناشر اداره تحقیقات اسلامی، اسلام آباد
اداره تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

فہرست مندرجات

صفحہ

حرف آغاز ، عالی جناب جسٹس ایس۔ اے۔ رحمن ، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ	۸۲۶ ...
بیش لفظ ، عالی جناب جسٹس وحید الدین احمد ، چیف جسٹس عدالت عالیہ ، مغربی پاکستان	۸۲۹ ...
مقدمہ ، مؤلف	۸۳۱ ...
ست قوانین (دفعات ۳۰۰ تا ۴۰۰)	۸۳۱ ...

نسب اولاد

اکیسوان باب

صفحہ

۸۶۶ ... ثبوت نسب بذریعہ دعوی	۱۵۸ ...
۸۶۷ ... نسب بذریعہ شہادت	۱۵۹ ...
۸۶۸ ... نسب بذریعہ اقرار	۱۵۰ ...
۸۶۹ ... اقرار بالنسب سے رجوع	۱۵۱ ...
۸۷۰ ... ثبوت نسب بہ حکم شرعی	۱۵۲ ... مستبنی بنانا

صفحہ

۸۳۴ ... نسب کی تعریف	۱۵۳ ...
۸۳۵ ... اقسام نسب	۱۵۴ ...
۸۳۶ ... نسب کے اثرات	۱۵۵ ...
۸۳۷ ... جائز التسلی	۱۵۶ ...
۸۳۸ ... ثبوت نسب کا حق	۱۵۷ ...

حضافت

باکیسوان باب

۱۵۶ - بھوں کی بروشور کرنے والوں کی شرائط ...	۸۴۴ ...
۱۵۷ - مان کے بعد وشته دار عورتوں کا حق ...	۸۴۵ ...
۱۵۸ - مالیں کب ناقابل حضالت قرار بات پس ...	۸۴۶ ...
۱۵۹ - مردوں کا حق حضالت	۸۴۷ ...

نفقة اولاد و آباء و اجداد

تیسیسوان باب

(۱) والدین کے مفلس ہونے کی صورت میں ...	۹۱۰ ...
(۲) اولاد کا صحیح النسب ہونا ضروری ہے	۹۱۳ ...
۹۱۴ - مان اور دادا کی ذمہ داری	۹۱۴ ...
۹۱۵ - آباء و اجداد کا نفقہ	۹۱۵ ...
(۱) باپ کے مفلس ہونے کی صورت میں	۹۱۶ ...
(۲) دیگر رشتہ داروں کا نفقہ	۹۱۷ ...

ہبہ

چوبیسو ان باب

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۹۵۳ ...	۱۴۲ - ہبہ تفصیلی ...	۹۲۳ ...	۱۹۳ - ہبہ کی تعریف
۹۹۳ ...	۱۴۳ - ہبہ تاحیں حیات ...	۹۲۵ ...	۱۹۳ - انعقاد ہبہ
۹۹۴ ...	۱۴۴ - ہبہ رقبی ...	۹۲۵ ...	۱۹۴ - شہادت ہبہ
۹۹۸ ...	۱۴۵ - ہبہ بالعوض ...	۹۲۵ ...	۱۹۵ - ہبہ کی تکمیل
۱۰۰۳ ...	۱۴۶ - ہبہ بشرط عوض ...	۹۳۳ ...	۱۹۶ - اہلیت جبہ
۱۰۰۶ ...	۱۴۷ - ہبہ سوقوں ...	۹۳۵ ...	۱۹۷ - کن اشیاء کا ہبہ جائز ہے ...
۱۰۰۷ ...	۱۴۸ - ہبہ مشروط ...	۹۳۶ ...	۱۹۸ - جبہ کا خیریٰ ہونا ضروری نہیں ...
۱۰۰۸ ...	۱۴۹ - ہبہ بحالت مرض الموت ...	۹۳۶ ...	۱۹۹ - مشاع کا ہبہ ...
۱۰۳۶ ...	۱۵۰ - صدقہ ...	۱۸۰ ...	۲۰۱ - دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے نام ...
۱۰۳۷ ...	۱۸۱ - عاریت ...	۹۵۲ ...	۱۹۸ - ہبہ ...

وقف

پنجسوان باب

۱۱۱۸ ...	۱۹۲ - تسبیخ وقف ...	۱۰۳۳ ...	۱۸۲ - تعریفات
۱۱۲۰ ...	۱۹۳ - تؤیت وقف ...	۱۰۳۹ ...	۱۸۳ - الفاظ وقف
۱۱۲۶ ...	۱۹۴ - اہلیت متولی ...	۱۰۵۳ ...	۱۸۳ - جواز وقف
۱۱۲۹ ...	۱۹۵ - متولی کی معزوفی اور نقر جدید ...	۱۰۹۶ ...	۱۸۵ - اقرار وقف بحالت صحت و مرض الموت
۱۱۳۰ ...	۱۹۶ - جاندار موقوفہ کی منتقلی وغیرہ ...	۱۰۹۹ ...	۱۸۶ - مقصد وقف
۱۱۳۱ ...	۱۹۷ - جانشین مقرر کرنے کا اختیار ...	۱۱۰۱ ...	۱۸۷ - مشاع کا وقف
۱۱۳۲ ...	۱۹۸ - قرضہ کا اختیار ...	۱۱۰۵ ...	۱۸۸ - قرضدار کا وقف
۱۱۳۳ ...	۱۹۹ - معاوضہ متولی ...	۱۱۰۶ ...	۱۸۹ - وقف بالوصیت
۱۱۳۵ ...	۲۰۰ - متولی کے تصرفات ...	۱۱۰۸ ...	۱۹۰ - وقف بحالت مرض الموت
		۱۱۰۹ ...	۱۹۱ - وقف علی الاولاد ...

اشارے و فہرست کتب ... ۱۱۵۵ ...

حروف آغاز

علی جناب جسش ایں - اے - وہن صاحب
سابق چیف جسش سریم کورٹ، پاکستان

زیر نظر کتاب ، مجموعہ قوانین اسلام کی تیسرا جلد ہے ۔ یہ سلسلہ کتب چند سال قبل جناب تنزیل الرحمن صاحب ایڈووکیٹ کراجی نے ادارہ تحقیقات اسلامی کی نگرانی اور سر پرستی میں شروع کیا تھا ۔ پہلی دو جملوں میں قانون ازدواج اور قانون طلاق کے سائل کا جائزہ لیا گیا تھا ، اس جلد میں نسب اولاد ، حضانت ، نفقة اولاد و آبا و اجداد ، ہبہ اور وقف کے اہم موضوعات پر بحث کی گئی ہے ۔

فاضل مؤلف علمی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں ۔ آن کی شائع شدہ تالیفات نے انہیں تعارف سے بے نیاز کر دیا ہے ۔ ان کا اسلامی فقہ کا مطالعہ وسیع ہے اور وہ دیگر اسلامی ممالک میں قانون کے ارتقائی پہلووں اور جدید قانونی نظریات سے بھی واقع ہیں ۔ اس لیے آن کا انداز نظر اور پیرایہ تحریر متوازن اور حامل احتیاط ہے ۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اجتہاد کی بجائے ، قدامت پسندی کی طرف زیادہ مائل ہیں تو کچھ بے جا نہ ہوگا ۔ مثال کے طور پر ، حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق وہ حضرت عائشہ کے قول پر اختصار کر کے محاکمه کرتے ہیں کہ احاف کا موقف اس بارے میں درست ہے کہ یہ قول حضرت عائشہ کی ذاتی رائے قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت پر مبنی سمجھنا چاہیے ۔ غور طلب بات یہ ہے کہ امام مالک ، امام شافعی ، اور امام احمد بن حنبل جیسے فاضل اور ثانی بزرگوں نے اس نقطے نظر سے اختلاف کیا ہے ۔ اس ناچیز کا خیال ہے کہ جہاں اس قسم کا اختلاف اس اعلیٰ سطح پر موجود ہو اور کوئی صریح شواہد نہ پائے جائیں جن سے قول زیر بحث کی نسبت مستند طور پر رسول اکرم سے کی جا سکے تو جدید اجتہاد کے لئے گنجائش کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے ۔ ایسے معاملات میں جو تعیر نص کی بجائے ، بادی النظر

میں مشاہدہ بر مبنی ہوں تقلیدی زاویہ نگاہ عصری تقاضوں کے منافی ہوگا۔ محض رائے کی قدامت اس کی اصابت کی ضامن نہیں ہو سکتی جب تک اس کے حق میں مکمل دلیل مہیا نہ ہو جائے۔

ایسے اختلاف مقامات سے قطع نظر، جہاں فاضل مؤلف اجتہادی ضرورتوں سے پہلو بجائے نظر آتے ہیں، اس مجموعہ کی علمی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے اسلامی قانونی ضابطہ بنندی کی طرف ایک اہم قدم سمجھنا چاہئے اور تو قع رکونی چاہئے کہ تحقیق کے اس نقش اول سے مزید غور و فکر کے لئے راهیں ہموار ہوں گی۔ مجھے اسید ہے کہ اہل نظر فاضل مؤلف کی مساعی کی کما حقہ قدر کریں کے۔ اور انہیں دعاۓ خیر سے یاد کریں گے۔

۶۵ گلبرگ، لاہور

۲۷ ستمبر ۱۹۵۸ع

ایس۔ اے۔ رحمٰن

پیش نظر

عالی جناب جسٹس وحید الدین احمد صاحب
چیف جسٹس، عدالت عالیہ مغربی پاکستان

قیام پاکستان کے بعد امن ملک میں اسلامی قوانین اور ان کے نفاذ کے متعلق کھری دلچسپی لی جا رہی ہے۔ ۱۹۷۲ع کے دستور میں بھی امن امر کا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس کے تحت پاکستان کے تمام مروجہ اور آئندہ بنائے جانے والے قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ”مجموعہ قوانین اسلام“ جو ادارہ تحقیقات اسلامی شائع کر رہا ہے اس مسئلے کے حل میں کافی حد تک مدد و معاون ثابت ہوا ۔

”مجموعہ قوانین اسلام“ کے مصنف تنزیل الرحمن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس سے قبل ”مجموعہ قوانین اسلام“ کی جلد اول اور جلد دوم شائع ہو چکی ہیں۔ موجودہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے جلد سوم کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے، فاضل مصنف نے اس جلد میں نسب اولاد، حضانت، ہبہ اور وقف کے مسائل کا جائزہ اسلامی قوانین کے نقطہ نگاہ سے قرآن و سنت اور فقہ کی مستند کتابوں اور بر صفت ہند و پاکستان کی اعلیٰ عدالتون کے فیصلوں کی روشنی میں لیا ہے۔ مندرجہ بالا مسائل اتنے اہم ہیں کہ وہ سوسائٹی میں تقریباً ہر وقت پیش آتے ہیں اور ان مسائل پر فاضل مصنف نے بہت ہی خوبی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے نہ صرف مندرجہ بالا مسائل پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بحث کی ہے بلکہ فقہ کی مستند کتابوں سے فقیہوں کے اختلاف پر بھی کافی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیگر اسلامی ممالک میں راجعِ الوقت قوانین کو زیر بحث لائے ہیں۔ ”مجموعہ قوانین اسلام“ ایسی

کتاب کی ضرورت ہارے ملک میں عرصہ دراز سے محسوس کی جا رہی تھی۔ تنزیل الرحمن صاحب نے اپنی تصنیف سے اس اہم ضرورت کو پورا کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فاضل مصنف نے اس میں کسی خاص اسلامی طبقے یا فرقے کی رائے کا پرایپنگٹھ نہیں کیا ہے بلکہ ہر سلسلے پر مختلف پہلووں اور گوشوں سے غور کیا ہے، فقہاء کی مختلف آراء بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنی رائے کا بھی بڑی خوش اسلوب سے اظہار کیا ہے۔

اس سلسلے میں حکومت کی مسامعی قابل سائش ہیں۔ دستور کی شق ۱۹۹ کے تحت اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی جا چکی ہے جس کا کام پاکستان میں مروجہ قوانین کو قرآن اور سنت کی مطابقت میں لانا اور شرعی قوانین کے نفاذ میں حکومت اور قانون ساز اداروں کو مفید شورے مہیا کرنا ہے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جسے عمل میں لا کر حکومت نے ملک اور قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ خاص طور پر اسلامی قوانین کے سائل دو غیر جانب دارانہ طریقے سے پیش کرنے کے لیے فاضل مصنف جسے شخص کا انتخاب قابل استحسان ہے۔

میں اس کتاب کی اشاعت پر ادارہ تحقیقات اسلامی اور جانب تنزیل الرحمن صاحب دونوں کو سیار کباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین واثق ہے کہ اس کتاب سے اسلامی قانون دان طبقے کو مفید مدد ملے گی اور جن سوالیں میں اختلاف رائے ہے ان کا حل بھی سہل ہو جائے گا۔

وحید الدین احمد

نہاجی
۲۱ اگست ۱۹۶۸ء

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمة

”قانون“ ایک یونانی لفظ ہے جو سریانی کے ذریعہ عربی میں آیا اس کے اصلی معنی ”مسطراً“ کے ہیں۔ بعد میں یہ لفظ قاعدة کلیہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

”قانون“ اپنے عام اصطلاحی معنی میں ”باقمی سلوک اور روابط کے مجموعہ اقدار“ کا نام ہے جب کہ اپنے قدیم معنی میں ”اہل حکومت کی مرضی اور فرمان“ کا دوسرا نام قانون تھا۔

زمانہ قدیم میں لفظ ”قانون“ کا اطلاق دینی امور اور دنیاوی معاملات دونوں پر ہوتا تھا لیکن بعد میں مغربی اقوام کے فلسفہ قانون کے تحت اس کا استعمال دنیاوی معاملات کے لیے حکومت کے وضع کردہ قواعد کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ قانون اپنے موجودہ معنی میں انسانی زندگی کو منضبط کرنے کے لیے قواعد و ضوابط کے ایسے مجموعہ کا نام ہے جو افراد کی رضاہندی سے مرتب کیا جائے اور حکومت اسے نافذ کرے۔

فقہ کی تعریف :

شرع اسلام میں ”قانون“ کے بجائے ”فقہ“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ”فقہ“ کے لغوی معنی ”سمجه“ کے ہیں۔ شرع میں ”فقہ“ اس فہم خاص سے عبارت ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے حاصل ہو۔ کتاب ”توضیح“ میں لکھا ہے کہ ”امام ابو حنیفہ کے وقت میں فقہ کا لفظ احکام ظاهر و باطن دونوں کے لیے تھا“ یعنی فقہ کی اصطلاح دینی امور اور دنیاوی معاملات دونوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ چنانچہ فقہ اپنے وسیع معنی میں اس علم کا نام تھا جو ایک مسلمان کے خدا کے ساتھ، اپنے اور دوسروں کے ساتھ پائی جائے والی تعلقات ظاہری و باطنی کے احکام بیان کرتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف ”معرفة النفس مالها و ما عليها“

کے الفاظ میں بیان کی تھی جس کا مطلب ہے کہ فقه نام ہے ان احکام کے جاننے کا جو نفس انسانی کے لیے مفید اور مضر ہیں چنانچہ اسی لیے امام صاحب نے اس کا نام ”فقہ اکبر“ رکھا جس کے دائروں میں عقائد اور اخلاق بھی تھے۔ لیکن بعد میں لفظ ”فقہ“ کا اطلاق فقط احکام عملی پر ہوتے لگا۔

امام غزالی الشافعی (متوفی ۵۰۵ھ) نے اپنی کتاب ”المتصفی من علم الاصول“ (صفحات ۵-۶) میں لکھا ہے کہ ”اہل الوضع“ (یعنی اہل لغت) کے نزدیک فقه عبارت ہے علم و فہم سے، کہ فلاں شخص جانتا ہے نیک اور برائی کو اور اس کو سمجھتا ہے لیکن علماء کے نزدیک فقه عبارت ہے جانتے سے احکام شریعت ثابتہ کے، واسطے افعال مکلفین کے خاص کر جیسے واجب، منوع، جائز، مستحب، مکروہ اور یہ کہ معاهده صحیح ہے یا فاسد یا باطل اور یہ کہ عبادت ادا ہوتی یا قضا اور اس کے مانند۔

امام علاء الدین الکاسانی الحنفی (متوفی ۵۸۷ھ) نے اپنی کتاب ”بدائع الصنائع ف ترتیب الشرائع“ (جلد ۱ صفحہ ۲) میں لکھا ہے کہ اللہ اور اس کی صفات کے علم کے بعد علم فقه سے افضل کوئی علم نہیں۔ جس سے حلال و حرام اور شرائع و احکام کا علم حاصل ہوتا ہے جس کے مطابق اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں اور اس کو بلا معاونت سمع (قرآن و حدیث) محض عقل کے ذریعہ نہیں پہچانا جا سکتا۔

اصول فقه کی مشہور کتاب ”توضیح“ برحاشیہ تلویع (صفحہ ۱۷) کے مصنف صدر الشریعت عبید اللہ ابن مسعود الحنفی (متوفی ۴۷۷ھ) نے فقه کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ”فقہ جانتا ہے کل احکام شرعی عملی کا جو بذریعہ وحی ہم پر ظاهر ہو گئے اور وہ احکام جن پر اجماع منعقد ہو گیا، ادله شرعیہ ہے، بشرطیکہ ان سے صحیح نتائج اخذ کرنے کا ملکہ ہو“۔

سید شریف جرجانی نے ”التعريفات“ میں لکھا ہے کہ فقه اپنے لغوی معنی میں غرض متكلم کو اس کے کلام سے سمجھنے سے عبارت ہے۔
اصطلاحی معنی میں احکام شرعی کا دلائل تنصیل سے جانتا ”فقہ“ ہے۔ آج کل یہی تعریف مشہور ہے۔

مجموعہ قوانین اسلام

- (۱) اعتقادات ، آداب (اخلاق) ، عبادات -
- (۲) معاملات ، عقوبات -

علائی شافعیہ اس کی تسمیہ یوں کرتے ہیں :

- (۱) عبادات (ان کا تعلق آخرت سے ہے یعنی ان کا نتیجہ آخرت میں ہونے والا ہے) -

- (۲) مناکھات (نکاح ، طلاق ، مهر ، نفقة ، وراثت وغیرہ)
- (۳) معاملات (دیوانی قوانین)
- (۴) عقوبات (فوجداری قوانین)

فقہ اسلام یا قانون اسلام (اینے معروف معنی میں) آخر الذکر تین امور یعنی مناکھات ، معاملات اور عقوبات پر مشتمل ہے جن کا تعلق امور دنیا سے ہے یعنی ان کا اثر اور نتیجہ دنیا ہی میں ثابت ہوتا ہے -

فقہی احکام کی تسمیہ :

المجلة الاحکام العدلیہ کی دفعہ ، میں لکھا ہے کہ فقه ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ سے شریعت کے عملی اور فقہی مسائل کو سمجھا جا سکے - ان مسائل کا تعلق یا تو امور آخرت سے ہوگا یا امور دنیا سے - جہاں تک امور دنیا کا تعلق ہے ان کو فقه اسلام میں تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے :

- (۱) مناکھات - (۲) معاملات ، اور (۳) عقوبات -

مختلف اصطلاحیں :

آج کل عرب مالک میں "مناکھات" سے متعلق احکام کے لیے بالعموم قانون الاحوال الشخصية کی اصطلاح راج' ہے جب کہ معاملات کے لیے قانون المدنی اور عقوبات کے لیے قانون الجنائی کی اصطلاحیں رواج با چک ہیں - ہند و پاکستان میں انگریزوں کے تسلط کے زیر اثر مسلمانوں کے مناکھات سے متعلق احکام کے لیے شخصی قانون (Personal Law) کی اصطلاح راج' ہوئی جو دراصل فرانسیسی اصطلاح (Le Statut Personnel) سے مانخوذ

تھی۔ پاکستان میں شخصی قوانین کی جگہ عائلی قوانین کی اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔

بُر صغیر میں برطانوی دور حکومت میں فقہ اسلام کا نفاذ:

غیر منقسم ہندوستان پر انگریزوں کے غلبہ و اقتدار کے بعد معاملات و عقوبات (جن کو جدید قانونی اصطلاح میں دیوانی و فوجداری قوانین کہا جا سکتا ہے) کے تعلق سے انگریزوں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کیے جن کی بنیاد برطانوی قانون عالم پر تھی البتہ مناکھات (جس کو شخصی قانون کا نام دیا گیا) کے باب میں ہندوستان میں بنسنے والی اقوام کے سلسلہ رواج (custom) کو قانونی حیثیت دی گئی۔ مگر ۱۹۳۷ع میں شخصی قانون شریعت، اطلاق ایکٹ کے ذریعے بعض شخصی امور مثلاً نکاح، طلاق، نفقہ، مهر، ہبہ، وراثت، و جانشی (علاوہ زرعی اراضی کے) سے متعلق امور میں یہ قرار دیا گیا کہ اگر فریقین مسلمان ہوں تو ان کا شخصی قانون نافذ العمل قرار پائے گا، بشرطی کہ وہ کسی ایکٹ کے ذریعے تبدیل یا منسوخ نہ کر دیا گیا ہو۔ اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں کی عائلی زندگی کے ان امور پر جن کی صراحت ۱۹۳۷ع کے مذکورہ بالا قانون کے تحت کر دی گئی تھی معینہ حدود میں شخصی قانون اسلام کا اطلاق کیا جاتا تھا (مگر وہ زندگی کے دوسرے معاملات اور جرم و سزا میں کلیتاً انگریزی قانون کے تابع تھے اور آج آزادی کے اکیس سال بعد بھی اسی قانون کے تابع ہیں) لیکن مسلمانوں کے عظیم فقہی سرمایہ سے لا علمی یا براۓ نام واقفیت کے سب عائلی زندگی سے متعلق امور میں جو قانون مشکل ہو کر سامنے آیا وہ اپنی اصل ہیئت کے اعتبار سے مکمل طور پر نہ شرعی تھا اور نہ غیر شرعی۔ اس کو ”اینگلو محڈن لاء“ کا نام دیا گیا۔

تقسیم ہند کے فوراً بعد پاکستان کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ شدت پکڑ گیا کہ یہاں اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں۔ بعد ازاں اس مطالبے اور قومی تفاصیل کو دستوری حیثیت بھی دے دی گئی۔

موجودہ دستور میں اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ جو قوانین دستور کے تحت

عطاطا کرده بنیادی حقوق کے خلاف ہوں گے یا خود دستور پاکستان سے متصادم ہوں گے عدالتیں انہیں باطل اور غیر نافذ قرار دے سکتی ہیں لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں اس امر کی کہیں صراحةً نہیں پائی جاتی کہ وہ قوانین جو قرآن پاک و سنت کے خلاف ہوں ان کو بھی عدالتیں باطل اور غیر نافذ قرار دے سکتی ہیں۔

اگرچہ دستور پاکستان، ۱۹۶۲ع کے تحت قانون سازی کا پہلا اصول یہ تسلیم کیا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے منافق نہ ہونا چاہیے لیکن آرٹیکل ۶ (۲) کے تحت عدالتون میں کسی قانون کے جواز کو اس بناء پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قانون، قانون سازی کے (مندرجہ) اصولوں کو نظر انداز یا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے یا کسی اور سبب کی بناء پر قانون سازی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر ملک کی اعلیٰ عدالتیں اگر اس نتیجے پر چیلنج جائیں کہ کوئی قانون خلاف شرع اسلام ہے تو وہ اس بناء پر ملک کے کسی قانون کے متعلق خلاف اسلام ہونے کے بارے میں حرف زنی کی مجاز نہیں۔ چنانچہ پاکستان سپریم کورٹ نے بمقامہ علی نواز گردیزی بنام ہمدی یوسف (پ) ایل ڈی ۱۹۶۳ع سپریم کورٹ صفحہ ۵) عائلی قوانین آرٹیشن کی دفعہ ے ہر اس کے اسلام کے مطابق (یا غیر مطابق) ہونے پر رائے دینے سے احتراز برنا ہے۔ اس تقيید و پابندی سے جہاں کچھ فوائد مقصود ہیں وہاں قانون کے سرچشمتوں میں سے ایک سرچشمہ خشک ہوتا معلوم ہوتا ہے۔

فقہ اسلامی کی تدوین جدید :

اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام میں ”فقہ اسلامی کی تدوین جدید“ کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ گذشتہ ربع صدی میں خوب پھیلی اور اکثر عرب ہمالک میں مسلم ہرستل لاء مدنون ہوا اور باضابطہ ہاریان سے منتظر ہو کر نافذ کر دیا گیا۔ لیکن برصغیر ہند و پاکستان میں تنسیخ نکاح سے متعلق ایک غیر مربوط اور مختصر کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الناجزہ کے سوانح کوئی باضابطہ علمی کوشش نہیں کی گئی۔

اس ناجیز نے ”فقہ اسلامی کی تدوین جدید“ کے منصوبے کے تحت ”مجموعہ قوانین اسلام“ کی تالیف کا جو کام گزشتہ پانچ سال قبل ۱۹۶۳ع میں شروع کیا تھا وہ محمد اللہ بر صغیر ہند و پاکستان میں بنظر استحسان دیکھا گیا۔ یہ امر موجب اطمینان ہے کہ مؤلف کی ناجیز مساعی بار آور ہو رہی ہیں۔ اور انشاء اللہ العزیز وہ دن دور نہیں، جب پاکستان میں شخصی قانون مسلمانان (مسلم پرستل لاء) کو مکمل آئینی اور قانونی صورت دینے کے لیے مرکاری سطح پر ضابطہ بند (codify) کیا جائے گا تو یہ ”مجموعہ“ ملک کی وزارت ہائے قانون اور قانون ساز اداروں کے لیے رو نما اور مددگار ثابت ہو گا۔

ام سے قبل مجموعہ هذا کی دو جلدیں اشاعت پذیر ہوچکی ہیں۔ پہلی جلد میں تکاح، سہر اور ننقة روجہ اور دوسرا جلد میں طلاق و عدالتی تفہیق، خلع مبارات، ظہار، ایلاء و لعن اور عدت سے متعلق قوانین اسلامی کو مدون شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں جملوں میں مندرجہ بالا موضوعات پر ۱۳۲ دفعات مرتب کی گئیں۔ اس جلد میں ۵۸ دفعات ہیں۔ اس طرح دفعات کی کل تعداد ۲۰۰ ہو جاتی ہے۔ یہ اور آئندہ مرتب کی جانے والی دفعات انشا اللہ ایک خاکہ کے طور پر پاکستان میں اسلامی قانون سازی میں مدد و معاون ثابت ہوں گی۔

جلد هذا حسب ذيل پانچ ابواب پر مشتمل ہے :

- (١) نسب اولاد (٢) حضانت (٣) نفقة اولاد و آباء و اجداد
 (٤) هبة ، اور (٥) وقف -

حسب سابق مجموعہ هذا کی ترتیب و تدوین کے دوران اس امر کو بطور خاص پیش نظر رکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور مستند فقیہی کتب سے استفادہ کے ساتھ ہی پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں کا بھی ذکر کیا جائے کیونکہ موجودہ عہد میں اسلامی قانون کے مختلف پہلوؤں کی جس الداڑ سے تعبیر کی جا رہی ہے اس کی جھلکیاں ان فیصلوں میں یقیناً نظر آتی ہیں۔

قوالین اسلام کی تدوین جدید کی اس کوشش میں بھر کسی حد تک کامیاب حاصل

ہوفی ہے اس کا صحیح فیصلہ قارئین کرام ہی کر سکتے ہیں لیکن میں اس قدر عرض کرنے کی ضرور جرأت کروں گا کہ میں نے ان تالیفات کے ذریعہ مذہب اسلام ، اسلامی جمہوریہ پاکستان ، عالم اسلامی ، ادب اور اردو زبان کی حقیر خدمت بجا لانے کی پر خلوص کووشش ضرور کی ہے۔

دعائیں دین مرے بعد آنے والے میری وحشت کو
بہت کانٹے نکل آنے مرے ہمراہ متزل سے

یہ جلد ، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ، پانچ ابواب پر مشتمل ہے - ذیل میں
ہر باب سے متعلق چند سطور بطور اجمال قلم بند ہیں ۔

اکیسوائیں باب :

یہ باب نسب اولاد کے موضوع پر مشتمل ہے اس باب میں اہم مسئلہ زائد سے
زائد مدت حمل کا ہے ۔ اسلامی قانون میں زائد سے زائد مدت حمل کے بارے میں تین
نظریے میرے مطالعہ میں آئے ۔ پہلا نظریہ حضرت عائشہ کی روایت پر مبنی ہے جس میں
حمل کی زائد سے زائد مدت دو سال بیان کی گئی ہے ۔ دوسرا نظریہ امام مالک ، امام شافعی
اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ اور چند تابعین کے اقوال پر مبنی ہے جس میں
انتہائی مدت حمل چار سال سے سات سال تک بیان کی گئی ہے اور تیسرا نظریہ طبی
خبریات اور عام مشاهدات پر مبنی ہے جس کی متابعت میں عرب مالک میں انتہائی مدت
حمل ایک سال قرار دی گئی ہے جو دراصل قیاس پر قائم ہے ۔ راقم الحروف نے انتہائی
غور و فکر نیز متعدد علماء و اطباء سے مشورے کے بعد پہلے نظریہ کو راجح قرار دیا اور
اس پر متعلقہ سوالیں کی بنياد پر کھھی ۔ اس کی چند در چند وجہوں ہیں ：

- 1 - حضرت امام مالک اور شافعی اور زہری وغیرہ کے جو اقوال ہم تک پہنچیں
ہیں ان میں مدت حمل ۲ سے لے کر ۷ سال تک بیان کی گئی ہے جو انتہائی نادر الوجود
ہے ۔ نیز اس کی بنياد خود ان حضرات کے اپنے مشاهدات یا اس زمانہ میں پیش آنے
والے واقعات پر ہے ۔ اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی روایت ایک صحایہ کا مستند

قول ہے۔ اکثر ائمہ حدیث و فقہ اس امر میں متفق ہیں کہ صحابی کے قول پر حکم شرعی کی بنیاد رکھنا قیاس کے مقابلے میں واجب ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے احکام شرعی کے اصول استخراج کے بارے میں ابن عبدالبر نے سفیان ثوری سے روایت کی کہ ”سفیان ثوری نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ میں حکم شرعی کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کو لیتا ہوں، جب میں کتاب اللہ میں حکم شرعی نہیں پاتا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتا ہوں۔ اور جب میں کتاب و سنت میں حکم شرعی نہیں پاتا تو صحابہ رسول کے قول کو لیتا ہوں۔ اور اگر صحابہ کے متعدد اقوال ہوں اور ان میں باہم اختلاف ہو تو میں جس صحابی کے قول کو چاہتا ہوں اختیار کرتا ہوں اور جس صحابی کے قول کو چاہتا ہوں اختیار نہیں کرتا۔ لیکن میں ان (صحابہ) کے قول سے غیر صحابہ کے قول کی طرف نہیں جاتا۔“ (الانتقاء مطبوعہ مصر صفحہ ۱۱۲) یعنی امام ابو حنیفہ کتاب و سنت کے بعد قول صحابی کو حکم شرعی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی مسئلہ میں کتاب و سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہو مگر صحابی کا قول موجود ہو تو امام ابو حنیفہ کے تزدیک وہ حجت ہوگا اور کسی غیر صحابی کا قول یا رائے قابل اعتبار نہ ہوگی۔

امام قرشی نے بھی الجواہر المضیۃ کے حاشیہ میں فرمایا ہے کہ ”جب کسی مسئلہ میں حدیث صحیح وارد ہوتی تو امام ابو حنیفہ اس حدیث صحیح کا اتباع فرماتے اور (حدیث صحیحہ کی غیر موجودگی میں) اگر صحابہ یا تابعین کی کوئی روایت موجود ہوتی تو اس کا اتباع فرماتے تھے (حدیث صحیح یا قول صحابہ یا تابعین نہ ہونے کی صورت میں) قیاس سے کام لیتے تھے۔ اور قیاس بھی وہ جو احسن یعنی سب سے بہتر ہو۔ اور کسی صحابی کے قول سے حجت لانا اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں قیاس کو دخل نہ ہو۔ نیز امام سرخسی نے اپنی کتاب ”اصول“ (مطبوعہ حیدرآباد دکن جلد ۴ صفحہ ۱۱۰) میں لکھا ہے کہ ”ہمارے اصحاب متقدمین اور متأخرین میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی ایک صحابی کا قول ہمارے نزدیک حجت ہے اور اس معاملے میں معرفت حکم شرعی کے لیے قیاس کو دخل نہیں ہو سکتا۔ اور بھی صورت

مقداری کے معاملے میں ہے جن کو رائٹے سے نہیں پہچانا جاسکتا۔ اس سبب سے ہم نے حضرت علی کا قول کہ مہر کی کم از کم مقدار دس درهم ہے اختیار کر لیا۔ نیز حضرت انس کے قول کو کہ حیض کی کم سے کم مدت تین یوم اور زائد سے زائد دس یوم ہے، اختیار کیا، نیز عثمان بن ابی العاص کے قول کو کہ نفاس کی مدت چالیس یوم ہے اور حمل کی زائد سے زائد مدت کے بارے میں حضرت عائشہ کا قول کہ اس کی زائد سے زائد مدت دو سال ہے اختیار کر لیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص ان (صحابہ) کے بارے میں یہ گان نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے قول میں ہرزو سوانی کریں گے۔ چنانچہ یہ اس جائز نہیں ہے کہ ان (صحابہ) کے قول کو حکم شرعی کے مقابلے میں کذب (جهوٹ) پر محمول کیا جائے۔

امام سرخسی نے اس قاعدة شرعی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”شریعت کا طریقہ ان نصوص کے ذریعہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ انھیں صحابہ کے ذریعہ پہنچا ہے چنانچہ ان کے قول کو جھوٹ پر محمول کرنے میں ان کی ذات اور قول کا فسق کے ساتھ (ثابت ہونا) لازم آتا ہے۔ اور یہ اس ان کی روایت کو باطل کرتا ہے۔ لہذا اب جو امر باق رہا وہ یا تو صحابہ کی رائٹے ہے یا اس ذات سے ساعت پر مبنی ہے جس پر وحی نازل ہوئی تھی۔ اس باب میں (احکام شریعت میں) رائٹ کو دخل نہیں، اس لیے صحابی کے قول کا ساعت پر مبنی ہونا متعین ہو گیا۔ چنانچہ اس صحابی کا فتویٰ ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کا درجہ پا گی۔“

علامہ بزدیو نے انہی کتاب اصول البردی (طبعہ کراچی) کے باب ”متابع الصحابہ“ میں لکھا ہے کہ ”بردعی نے کہا ہے کہ صحابی کی تقليد واجب ہے اور اس کی بناء پر قیاس کو ترک کیا جائے گا۔“ (صفحہ ۲۳۱) اور ”امام سرخسی نے کہا ہے کہ صحابی کی تقليد واجب نہیں ہے مگر اس مسئلے میں جس میں قیاس کے ذریعہ حکم شرعی کا ادراک نہیں کیا جا سکتا“ (صفحہ ۲۳۲) پھر علامہ بزدیو نے کہا ہے کہ ”بہر حال جس مسئلے کو قیاس کے ذریعے متعین نہیں کیا جا سکتا اس مسئلے

میں صحابہ کے قول پر عمل لازمی ہو گیا اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے واقفیت پر محمل کیا جائے گا ، کیونکہ صحابی کے لیے اس قول کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی الیہ کہ وہ (قول) جھوٹ تصور کیا جائے اور یہ تصور کرنا باطل ہے - اس لیے اس قول پر عمل کرنا لامحالہ واجب ہو گیا - (صفحہ ۲۳۶) ۔

چنانچہ یہ مسئلہ اصول حدیث اور فقہ کے اکثر ائمہ کے نزدیک متفق ہے کہ ایسے امور میں جن کا تعلق حکم شرعی تقدیری سے ہو صحابی کا قول اجتہاد کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سہاعت پر مبنی خیال کیا جائے گا - اگر اس اصول سے اختلاف کیا جائے تو پھر مستند موقفہ اور مراسله احادیث کے سارے ذخیرے سے دست بردار ہونا لازم آئے گا - اور اس طرح وہ فقہی مسائل جو ان احادیث موقفہ یا مرسلہ سے مستخرج ہیں ، ان کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی ۔

۴ - بعض عرب مالک میں راجعِ الوقت قوانین کے تحت انتہائی مدت حمل ایک سال قرار دی گئی ہے مگر اس کی بنیاد طبیب شرعی کے قتوے ، شواهد اور دوسرے پیش آئے والی واقعات پر ہے جو متغیر اور متبدل ہوتے رہتے ہیں - لہذا قطعی طور پر یہ حکم کیونکر لکایا جا سکتا ہے کہ ایک سال سے زائد میں پیدا ہونے والا بھی جائز النسب نہ ہو گا ؟ جب کہ ایسی مثالیں کم از کم خود اطباء کے علم میں آئی ہیں کہ بچہ ۱۳ ماہ ، ۱۱ ماہ یا ۲۱ ماہ میں پیدا ہوا ہے - البته راقم العروف نے دو سال انتہائی مدت حمل کے ساتھ چند قیود و شرائط کا بھی ذکر کیا ہے - مثلاً یہ کہ قرآن حمل ہوں اور شوہر یا اس کے ورثاء انکار و تکذیب نہ کریں نیز یہ کہ معتدہ طلاق یا وفات ہونے کی صورت میں عورت نے اپنی عدت گورنے کا اقرار نہ کیا ہو ۔

۵ - حمل کی کم سے کم مدت چہ ماہ ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے - اور حمل کا چہ ماہ میں پیدا ہونا نو اور دس ماہ کے مقابلے میں بقیانा نادر الوجود بلکہ اندر الوجود ہے - لہذا انتہائی حمل کی مدت دو سال مقرر کرنے میں حضرت عائشہ کی روایت کی بناء پر محض اس مدت کے نادر الوجود ہونے پر کیوں کر تعجب کیا جا سکتا ہے ؟

یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عائشہ کا قول امام مالک کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور فرمایا کہ ”کون شخص کہہ سکتا ہے کہ حمل کی انتہائی مدت دو سال تک ہے؟“ چنانچہ اگر یہ قول حق ہوتا تو امام مالک یہی اپنی رائے سے مدت حمل چار سال نہ فرماتے۔ اس کا ایک سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ امام منک و شافعی کا قول ہے سال تک کا ہے جو اگر دو سال آخری مدت حمل قرار دینے کے خلاف ہے تو ایک سال قرار دیے جانے کے بدرجہ اولیٰ خلاف ہے۔ و الله اعلم

ٹیسوان باب :

یہ باب حضانت اولاد سے متعلق ہے اس میں عدالتون کے استنباط کردہ اس اصول کو شرعاً درست قرار دیا گیا ہے کہ حضانت میں بنیادی امر ”بیہ کی بہبود“ ہے نیز یہ کہ باب کے مقابلے میں ایک مدت تک ماد اور مادری رشتہ داروں کا حق فائق ہے۔ البتہ اس ضمن میں پاکستان میں کوئی جامع قانون موضوعہ (statute law) موجود نہ ہونے کے سبب بعض اوقات جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کے حل کے لیے ایک منفصل قانون بنانے کی طرف توجہ دلانی کئی ہے۔

ٹیسوان باب :

یہ باب نفقة اولاد اور آباؤ اجداد پر مشتمل ہے۔ جلد اول میں نکاح و سهر کی متناسب سے نفقة زوجہ سے متعلق شرعی احکام بیان کیے جا چکے ہیں۔ نفقة اولاد و آباء و اجداد کے سائلے میں بھی کوئی قانون موضوعہ موجود نہ ہونے کے سبب بعض اوقات عدالتون کو پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر بھی قانون سازی کی طرف توجہ دلانی کئی ہے۔

ایک اور اہم بات جس کی طرف اس باب میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مرد پر غیر صحیح النسب (ناجائز) اولاد کے نفقة کی ذمہ داری کا اطلاق ہے۔ پاکستان میں راجعِ الوقت قانون (دفعہ ۸۸۸ خابطہ فوجداری) کے تحت ایک مرد کو غیر صحیح النسب اولاد کا

نفقہ دینے پر قانوناً مجبور کیا جا سکتا ہے، جب کہ از روئے شرع اسلام باب صرف اپنی صحیح النسب اولاد کے نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قانون کو ترمیم کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔

جوہسوان باب :

یہ باب ہے پر ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مختلف فیہ مسئلہ ہے تفضیلی کا ہے۔ ہبہ تفضیل اس ہے کو کہتے ہیں کہ ہبہ کرنے والا بلا مصلحت شرعی کسی اجنبی کو کل جائز داد ہبہ کر دے یا اولاد میں سے ایک یا بعض کو اس طرح ہبہ کرے کہ دوسرے ورثاء کا حق (بلا مصلحت شرعی) متاثر ہوتا ہو۔ اس مسلسلے میں احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مساوات اولیٰ ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو قانوناً جائز ہوگا البتہ ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ اپنی خالص ملکت میں تصرف کرتا ہے جس کا وہ مجاز ہے۔ طاؤس، احمد بن جنبل، اسحق بن راہویہ، امام بخاری، اور بعض مالکیہ ایسے عہدے کو ناجائز کہتے ہیں۔ امام شافعی اور حضرات شیعہ امامیہ، حنفیہ سے متفق ہیں۔ امام مالک اور امام ابن حزم الظاهری ہبہ تفضیلی کے سخت مخالف ہیں اور اسے باطل قرار دیتے ہیں۔ راقم الحروف نے پورے غور و فکر کے بعد "بلا مصلحت شرعی" ایک تہائی سے زیادہ جائز داد و املاک کے ہبہ تفصیلی کو جو کسی شرعی مصلحت پر مبنی نہ ہو قابل ابطال قرار دیا ہے۔ (دفعہ ۱۷۲) - مجھے اس مسئلے میں شدید اختلاف رائے کا اندیشہ ہے، لیکن توقع ہے کہ علماء کرام مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے وقت موجودہ معاشرے کو اپنی نظروں سے اوچھل نہ ہونے دیں گے۔

جوہسوان باب :

اس باب میں "وقف" کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ وقف کے باب میں دو اہم مسئلے سائنس آئے ہیں۔ ایک وقف کے لازماً دوامی ہونے کا اور دوسرا وقف علی الاولاد کا۔ سصر و لبنان میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں مسجد کے لیے وقف کے علاوہ جو وقف خیراتی مقاصد کے لیے کیا جائے کا وہ دوامی یا غیر دوامی

ہو سکتا ہے ، اور دونوں طرح درست ہوگا۔ لیکن وقف علی الاولاد کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ وہ دوامی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کی زائد سے زائد مدت ۶۰ سال یا وقف کے بعد دو پشت تک ہوگی۔ اس کے بعد وہ وقف ساقط ہو جائے گا۔ اور جاندار ورثاء میں بعچہ شرعی تقسیم ہو جائے گی۔ میں نے وقف علی الاولاد کے مسئلے میں جدید نقطہ نظر کو اختیار کرنے یا رد کرنے سے متعلق کسی نتیجے ہر پہنچنے کے لیے کتاب کی تدوین کے آخری مرحلے تک غور و خوض کیا لیکن کوئی حتیٰ فیصلہ نہ کر سکا۔ اس لیے اس باب میں حنفی مسلک کے بموجب احکام کی تدوین پر اکتفا کیا گیا ہے۔ حنفی مسلک کو اس خدشے کے پیش نظر منتخب کیا گیا کہ عجلت میں مرجوح نقطہ نظر اختیار کر کے اگر کوئی تجویز پیش کر دی گئی تو مبادا اسلامی قانون وقف میں اخلاق واقع ہو جائے۔ چنانچہ احکام وقف کو، جیسا کہ وہ حنفی فقہ کی انتہائی مستند کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، جدید قانونی انداز میں مرتب اور مدون کر دیا گیا ہے۔

یہاں یہ اشارہ کرنا غیر ضروری نہ ہوگا کہ ہماری دونوں صوبائی حکومتوں نے اپنے اپنے وقف آرڈی نیشنوں (۱۹۶۱ع اور ۱۹۶۲ع) کے ذریعہ اوقاف عامہ کا انتظام و انصرام، جن کو محکمة اوقات اپنی تحويل میں لے لیے، اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یہ ایک مناسب اقدام ہے لیکن آرڈی نیشن مذکور بنیادی طور پر انتظامی امور سے متعلق ہے۔ مناسب ہوگا، اگر محکمة اوقاف بالغ نظر علماء کرام اور فقه اسلامی سے مناسب رکھئے والے ماهرین قانون پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل دے اور متعلقہ حکومت کو ایک مکمل اور جامع قانون اوقاف نافذ کرنے کے سلسلے میں مناسب قانون سازی کے لیے سفارشات پیش کرے۔

ایک وضاحت :

مجموعہ هذا کی تالیف کے سلسلہ میں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن پاک و احادیث کے ماسوا، بالعموم عربی عبارتوں کا لفظی ترجمہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے مطالب و معانی کو اردو کے پڑا یہ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ قاری کے ذہن

میں مطلب بخوبی واضح ہو جائے۔ کیونکہ اگر لفظی ترجمہ کیا جاتا تو عربی زبان کے اسلوب و بیان سے اردو قارئین کی اجنبیت اور اصطلاحات کی بہتان نہ صرف اردو زبان کے حسن بیان اور اسلوب کو متاثر کریں بلکہ یہ اندیشہ بھی تھا کہ قارئین کتاب سے کلچرل استفادہ نہ کر سکیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو بات یا مسئلہ کسی فقیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے وہ صحیح طور پر اردو زبان میں منتقل ہو کر قارئین کے سامنے آگیا ہے یا نہیں۔ کہیں کہیں ایسا بھی ضروری ہوا ہے کہ عبارت کا خلاصہ لی لیا گیا ہے یا غیر ضروری عبارت یا مثالوں کو درمیان سے حذف کر دیا گیا ہے، تاکہ طوالت اور نامانوس مثالوں سے قاری کے ذہن پر بے جا بوجہ نہ پڑے اور اصل مسئلہ الجھ کرنے رہ جائے۔

حوالہ جات کے سلسلہ میں بھی غالباً یہ وضاحت ضروری ہے کہ جن کتابوں کے حوالے زیر نظر تالیف میں دئے گئے ہیں ان کی بڑی تعداد میرے ذاتی کتب خانہ کی ہے لیکن ادارہ کی راولپنڈی منتقلی کے بعد بعض کتابوں کے مختلف نسخے وقتاً زیر مطالعہ رہے اس لیے کتاب کے سنه طباعت کی صراحة کا حتی الامکان خیال رکھا گیا ہے مثلاً رد المحتار اور فتاویٰ عالمگیری کی تین اشاعتیں ایک مصری اور دو هندوستانی نیز شرائع الاسلام کی دو اشاعتیں ایک تہران اور دوسری بیروت کی یا المغنى کی دو مصری اشاعتیں مختلف اوقات میں زیر مطالعہ رہیں۔

الحمد لله کہ مجموعہ هذا کی تین جلدیں شائع ہو گئیں۔ آئندہ جلدیں ”وصیت“ ”وراثت“ اور ”شفعہ“ (Pre-emption) پر مشتمل ہوں گی۔ ان جلدوں کی اشاعت آئندہ دو برسوں میں مکمل ہو جانے کی توقع ہے۔ اس طرح مسلم پرنسپل لاء (شخصی قوانین مسلمانان) کی حد تک قوانین اسلام کی تدوین جدید کے منصوبہ کا ایک سیکشن ۱۹۴۰ع تک مکمل ہو جائے گا۔ انشاء اللہ

حرف سپاس :

آخر میں جانب جسٹس ایس۔ اے۔ رحمن صاحب، سابق چیف جسٹس پاکستان،

اور جناب جسٹس وجد الدین احمد صاحب، چیف جسٹس مغربی پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کتاب کے سودے کو دیکھا اور اپنی تکاریات سے نوازا۔ ناسیاں ہوئی اگر میں جناب ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب سابق ڈائیکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی اور جناب مقی امجد العلی صاحب، سابق استاذ الحدیث مدرسہ مطلع العلوم، رام بور کا شکریہ ادا نہ کروں۔ مقی صاحب قبلہ نے متعدد مقامات پر بالخصوص ہبہ تفصیلی کے مسئلے میں میری رو نہائی فرمائی، اس کے لیے میں ان کا بے حد منون ہوں۔ نیز امان علی نقوی صاحب کا بھی منون ہوں جنہوں نے دلچسپی کے ساتھ جلد دوم و سوم کے تفصیلی اشاریے مرتب کیے۔ ”فجزاهم اللہ تعالیٰ احسن العزاء فی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ“۔

اور حقیقت میں تو سب سے زیادہ شکریہ کی مستحق وہ ذات پاک ہے جس نے مجھے جسے کم علم و بے مایہ شخص کو اسلام کی اس خدمت کے لیے چنا اور میرے قلب و دماغ کو امن کام کی لگن سے معمور اور دنیا کی تمام تر دلچسپیوں سے بے نیاز کر دیا۔ *ومَا تَوْفِيقٌ لِّإِلَّا إِلَهٌ*

مَنْتَ مَنْهُ كَمْ خَدَمَ سُلْطَانَ هُمِينَ كَنْتَ
مَنْتَ شَنَسَ اَزَوْ كَمْ بَخَدَمَ بَدَاشَتَ

واسأَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوقَنَّى وَمَنْ أَعْانَنِي لِلْخَيْرِ وَيُعَيْنَى مِنْ شَرَوْرِ نَفْسِي ،
وَسَيَّاتِ أَعْمَالِي ، وَيُجْعَلَنِي سَعْيَ خَالِصًا لِوَجْهِ الْكَرَيمِ -

بنده حیر
تزلیل الرحمن

۲۱ نومبر ۱۹۶۸ع
حیب سکوائز، کراچی۔

متن دفعاتِ قوانین

نسب اولاد حضانت

نفقة اولاد هبہ

اور وقف

قانون نسب اولاد

متن (Text)

اکیسوال باب

۱۲۳ - نسب اس قانون تعلق کا نام ہے جو مرد اور عورت کے درمیان عقد شرعی کے نتیجہ میں تولید کے بعد اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔

نسب کی تعریف

۱۲۴ - نسب کی دو اقسام ہیں :

(۱) پدری - (۲) مادری -

اقسام نسب

۱۲۵ - نسب سے ولایت ذات و جالداد ، نفقة اور وراثت و وصیت سے متعلق حقوق اور ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔

نسب کے اثرات

۱۲۶ - (۱) جائز النسبی کے لیے عقد شرعی کے بعد حمل کی کم از کم مدت چہ ماہ ہوگی۔

جازز النسبی

(۲) جائز النسبی کے لیے حمل کی زائد سے زائد مدت دو سال ہوگی بشرطیکہ قرائیں حمل ہوں اور شوہر یا اس کے ورثاء انکار و تکذیب نہ کریں ، الیہ کہ اس عرصہ میں زوجین کو کسی وقت بھی ایک دوسرے سے ملنے کا ایسا موقع نہ ملا ہو کہ حمل قرار پا سکتا۔

(۳) زوجہ کے معتدلة طلاق یا وفات ہونے کی صورت میں اس نے القضاء عدت کا اقرار نہ کیا ہو ، الیہ کہ شوہر یا اس کے ورثاء دو سال کے بعد بھی مولود کا دعویٰ کریں۔

(۴) بصورت اقرار انقضائے عدت ، حمل کی زائد سے زائد مدت وقت اقرار سے (۱۸۰) یوم اور وقت فرقہ یا موت سے دو سال ہوگی۔

توضیح : مدت کے تعین کے لیے قمری ماہ و سال کا اعتبار کیا جائے گا۔

ب

ثبوت نسب
بذریعہ دعویٰ

۱۴۷ - جب کسی مرد اور عورت میں بلا شک و شبہ ازدواجی تعلق (خواہ صحیح ہو یا فاسد) مشہور اور معروف طریقے پر قائم ہو کر شرع اسلام کے مقرہ اصول کے مطابق بھی کہ پیدائش ہوئی ہو تو بحکم شرعی بھی صحیح النسب کہلانے گا۔

ثبوت نسب
بذریعہ دعویٰ

۱۴۸ - کسی مرد اور عورت میں شریعت اسلامیہ کے مطابق ازدواجی تعلق قائم ہو کر بھی کہ صحیح النسبی بذریعہ دعویٰ ثابت ہو سکتی ہے۔

نسب بذریعہ
شهادت

۱۴۹ - بھی کہ صحیح النسبی کا قیاس ان حالات سے کیا جا سکتا ہے جن سے اس کے والدین میں نکاح کا ہونا قیاس کیا جا سکتا ہو :

(الف) کسی مرد اور عورت میں ازدواجی تعلق قائم ہو کر شریعت اسلامیہ کے مقرہ اصول میں شک و شبہ کے احتیال کے ساتھ بھی کہ پیدائش ہوئی ہو تو اس کا نسب بذریعہ حجت ظنی (شهادت و قیاس) ثابت کیا جا سکتا ہے۔

(ب) قیام نسب کے سلسلے میں شرعی اثبات کے تمام وسائل قبول کئے جائیں گے۔

۱۵۰ - جب کسی بھی کا نسب غیر متعین ہو تو شرع اسلام کے مطابق اقرار کے ذریعہ نسب ثابت کیا جا سکے گا۔ مگر لازم ہے کہ اس اقرار کا اثر، سوائے مان باب اور بھی کے، دیگر اشخاص پر ان کی تصدیق کے بغیر نہ پڑے گا۔

اقرار بالنسب
سے (جوج)

۱۵۱ - اقرار بالنسب جو بے پابندی احکام شرع کیا جائے ناقابل رجوع ہو گا۔

متبنی بنانا

۱۵۲ - اسلام میں کسی کو متبنی بنانا بہ لحاظ احکام شرع ہے اثر ہو گا۔

قانون حضانت

متن (Text)

بائیسوال باب

۱۵۳ - سات سال سے کم عمر لڑکے اور تا حد بلوغ لڑکی کی حضانت کا حق مان کو حاصل ہوگا الیہ کہ کسی سبب سے شریعت نے اس کو غیر مستحق قرار دیا ہو :

پرورش کا حق

مگر لازم ہے کہ حق حضانت میں مجھے کی فلاح و بہبود اور حفاظت کا لحاظ رکھا جائے ۔

۱۵۴ - مان کے نہ ہونے یا اپنے حق سے دست بردار ہو جانے یا شرعاً رشتہ دار عورتوں کا حق اور نابالغ لڑکیوں کی حضانت کا حق مفصلہ ذیل رشتہ دار عورتوں کو علی الترتیب حاصل ہوگا :

نانی (پرنسپیل بھی شامل ہے) ، دادی (پردادی بھی شامل ہے) ، حقیقی بہن ، اختیاف بہن ، علاقی بہن ، حقیقی بہن کی بیٹی ، اختیاف بہن کی بیٹی ، علاقی بہن کی بیٹی ، خالہ اور بھوپہی ۔

۱۵۵ - جب کہ حضانت کی مستحق عورتوں میں سے کوئی موجود نہ ہو یا اس کے لیے آمادہ نہ ہو یا اس کا حق ساقط ہو گیا ہو تو پھر مردین کو بھی ترتیب عصوبت حضانت کا حق ہوگا ۔

۱۵۶ - مجھے کی پرورش کرنے والی کے لیے لازم ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور مجھے کی مناسب پرورش پر قادر ہو اور اس میں کوئی ایسا امر مانع موجود نہ ہو جو اسے مجھے کی حضانت کے ناقابل بنادے ۔

مردین کا حق حضانت

بھوپہی کی پرورش کرنے والوں کی شرائط

۱۵۷ - مان کا ترجیحی حق حضانت کسی ایسے اجنبی سے نکاح کر لیتے سے ساقط ہو جائے گا جو مجھے کا محروم نہ ہو الیہ کہ عدالت کی رائے میں نابالغ کا اپنی مان کی حضانت میں رہنا اس کی بہبود میں ہو ۔

مانیں کب ناقابل حضانت قرار ہاتھیں

قانون نفقہ اولاد

متن (Text)

تیسیواں باب

۱۵۸ - باب اپنے بیٹوں کے بالغ ہو جانے تک اور بیٹیوں کے نکاح ہو جانے تک حسب استطاعت نفقہ دینے کا ذمہ دار ہوگا۔

اولاد کے نفقة
کی ذمہ داری

۱۵۹ - باب صرف صحیح النسب اولاد کے نفقہ کا ذمہ دار ہوگا۔

اولاد کا

صحیح النسب

ہونا ضروری ہے

۱۶۰ - (۱) باب کے مفلس ہونے کی صورت میں اولاد کے نفقہ کی ذمہ داری بشرط مقدرت مان پر ہوگی۔

مان اور دادا کی

ذمہ داری

(۲) والدین کے مفلس ہونے کی صورت میں اولاد کے نفقہ کی ذمہ داری بشرط مقدرت ان کے دادا پر عائد ہوگی۔

آبا و اجداد
کا نفقة

۱۶۱ - اولاد پر اپنے حاجت مند آباء و اجداد کو نفقہ دینا واجب ہے۔ خواہ وہ اس کے ہم مذہب نہ ہوں۔

دیگر رشتہ داروں
کا نفقة

۱۶۲ - مسلمان رشتہ داروں پر واجب ہے کہ اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو جن سے میراث کا باہمی تعلق ہو، حسب قاعدة وراثت نفقہ دیں۔

قانون ہبہ

متن (Text)

چوبیساں باب

۱۶۳ - ایک شخص کا دوسرا سے شخص کی طرف کسی جائزہ متعلقہ یا غیر متعلقہ کا فوری اور بلا معاوضہ منتقل کرنا اور اس دوسرا سے شخص کا خود یا اس کی طرف سے کسی اور صاحب مجاز کا اس شے میوہبہ کو قبول

ہبہ کی تعریف

ہبہ

کر لینا ہبہ کہلاتا ہے :

مگر شرط یہ ہے کہ واہب (ہبہ کرنے والا) موہوبہ (ہبہ کی ہوئی)
جائداد کے حق ملکیت اور اس پر اختیارات سے کلیتاً دستبردار ہو جائے۔

۱۶۴ - ہبہ ایک عقد ہے جو ایجاد و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے۔

العقد ہبہ

۱۶۵ - انعقاد ہبہ کے لیے شہادت لازم نہیں۔

شہادت ہبہ

۱۶۶ - ہبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہبہ کرنے والا
ہبہ کی ہوئی جائداد کا قبضہ موہوب لہ کے حوالے نہ کر دے۔

ہبہ کی تکمیل

استثناء : جن اشیاء کا قبضہ نہیں دیا جا سکتا ان کے ہبہ کی تکمیل
واہب کے کسی ایسے فعل سے ثابت ہو جائے گی جس سے صاف طور پر یہ
 واضح ہوتا ہو کہ وہ جائداد کے حق ملکیت سے دست بردار ہو گیا ہے۔

۱۶۷ - ہر عاقل و بالغ شخص بمتابعت احکام دفعہ ۱۷۲ مجموعہ هذا
اپنی جائداد منقولہ و غیر منقولہ کسی دوسرے شخص کو بذریعہ ہبہ
منقل کرنے کا عجائز ہے :

اہلیت ہبہ

مگر لازم ہو گا کہ وہ شخص جس کے حق میں ہبہ کیا جائے وجود
میں آچکا ہو :

مزید لازم ہو گا کہ ہبہ بحالت مرض الموت یا دالنام کے حق کو
متاثر کرنے یا فریب دھی کی نیت سے نہ ہو۔

۱۶۸ - ہر ایسی شے کا ہبہ جائز ہو گا جس پر لفظ مال یا قیمتی جائداد
کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

کن اشیاء کا ہبہ
جائزو ہے

۱۶۹ - جو ہبہ حسب شریعت اسلام کیا جائے اس کا تعریری ہونا
لازمی نہیں ہے۔

ہبہ کا تعریری
ہونا ضروری نہیں

۱۷۰ - (۱) ایسی جائداد مشاع کا ہبہ جائز ہے جو ناقابل تقسیم ہو

مشاع کا ہبہ

مجموعہ قوانین اسلام

لیکن اگر مشاع قابل تقسیم ہو تو ہبہ فاسد ہو گا۔

(۲) جائداد مشاع کا ہبہ، اگرچہ وہ قابل تقسیم ہو، بلا تقسیم وقت ہبہ سے مفصلہ ذیل صورتوں میں جائز متصرور ہو گا :

(الف) جب کہ ہبہ ایک وارث دوسرے وارث کے حق میں کرے۔

(ب) جب کہ ہبہ زمینداری یا تعلقداری کے ایک حصے کا ہو۔

(ج) جب کہ ہبہ ایسی جائداد قابل وراثت کا ہو جو کسی بڑے تجارتی شہر میں واقع ہو۔

۱۷۱ - قابل تقسیم جائداد کا دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے نام بغیر تقسیم ہبہ سوانح ان صورتوں کے جن کا ذکر دفعہ ۱۷۰ (۲) میں کیا گیا ہے فاسد ہو گا۔ اگر ہر ایک موهوب لہ جائداد کے اس حصے پر جو اسے دیا گیا ہے قابض ہو جائے تو وہ ہبہ صحیح ہو گا۔

دو یا دو سے
زیادہ اشخاص
کے نام ہبہ

۱۷۲ - (۱) واہب اس کا مجاز نہ ہو گا کہ اپنی کل یا تھانی سے زائد جائداد و املاک بمحالت صحت کسی غیر وارث یا اپنی کسی مخصوص اولاد کے حق میں دوسری اولاد کو ضرر پہنچانے کی نیت سے ہبہ کرے الیا یہ کہ اس کا تفضیلی عمل مصالح شرعی پر مبنی ہو۔

ہبہ تفضیلی

(۲) ہبہ تفضیلی کسی مصلحت شرعی پر مبنی نہ ہونے کی صورت میں قابل ابطال (voidable) ہو گا اور اولاد محروم بمتابعت احکام مندرجہ دفعہ ۱۷۹ اس ہبہ کو بذریعہ عدالت باطل قرار دلانے کی مجاز ہو گی۔

(۳) عدالت اس اطمینان کے بعد کہ واہب کے تفضیلی عمل کے لیے کوئی شرعی مصلحت موجود نہ تھی واہب کو بمتابعت احکام مندرجہ دفعہ ۱۷۹ اس ہبہ سے رجوع کا حکم دے گی۔

(۴) واہب کے فوت ہو جانے کی صورت میں شے مسوہبہ بمتابعت

احکام مندرجہ دفعہ ۱۷۹، متوفی کے ترکہ میں شمار ہوگی اور بمحض قانون وراثت، عمل درآمد کیا جائے گا۔

(۵) دفعہ هذا سے ہبہ بحالت مرض الموت یا ہبہ بالوصیت کے شرعی احکام متاثر نہ ہون گے۔

ہبہ تا حین حیات ۱۷۳ - (۱) ہبہ حین حیات جائز ہے۔

(۶) جو شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی شے تا حین حیات ہبہ کرے تو وہ شے موهوب لے کے لیے اس کی حیات تک ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی قوارار پانے گی اور تا حین حیات کی شرط باطل قرار پانے گی۔

ہبہ رقبی ۱۷۴ - ہبہ رقبی ناجائز ہے۔

ہبہ بالعوض ۱۷۵ - جب کوئی ہبہ معاوضہ کے ساتھ کیا جائے تو وہ ہبہ بالعوض کھلانے گا جو حصول عوض کے بعد نافذ متصور ہوگا۔

ہبہ بشرط عوض ۱۷۶ - جب کوئی ہبہ معاوضہ کی شرط کے ساتھ کیا جائے تو وہ "ہبہ بشرط عوض" کھلانے گا۔ ایسا ہبہ شرط عوض کی تکمیل پر نافذ ہوگا۔

ہبہ موقوف ۱۷۷ - ایسا ہبہ ناجائز ہوگا جس کا نفاذ کسی آئندہ وقت کے لیے ملتوى کر دیا گیا ہو، سوائے ہبہ بالوصیت کے۔

ہبہ مشروط ۱۷۸ - جب ہبہ کے ساتھ کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جو اس کی تکمیل میں نقص پیدا کرے ہو تو وہ شرط كالعدم ہے اور ہبہ کا نفاذ اس طرح ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔

ہبہ بحالت مرض الموت ۱۷۹ - جو ہبہ بحالت مرض الموت کیا جائے گا اس سے احکام وصیت متعلق ہون گے، بشرطیکہ واهب کی جانب سے جائداد موهوبہ کا فوری اور ناقابل تسبیح انتقال ظاهر ہوتا ہو۔

مجموعہ قوانین اسلام

۱۷۹ - واهب مجاز ہے کہ شے سوہویہ کا قبضہ دینے سے پہلے جس وقت چاہے ہبہ کو منسوخ کر دے۔

توضیح: اگر واهب عقد ہبہ کے بعد مگر قبضہ سے پہلے مر جائے تو مال موہویہ واهب کی میراث میں داخل ہو گا۔

(۲) واهب مجاز ہے کہ شے سوہویہ کا قبضہ دینے کے بعد بھی ہبہ کو منسوخ کر دے، الیہ کہ:

(الف) واهب شوہر ہو اور موہوب لہہ زوجہ یا اس کے بر عکس۔

(ب) موہوب لہہ ذی رحم محروم ہو۔

(ج) موہوب لہہ فوت ہو گیا ہو۔

(د) شے سوہویہ موہوب لہہ کی ملک اور قبضے سے بذریعہ فروخت یا ہبہ یا کسی اور طریقے سے نکل گئی ہو۔

(ه) شے سوہویہ گم یا خائن ہو گئی ہو۔

(و) شے سوہویہ کی ہیئت بدل گئی ہو۔

(ز) کوئی اور شے، شے سوہویہ میں شامل ہو گئی ہو جس کا جدا کرنا ممکن نہ ہو۔

(ح) ہبہ بالعوض ہو۔

مگر لازم ہے کہ قبضہ دے دینے کے بعد بیز حکم عدالت ہبہ منسوخ نہیں کیا جا سکے گا۔

(۳) بمتابعت احکام مندرجہ بالا واهب کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء ہبہ تفضیلی کو بموجب احکام مندرجہ دفعہ ۱۷۲، بذریعہ عدالت منسوخ کرانے کے مجاز ہوں گے۔

۱۸۰ - صدقہ وہ عطیہ ہے جو آخری ثواب کے لیے دیا جائے۔

۱۸۱ - کسی شے کو لینے اور اس سے استفادہ کرنے کی ایسی اجازت جسے دینے والا جب چاہے منسوخ کر دے "عاریت ہے"۔

قانون وقف

متن (Text)

چیزوں پر باب

۱۸۲ - (الف) کسی قیمتی شے کی ذات (corpus of property) کو خدا کی ملکیت میں مقید کر دینا اور اس کی منفعت کو دوسروں پر بے اغراض مذہبی و خیراتی نیک نیت کے ساتھ دائمًا صدقہ کر دینے کا صاف اور صریح اظہار "وقف" کہلاتا ہے۔

(ب) وقف کرنے والے شخص کو "واقف" یا "بانی وقف" کہا جاتا ہے۔

(ج) وقف جس فرد یا جماعت کو فالدہ پہنچانے کی غرض سے کیا جائے اس فرد یا جماعت کو "موقوف علیہ" یا سوقوف علیہم" کہا جاتا ہے۔

(د) جس تحریر کے ذریعہ سے وقف کا اعلان کیا جائے اس کو "وقف نامہ" کہا جاتا ہے۔

(ه) اگر وقف اس شرط کے ساتھ کیا جائے کہ وہ واقف کی وفات کے بعد تقاضہ پذیر ہو تو ایسے وقف کو "وقف بالوصیت" کہا جاتا ہے۔

(و) جو شخص اغراض وقف کے پورا کرنے اور واقف کی هدایات کے مطابق وقف پر عمل درآمد کرنے کے لیے مقرر کیا جائے اس کو "متولی وقف" کہا جاتا ہے۔

۱۸۳ - (۱) ہر ایسے کام سے وقف وقوع میں لا یا جا سکتا ہے جو وقف کے لیے شرعاً مستعمل ہو۔

(۲) اگر کوئی سلطان بحالت صحت و بقائمی ہوش و حواس کسی شے کے بارے میں جو اس کی ملک ہو سوقوفہ ہونے کا اقرار کرے تو وہ شے موقوفہ متصور ہوگی۔

مجموعہ قوانین اسلام

(۳) مريض (بجالت مرض الموت) کا اقرار وقف اس کے ترکہ کی ایک تھائی کے بقدر صحیح ہوگا۔

توضیح : وقف کرنے کے لیے شخص لفظ "وقف" ہی کا استعمال ضروری نہیں۔

جواز وقف ۱۸۴ - وقف کے جواز کے لیے حسب ذیل شرطوں کا ہونا ضروری ہے:

(۱) واقف عاقل ، بالغ اور آزاد ہو -

(۲) وقف کے وقت غیر محجور ہو -

(۳) وقف کے وقت شئے موقوفہ کا مالک ہو -

(۴) وقف کا اعلان نیک نیتی اور حقیقی ارادے کے ساتھ ہو -

(۵) وقف متساوی و صیت فوری ہو اور کسی شرط پر موقوف نہ

ہو الی یہ کہ وہ شرط یقیناً موجود ہو یا موجود ہو جانے والی ہو۔

(۶) شئے موقوفہ معروف اور مشخص ہو -

(۷) بیع یا هبة کرنے کی شرط نہ کی گئی ہو -

(۸) وقف دوامی ہو -

اقرار وقف ۱۸۵ - (۱) اگر کوئی مسلمان بجالت صحت و بقاہی ہوش و حواس کسی شئے کے بارے میں جو اس کے قبضہ ملک میں ہو موقوفہ ہونے کا اقرار کرے تو اس شئے کی نسبت اس کا اقرار صحیح ہوگا اور وہ شئے موقوفہ متصور ہوگا۔

(۲) مريض کا اقرار وقف اس شئے یا اس کے ترکہ سے ایک تھائی کی بقدر (جو بھی کم ہو) صحیح ہوگا اور وہ شئے یا ترکہ کا حصہ موقوفہ متصور ہوگا۔

مقصد وقف ۱۸۶ - جس مقصد کے لیے وقف کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرع اسلام میں مذہبی یا خیراتی یا عمل خیر میں شمار ہوتا ہو۔

ک

وقف

مشاع کا وقف
 ۱۸۷ - جو جائزداد ناقابل تقسیم ہو یا اس کی تقسیم سے اس کی افادیت متأثر ہونے کا خطرہ ہو اس کے غیر منقسمہ حصے کا وقف جائز ہوگا البته قابل تقسیم ہونے کی صورت میں غیر منقسمہ حصہ کا وقف بلا تقسیم جائز نہیں ۔

استثناء : مسجد یا مقبرہ کے لیے مشاع کا وقف ناجائز ہوگا ۔

فرضدار کا وقف
 ۱۸۸ - (۱) اگر واقف کا قرض اس کی تمام املاک پر حاوی ہو تو اس کا وقف کرنا جائز نہ ہوگا ۔

(۲) کسی شخص کا بدنتی سے اپنے قرض خواهان کو ضرر پہونچانے کی غرض سے وقف کرنا درست نہ ہوگا ۔ ایسا وقف قرض خواهان کی جانب سے وقف کا علم ہونے سے تین سال کی مدت کے اندر بذریعہ عدالت منسوخ کرایا جا سکتا ہے ۔ مگر لازم ہے کہ وقف کے وجود میں آجائے کہ ۱۲ سال بعد یہ حق ساقط متصور ہوگا ۔

وقف بالوصیت
 ۱۸۹ - (۱) واقف کی زندگی کے بعد امن کی وصیت کے ذریعہ سے وقف قائم ہو سکتا ہے جس سے احکام وصیت متعلق ہوں گے ۔

(۲) وقف بالوصیت واقف کی موت سے پہلے ہر وقت منسوخ کیا سکتا ہے ۔

۱۹۰ - مرض الموت میں کبھی گئے وقف پر ہبہ بالوصیت کے احکام مرتب ہوں گے ۔

وقف علی الاولاد
 ۱۹۱ - کسی شخص کے لیے جو مذہب اسلام کا پیرو ہو جائز ہوگا کہ وہ کوئی وقف جو شرع اسلام کی شرائط کے مطابق ہو منجملہ دیگر مقاصد کے حسب ذیل مقاصد کے لیے قائم کرے :

(الف) کلیتاً یا جڑاً اپنے خاندان ، اولاد یا نسل کی پرورش کوارے کے لیے ۔

وقف بجالت
مرض الموت

مجموعہ قوانین اسلام

(ب) نیز اگر واقع حق مسلمان ہو تو اپنی زندگی میں خود اپنی بروشو یا گوارے کے لیے یا جائیداد موقوفہ کی آمدنی یا منافع ہے اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے ۔

مگر شرط یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں آخری مفاد ، صراحتاً یا کفایہ ساکین کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے مخصوص کر دیا جائے جو از روئے شرع اسلام مستقل نوعیت کا مذہبی صالح اور خیراتی مقصد تسلیم کیا جاتا ہو ۔

توضیح : کوئی ایسا وقف ، محسن اس وجہ سے ناجائز متصور نہ ہو کا کہ اس کے ذریعہ سے جو مفاد ساکین یا دیگر مستقل نوعیت کے مذہبی صالح یا خیراتی مقصد کے لیے مخصوص کیا جائے وہ واقع کی خاندانی اولاد یا نسل کے منقطع ہو جانے کے وقت تک کے لیے متولی کر دیا کیا ہے ۔

تسبیح وقف
۱۹۲ - جو وقف واقع کی زندگی میں تکمیل پا چکا ہو منسوخ نہ کیا جا سکے گا ۔ البتہ وقف بدزیریعہ وصیت واقع کی موت سے قبل کسی وقت بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے ۔

تولیت وقف
۱۹۳ - (۱) واقع اس کا مجاز ہوگا کہ وقف کی تولیت اپنی ذات یا کسی دیگر فرد یا افراد کے لیے بالترتیب مخصوص کر دے ۔

(۲) تولیت کی عدم صراحت کی صورت میں واقع وقف کا متولی تصور ہوگا ۔ واقع کے بعد تولیت کا حق وصی اور اس کے بعد حاکم وقف کو حاصل ہوگا ۔

اہلیت متولی
۱۹۴ - وقف کی تولیت کا ایسا شخص (خواہ مرد ہو یا عورت) مستحق ہوگا جو عاقل و بالغ ہو ، فسق و فجور کے ساتھ معروف نہ ہو ، ابین ہو اور انتظامی قدرت رکھنے والا ہو خواہ بذات خود یا بتوسط نائب ۔

وقف

۴

متولی کی معزولی
اور تقرر جدید

۱۹۵ - اگر کوئی متولی فرائض تولیت انجام دینے کا اہل نہ ہو تو عدالت معقول وجوہ کی بناء پر موجودہ متولی کو علیحدہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ لیکن متولی مقرر کرتے وقت عدالت حتی الامکان واقف کی منشاء کا لحاظ رکھئے گی اور جہاں تک ممکن ہو گا واقف کے اہل خاندان میں سے کسی موزوں شخص کو متولی مقرر کرے گی۔

جائداد موقوفہ کی
منتقلی وغیرہ

۱۹۶ - (۱) بلا هدایت صریح یا بلا اجازت عدالت جائداد کا متولی جائداد موقوفہ کو قروخت، رہن، تبادلہ یا کسی دیگر طریقے سے منتقل کرنے کا مجاز نہ ہو گا بیز اس کے کہ وہ وقف نامے کے ذمہ بصراحت اس کا مجاز کیا گیا ہو۔

(۲) اگر جائداد موقوفہ سکنی ہو تو وقف نامے میں کسی برعکس ہدایت کی غیر موجودگی میں متولی اس کو زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے کراہیہ پر اور اگر زرعی ہو تو تین سال کے لیے لکان پر دینے کا مجاز ہے۔ اس سے زیادہ عرصے کے لیے عدالت کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہوگی۔

۱۹۷ - وقف نامہ میں کسی برعکس ہدایت کی عدم موجودگی میں ہر ایک متولی بحال مرض الموت اپنا جانشین نامزد کرنے کا مجاز مستصور کیا جائے گا مگر لازم ہے کہ کوئی متولی بحال صحت اپنی زندگی میں عہدة تولیت کسی دوسرے کو منتقل کرنے کا مجاز نہیں۔

قرضہ کا اختیار

۱۹۸ - تاویتیکہ وقف نامہ میں صریح اجازت موجود نہ ہو، کوئی متولی کسی ضرورت کے لیے بھی وقف کے متعلق بغیر اجازت عدالت قرضہ لینے کا مجاز نہیں لیکن اگر اشد ضرورت کی وجہ سے قرضہ لیے لیا ہو تو ضرورت ثابت ہونے پر عدالت قرضہ جائز ہونے کے متعلق بعد میں بھی منظوری دینے کی مجاز ہوگی۔

ن

مجموعہ قوانین اسلام

معاوضہ متولی ۱۹۹ - (۱) واقف کے لیے جائز ہے کہ وہ متولی اور اس کے جانشینوں کو مقررہ معاوضہ لینے کا مجاز کر دے۔

(۲) لیکن اگر متولی کے لیے وقف نامہ میں کوئی معاوضہ مقرر کیا گیا ہو تو بجز پہلے متولی کے اور کوئی متولی ما بعد بلا حکم عدالت اس کی وصول یا بھی کا مستحق تھا ہو گا پشرطیکہ وقف نامہ کی عبارت سے واقف کا منشاء اس کے خلاف نہ ظاہر ہوتا ہو۔

(۳) جس مقررہ معاوضہ کے لینے کا واقف نے بذریعہ وقف نامہ متولی کو مجاز کر دیا ہو وہ اسی قدر وقف کی آمدنی سے وصول کرنے کا مستحق ہو گا لیکن اس وصول یا بھی کی وجہ سے اس کو جائداد موقوفہ میں ایسا حق حاصل نہ ہو گا کہ جائداد موقوفہ اس کے خلاف کسی ڈگری میں قرق یا نیلام کرائی جا سکے۔

(۴) اگر وقف نامے میں کوئی معاوضہ مقرر نہ کیا گیا ہو تو متولی کی درخواست پر عدالت اس کو مقرر کر کے وصول کرنے کا مجاز کر سکتی ہے۔

متولی کے تصرفات ۲۰۰ - (۱) متولی کے لیے ایسے تمام تصرفات جائز ہوں گے جو قیام وقف کی مصلحتوں پر مبنی ہوں اور واقف کی شرعی شرطوں کے مخالف نہ ہوں۔

(۲) اگر کوئی شخص بلا کسی استحقاق و اختیار کے جائداد موقوفہ کا انتظام کرنے لگے تو وہ از روئے قانون "ایین" (ترسی) متصور ہو گا اور وقف کے سلسلے میں اپنے تمام افعال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہو گا۔

نسب اولاد
مع شرح

اکیوال باب

نسب اولاد

نسب کی تعریف ۱۲۳ - نسب امن قانونی تعلق کا نام ہے جو مرد اور عورت کے درمیان عقد شرعی کے نتیجہ میں تولد کے بعد اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ۔

تفسیر

بھیج کے والدین سے توالد کے تعلق کو نسب کا نام دیا گیا ہے ۔ اس نسب کی صحت کا دار و مدار اسلامی شریعت کے مطابق مرد و عورت کے درمیان ازدواجی تعلق ہر ہے ۔ شبہ کی بنا پر بھیج کا نسب ثابت ہو جاتا ہے مثلاً شبہ فی الفعل یا شبہ فی العقد کی وجہ ہے۔ اگرچہ اس ”تعلق“ میں فساد پیدا ہو جاتا ہے مگر جو اولاد پیدا ہوتے ہیں وہ جائز النسب ہوتے ہیں ۔

اثبات نسب کی بنیاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہے کہ ”الولد للفراش و للعاهر العجر“ یعنی بیٹا فراش کا ہے اور زنا کار کے لیے پتھر کی سزا ہے (فراش کے لفظی معنی بستر کے ہیں ۔ اس سے فقهاء کی بھادڑی ہے کہ مرد و عورت کے درمیان عقد شرعی کے ذریعہ زوجیت کا قیام عمل میں آچکا ہو جو استقرار حمل کے وقت موجود ہو) ۔ فقهاء کی تصریحات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شرع اسلام میں بھیج کو صحیح النسب قرار دینے کی التہا سے زائد کوشش کی گئی ہے تاکہ بھیج کو اپنے والدین کی صحیح اور جائز اولاد تسلیم کیا جاسکے اور معاشرہ میں انتشار اور بد اخلاقی نہ

(۱) مجموعہ قوانین اسلام ، مؤلف ، جلد اول ، باب ۴ صفحات ۵۱-۱۳۷

پھیلے - اسی بناء پر نکاح فاسد اور وطی بالشہ کو بھی ثبوت نسب کی حجت قرار دیا گیا ہے۔^۲

اقام نسب

۱۲۲ - نسب کی دو اقسام ہیں :

(۱) پدری (۲) مادری -

شریع

جو نسب والدین یعنی باپ اور ماں دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق کی بناء پر ثابت ہوتا ہے وہ "پدری" کہلاتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق نکاح صحیح کے سبب ہوا ہو یا نکاح فاسد کے سبب - اس کو حقیقی بھی کہتے ہیں - البتہ اولاد کا "مادری" نسب اس عورت سے قائم ہوتا ہے جس کے بطن سے وہ پیدا ہوئی ہے - بلا لحاظ اس امر کے کہ اس کی ماں کا تعلق اس شخص کے ساتھ قانوناً جائز اور درست تھا یا نہیں - بالفاظ دیگر اولاد کے مادری نسب کے تعین کے لیے یہ امر ناقابل لحاظ ہے کہ اس کی پیدائش مرد و عورت کے درمیان جائز نکاح کا نتیجہ ہے یا فعل زنا کا مہرہ - اولاد کا مادری نسب ہر صورت میں اس عورت سے قائم اور ثابت ہوتا ہے جس کے بطن سے وہ فی الحقيقة پیدا ہوئی ہے لیکن پدری نسب اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک کہ اولاد صحیح یا نکاح فاسد کے نتیجے میں نہ پیدا ہوئی ہو - یعنی اگر ایک شخص کسی عورت کے ساتھ فعل زنا کا ارتکاب کرے اور اس سے حمل نہ پھر جائے اور اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد صرف اس عورت کی قرار دی جائے گی اور انہی قانونی حقوق اور ذمہ داریوں کے تعین کے لیے بھی اس عورت کی تابع رہے گی اور از روئے قانون شریعت اس مرد کی اولاد قرار نہ دی جائے گی -

(۲) مجموعہ قوانین اسلام ، مؤلف ، جلد اول ، باب ، ب ، صفحات ۵۱-۱۳۲

۱۲۵ - نسب سے ولایت ذات و جائداد، نفقہ اور وراثت و وصیت سے متعلق حقوق اور ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں ۔

تشریح

نسب کے ثبوت کے ساتھ ہی اولاد کی صحیح النسبی سلسلہ ہو جاتی ہے اور بہر وہ تمام حقوق اور ذمہ داریاں جو والدین اور اولاد کے دریان ہوئے ہیں شرع کی طرف سے ایک دوسرے پر عائد ہو جاتی ہیں ۔ چنانچہ اولاد نفقہ کی مستحق ہوتی ہے ۔ والدین کو اولاد کی ذات اور جائداد پر حق ولایت حاصل ہو جاتا ہے ۔ ایک دوسرے کی وفات پر متوفی کے ترکہ میں وراثت کا حق پیدا ہو جاتا ہے ۔ لیکن اگر اولاد کا نسب ثابت نہ ہو تو وہ اپنی ماں ہی کی اولاد متصور ہوتی ہے ، ایسی صورت میں وہ اولاد ماں اور اپنے (مادری) رشتہ داروں سے وراثت پانے کی مستحق ہوتی ہے نیز ماں اور اس کے رشتہ دار اس کی جائداد کے وارث قرار پاتے ہیں ۔

مختلف اسلامی ممالک میں راجعِ الوقت قوانین :

نسب اولاد کے اثرات کے سلسلے میں قانون الاحوال الشخصية، شام کی دفعہ ۱۳۳، کی ذیلی دفعہ (۲) میں مذکور ہے کہ ”جب نسب ثابت ہو جائے، خواہ نکاح فاسد کے ساتھ ہو یا وطی بالشہبہ کی صورت میں ہو تو اس (عورت) پر قربت کے تمام نتائج و اثرات مرتب ہون گے ۔ چنانچہ درجات ممنوعہ میں نکاح ممنوع ہوگا اور وہ عورت نفقہ قربت اور وراثت کی مستحق ہوگی ۔“

اسی طرح تیونس کے مجلہ الاحوال الشخصية کی دفعہ ۲ میں مذکور ہے کہ ”بھی کا اپنے والد سے نسب ثابت نہ ہونا اس کو عصیہ ہونے سے خارج کرتا ہے اور اس کا حق نفقہ و وراثت ساقط ہو جاتا ہے ۔“

قانون الاحوال الشخصية، شام کی دفعہ ۱۳۳ (۲) کے تحت جب نسب

ثابت ہو جائے ، اگرچہ وہ نکاح فاسد کئے ساتھ ہو یا وطی بالشبہ کی صورت میں ہو تو پھر (عورت) پر قرابت کے تمام نتائج و اثرات مرتب ہون گے اور وہ عورت نفقة قرابت اور وراثت کی مستحق ہوگی ۔ نیز درجات منوعہ میں نکاح ناجائز ہو گا ۔

(۱) جائز النسبی کے لیے عقد شرعی کے بعد حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہوگی ۔

(۲) جائز النسبی کے لیے حمل کی زائد مدت دو سال ہوئی بشرطیکہ قرآن حمل ہوں اور شوہر یا اس کے ورثاء انکار و تکذیب نہ کریں ۔ الا یہ کہ اس عرصہ میں زوجین کو کسی وقت بھی ایک دوسرے سے ملنے کا ایسا موقع نہ ملا ہو کہ حمل قرار پا سکتا ۔

(۳) زوجہ کے معتقد طلاق یا وفات ہونے کی صورت میں اس نے القضاء عدت کا اقرار نہ کیا ہو ۔ الا یہ کہ شوہر یا اس کے ورثاء دو سال کے بعد بھی مولود کا دعویٰ کریں ۔

(۴) بصورت اقرار القضاۓ عدت ، حمل کی زائد مدت وقت اقرار سے (۱۸۰) یوم اور وقت فرقہ یا موت سے دو سال ہوئی ۔

توضیح : مدت کے تعین کے لیے قمری ماہ و سال کا اعتبار کیا جائے گا ۔

تمہری بیخ

یہ سئٹلہ اختلاف ہے کہ از روئے شرع اسلام حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے ؟ البتہ حمل کی کم از کم مدت کے بارے میں تمام ائمہ اور فقہاء میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے ۔

حمل کی کم از کم مدت

حمل کی کم از کم مدت کے استدلال میں آیات قرآنی ”و حمله و فصاله ثلاثون شہراً“^۳ اور ”وفصاله في عامين“^۴ پیش کی جاتی ہیں ۔ ان آیات

(۳) سورہ احقاف آیات ۱۵ - ۱۶ (۴) سورہ لہمان آیت ۱۳ -

سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس (۳۰) سال ہے اور عورت کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے۔ بالفاظ دیگر ۲۸ مہ دودھ پلانے (رضاعت) کی مدت ہوئی اور باقی چھ ماہ حمل کی۔ ان آیات سے اس استدلال میں تمام ائمہ اور مفسرین متفق ہیں۔

حمل کی زائد سے زائد مدت :

اس مسئلے میں کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہو سکتی ہے، ائمہ میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ جمہور احناف کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے۔ امام مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل کے مشہور اقوال کے مطابق حمل کی زائد سے زائد مدت چار سال ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا ایک قول حنفی مسلک کے موافق یہی ملتا ہے۔ علاوه ازین لیث بن سعد کے نزدیک تین سال، عباد بن عوام کے نزدیک پانچ سال اور امام ابن شہاب زہری کے نزدیک ایک روایت کے مطابق پانچ سال اور دوسری روایت کے مطابق سات سال تک آخری مدت ہے یعنی اتنے عرصے تک بچہ حمل میں رہ سکتا ہے۔^۵

احناف کا نقطہ نظر :

حمل کی زائد سے زائد مدت دو سال ہونے کے ثبوت میں احناف اپنی دلیل میں حضرت عائشہ کی حدیث "الولد لا یُبْتَقِ فِي بَطْنِ أُمّةٍ أَكْثَرُ مِنْ سَتِينَ وَلَوْ بِظَلَّ مَغْزَلٌ"^۶ پیش کرتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے بطن میں دو سال سے ایک لمحہ زیادہ نہیں رہتا۔ یہاں "ظل مغزل" کا لفظی ترجمہ "تکلی کا سایہ" ہے دراصل اس سے کتابیہ قلت وقت ہے۔ احناف کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ کا مذکورہ بالا قول حضرت پھر

(۵) فتح القدير، ابن همام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/ ۱۹۷۷ء، جلد ۳، صفحہ ۳۱۰۔

العنی، ابن قدامہ مقدامی، مطبوعہ مصر، ۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء، جلد ۲، صفحہ ۲۲۲۔

(۶) فتح القدير، ابن همام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/ ۱۹۷۷ء، جلد ۳، صفحہ ۳۱۰۔
جمع الہر داماد آفندی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۴ھ/ ۱۹۰۶ء، جلد ۱، صفحہ ۲۲۲۔

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت پر مبین سمجھا جائے گا اور اس کو ان کی ذات رائے تسلیم کیا جانا ممکن نہیں، کیونکہ ایسے احکام میں ذات رائے کو دخل نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس قسم کے تشریعی حکم میں صحابی یا صحابیہ کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت پر مبین سمجھا جاتا ہے۔^(۱)

انہ ثلاثة کا مسلک :

امام مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل اپنے اقوال کے ثبوت میں چند واقعات بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ولید بن مسلم سے مروی ہے:

قال ، قلت : لماك بن انس رحمة الله عليه حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على استثنين في العمل ، قال مالك :

سبحان الله من يقول هذا ؟ جارتنا امرأة مهدى بن عجلان تحمل اربع سنين قبل ان تلد ..

یعنی ولید نے کہا ”کہ میں نے حضرت امام مالک کے سامنے جمیله بنت سعد کی اس حدیث کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ کوئی عورت دو سال سے زیادہ حاملہ نہیں رہ سکتی۔ امام مالک نے فرمایا سبحان اللہ ! یہ کون کہہ سکتا ہے ؟ ہماری ہمسایہ عورت ، مهدی بن عجلان کی بیوی چار سال تک حاملہ رہی ہے ،“

اس واقعہ کو امام شافعی نے بھی نقل کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے بھی بنی عجلان کے بارے میں کہا ہے کہ بنی عجلان کی عورتیں عموماً چار چار سال تک حاملہ رہی ہیں اور عجلان کی زوجہ کے تین بھی پیدا ہوئے اور ہر بچہ چار سال تک حمل میں رہا۔ اسی طرح مهدی بن عبد اللہ بن حسن بن علی ابی والدہ کے پیٹ میں چار سال تک رہے۔ ابوالخطاب نے ابراهیم بن نجیع العقیلی کے متعلق بھی یہی روایت کیا ہے۔ نیز حضرت عثمان اور حضرت علی سے بھی یہی مبتول ہے۔ چنانچہ امام مالک، شافعی اور

(۱) بدائع الصنائع ، امام کاسانی مطبوعہ مصر ۱۳۲۸ھ عربی جلد ۳ ، صفحہ ۲۱۱

احمد ابن حنبل کے نزدیک حمل کی انتہائی مدت چار سال تک ہے۔^۸

حنفیہ کا جواب :

حنفیہ نے ایسے واقعات کے جواب میں کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں ان کا قول شارع علیہ السلام کی طرف منسوب تصور کیا جانے کا جس میں خطاب کا احتیال نہیں۔ چنانچہ یہ حدیث مذکورہ واقعات کے مقابلے میں حجت قرار پا سکتی ہے۔ نیز اگر ان واقعات کے بارے میں امام مالک کے بیان کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے، تب بھی یہ امر قطعیت کے ساتھ ثابت قرار نہیں دیا جا سکتا کہ حمل کی انتہائی مدت چار سال ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس واقعہ (یا اسی قسم کے واقعات) کو نادرالوجود کہا جا سکتا ہے۔^۹ جس پر قطعیت کے ساتھ اور آخری طور پر شرعی حکم کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔

ہمارے نزدیک حضرت عائشہ کا قول ایک اور دلیل کے سبب بھی اس سلسلہ میں حجت قرار پا سکتا ہے، وہ یہ کہ خداۓ تعالیٰ قرآن حکم میں فرماتا ہے :

اَلَّمْ تَخْلُقُنِّمُ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ^{۱۰} فَجَعَلْنَا فِي قَرَارٍ سَكِينٍ^{۱۱} الْقَدْرُ
مَعْلُومٌ^{۱۲}

یعنی ”کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم لوگوں کو بے قدر سے پانی سے۔ پھر کر دیا ہم نے اس کو نہہرنے کی جگہ (رحم میں)، مقررہ وقت تک۔“

(۸) المغنى، ابن قدامہ مقدسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۶۷ھجری، جلد ۲، صفحات

۳۴۴۰۶۸

(۹) فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۳، صفحات ۲۱۰
جمع الانہر دامت آنہی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۶ھجری، جلد ۱، صفحہ ۳۴۷

(۱۰) المرسلت، آیات ۲۰ - ۲۲

قرآن پاک کی یہ آیت اس امر کے بیان میں "جمل" ہے کہ کب تک مجھ رحم مادر میں رہے گا؟ اور یہ اصول تمام ائمہ کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا کوئی حکم "جمل" ہو تو اس کی تفسیر یا بیان "خبراحاد" کے ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر حکم مطلق ہے تو احناف کے نزدیک "خبراحاد" اس حکم کی تفسیر یا بیان قرار نہیں دی جا سکتی۔ دیگر ائمہ کے نزدیک مطلق حکم کی صورت میں بھی "خبراحاد" اس کی تفسیر یا بیان قرار دی جا سکتی ہے۔

حضرت عائشہؓ کا مندرجہ بالا قول خبراحاد کے درجہ میں ہے اور یہ قول مذکورہ بالا آیت میں مذکور "جمل حکم" کی تفسیر و بیان ہے۔ یہ حدیث اگرچہ موقف ہے، لیکن حکم میں مرفوع کے ہے، کیونکہ مقادیر کا تعین قیاس پر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ موقف علی الوجی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محض اپنے قیاس اور رائے سے "الى قدر معلوم" کو دو سال سے تعبیر نہیں کر سکتی تھیں، جب تک کہ انہوں نے آنحضرتؐ سے یہ قول نہ سنا ہوتا۔ بہر کیف، حضرت عائشہ رضی مذکورہ بالا حدیث کی بنیاد پر یہ قول مفتی ہے کہ حمل کی انتہائی مدت دو سال ہو سکتی ہے۔

شیعہ نقطہ نظر :

شیعہ فقہاء کے نزدیک حمل کی کم از کم مدت ۷ ماہ اور زائد سے زائد مدت ۹ ماہ ہے اور بعض کے نزدیک ۱۰ ماہ تک اور بعض کے نزدیک یہ مدت ایک سال تک ہو سکتی ہے۔ لیکن علامہ نجم الدین ابو جعفر الحلیؑ نے اپنی مشہور تصنیف شرائع الاسلام میں ایک سال کے قول کو متروک لکھا ہے۔^(۱)

مالک اسلامیہ میں مدت حمل کا تعین :

مدت حمل سے متعلق مالک اسلامیہ میں جو قوانین پائے جاتے ہیں

(۱) شرائع الاسلام، نجم الدین الحلیؑ، مطبوعہ طهران ۱۳۲۷، صفحہ ۱۹۹



ان کے تحت بالعموم مدت حمل کا تعین کم از کم چھ ماہ اور زائد سے زائد ایک سال تک پایا جاتا ہے ۔ سطور ذیل میں مختلف اسلامی ممالک کے راجع وقت قوانین کے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں جن سے اس مسئلہ سے متعلق جدید رجحانات کو سمجھنے میں مدد ملے گی ۔

نصر :

”دفعہ ۱۵ - (مرد کے) انکار کی صورت میں زوجہ کا بیچے کے لیے نسب کا دعویٰ سسموں نہ ہوگا ، جب کہ زوجین کے درمیان وقت عقد سے ملاقات ثابت نہ ہو اور نہ اس صورت میں جب کہ عورت نے اس بیچے کو شوہر کے غائب ہونے سے ایک سال بعد جنا ہو اور نہ مطلقاً کا بیچہ (صورت انکار) شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا یا اس زوجہ کا بیچہ جس کا شوہر مرن چکا ہو اگر اس عورت نے طلاق یا وفات سے ایک سال کے بعد بیچہ جنا ہو ۔“^{۱۲}

عراق :

”دفعہ ۱۵ - ہر زوجہ کا بیچہ حسب ذیل دو شرطوں کے ساتھ اس کے شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا :

(۱) کہ زوجین کے عقد کو حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ گزر چکی ہو ۔^{۱۳}

(۲) زوجین میں ملاقات ممکن ہوئی ہو ۔

فصل ۶۹ - بیچے کا نسب ثابت نہ ہوگا ، مرد کے انکار کی صورت میں ، جب کہ زوجین کے درمیان ملاقات ثابت نہ ہو ، اور نہ اس بیچے کا نسب ثابت ہوگا جس کو اس عورت نے شوہر کے غائب ہونے کے یا اس کی وفات کے یا تاریخ طلاق سے ایک سال کے بعد جنا ہو ۔

(۱۲) قانون المصرى نمبر ۲۵ بابت ۱۹۲۹ ع

(۱۳) قانون الاموال الشخصية ۱۹۵۱ ع ، عراق

تیونس :

۱۔ جب زوجہ عقد کے بعد چہ ماہ کے اختتام پر یا امن کے بعد بچہ جنمے تو بھی کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا خواہ عقد صحیح ہو یا فاسد ۱۳

شام :

دفعہ ۱۲۸ - حمل کی کم سے کم مدت ۱۸۰ یوم اور زائد سے زائد ایک سال شمسی ہے ۱۵ -

پاکستان میں مدت حمل کا تعین :

پاکستان میں حسب دفعہ ۱۱۲ قانون شہادت، ۱۸۴۲ع صحیح النسبی کے متعلق قطعی قیاس کے بارے میں حسب ذیل قانون نافذ ہے :

”یہ واقعہ کہ کوئی شخص (بچہ) اپنی ماں کے کسی مرد کے جائز نکاح میں رہنے کی حالت میں یا اس نکاح کے انفسان سے ۲۸۰ یوم کے اندر پیدا ہوا اور اس اثناء میں اس کی ماں بے زوج رہی، اس امر کا قطعی ثبوت ہوگا کہ وہ شخص (بچہ) اس مرد کا صحیح النسب بیٹا ہے۔ بیجز اس صورت کے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ زوجین کو کسی وقت بھی ایک دوسرے سے ملنے کا ایسا موقع نہ تھا کہ حمل قرار پا سکتا۔“

مذکورہ بالا دفعہ کی روشنی میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دفعہ سے صحیح النسبی کا اسلامی قانون متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ال آباد ہائی کورٹ نے یقینہ سبط محمد بنام محمد (۱۹۲۶ع، ۲۸ اللہ آباد، ۶۲۵) یہ قرار دیا کہ اس دفعہ ۱۱۲ قانون شہادت، ۱۸۴۲ع کے ذریعہ شرع اسلام کا جو قانون صحیح النسبی سے متعلق تھا، منسوخ ہو جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہی یقینہ مسہا رحیم بی بی بنام چراغ دین (۱۵ آئی آر، لاہور ۱۹۳۰ع صفحہ ۹) یہی قرار دیا۔

(۱۴) میثہ الاحوال الشخصية ، تیونس

(۱۵) قانون احوال الشخصية ، شام

صحیح النسب کے موضوع پر قانون شہادت اور اسلامی قانون کا موازنہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دفعہ بالا اسلامی قانون سے متصادم ہے جیسا کہ حسب ذیل سطور سے ظاہر ہو گا :

(۱) قانون شہادت، ۱۸۷۲ع کی دفعہ ۱۱۲ کی رو سے جو بھی نکاح کے دوسرے دن پیدا ہو وہ صحیح النسب ہے اور اس سے پدری نسب ثابت ہو جائے گا کیونکہ حسب دفعہ بالا وہ بھی مرد و عورت کے نکاح کی حالت میں پیدا ہوا ہے، بیز اس صورت کے کہ والدین کو کسی وقت بھی باہم یک جانی کا ایسا موقع نہ ملا ہو کہ اس کا حمل قرار پاسکتا، (واضح رہے کہ قانون شہادت، ۱۸۷۲ع کی دفعہ ۱۱۲ کم از کم مدت حمل کا تعین نہیں کرتا) جبکہ شرع اسلام میں عقد زوجیت کے بعد چہ ماہ کم سے کم مدت مقرر ہے -

(۲) قانون شہادت کی دفعہ ۱۱۲ کے تحت جائز نکاح میں رہنے کی حالت میں یا اس نکاح کے الفساح کے بعد ۲۸۰ دن کے اندر اگر بھی پیدا ہو گیا تو ازا روتے دفعہ مذکورہ صحیح النسب ہونے کا قطعی ثبوت ہو گا، بیز اس صورت کے والدین کو باہم یکجانی کا ایسا موقع نہ ملا ہو کہ اس کا حمل قرار پاسکتا۔ بالفاظ دیکھ اگر ۲۹۰ یوم کے بعد (بطور مثال) ۲۹۰ یوم کے بعد بھی پیدا ہوا تو صحیح النسب کا قطعی ثبوت نہ ہو گا۔ جب کہ شرع اسلام کے تحت احناف کے نزدیک اگر وہ بھی حالت نکاح میں دو سال کی مدت میں پیدا ہوا تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا الیہ کہ شوہر انکار کرے -

اسی طرح ہنپی فقہ کی رو سے انفساح نکاح کے ۲ سال کے الدربیہ پیدا ہوا تو وہ بھی صحیح النسب قرار دیا جائے گا الیہ کہ عورت عدت

[دفعہ ۱۳۶]

گزر جانے کا اقرار کر چکی ہو اور بھی کی پیدائش تاریخ اقرار سے چہ ماہ بعد ہوئی ہو یا مرد انکاری ہو۔

۱ اگرچہ بعض صورتوں میں دفعہ ۱۱۴ قانون شہادت سے اسداد لی جا سکتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ”عدالت ایسے واقعہ کے وجود کا قیاس کر سکتی ہے جس کا وقوع میں آنا عدالت کی دانست میں محتمل ہو مگر اس میں وقوع واقعات کے فطری طریقہ کا لحاظ کیا جائے گا۔“ چنانچہ کلکتہ کے ایک مقدمے میں جو قانون شہادت کے اجراء سے قبل کا ہے عدالت نے ایک ایسے بھی کے متعلق جو تاریخ طلاق سے ۱۹ مہینے کے بعد پیدا ہوا تھا، شرع اسلام کے قاعدے کے اس جزو کو مانتے ہے امن بناء پر انکار کر دیا کہ ایسے بھی کو (جو تاریخ طلاق سے ۱۹ ماہ بعد پیدا ہوا ہو) صحیح النسب قرار دینا فطری طریقہ کے خلاف ہے اور محالات ہے۔“ ۱۶

طبی نقطہ نظر :

وضع حمل کی مدت کے بارے میں متعدد اطباء نے اپنے طبی تجربات کی روشنی میں اظہار خیال کیا ہے۔ چنانچہ شیخ بو علی سینا نے اپنی کتاب ”القانون فی الطب“^{۱۷} میں لکھا ہے کہ وضع حمل عام طور پر اور اکثر ۹ ماہ کی مدت میں ہوتا ہے اور کم سے کم سات ماہ اور زیادہ سے زیادہ مدت ۱۰ ماہ ہے۔ ظاهر ہے کہ یہاں شیخ نے بعض طبی نقطہ نگاہ سے طبعی وضع حمل کا ذکر کیا ہے۔ غیر طبعی طور پر یہ مدت کہاں تک ہو سکتی ہے اس کے متعلق قدیم اطباء کی کتابوں میں باوجود تلاش کوئی تفصیل نہ مل سک۔

ایک انگریزی کتاب Origin of Life and Process of Reproduction کا

مصنف Dr. F. Hollick بقراط، ارسطو، جالینوس اور شیخ کے حوالہ سے

(۱۶) اشرف علی بنام اسد علی، ۱۸۲۱ء، کلکتہ ویکلی ریبورٹ، صفحہ ۲۶۰۔

(۱۷) مطبوعہ مصر، جلد ۲، صفحہ ۵۲۰۔

اپنی مذکورہ کتاب کے صفحہ ۳۵۶ پر لکھتا ہے کہ ان سب کے خیال میں وضع حمل کی مدت عام طور پر نو ماہ ہے لیکن کبھی یہ مدت ۱۱، ۱۰، ۱۲ اور بعض اوقات ۱۵ ماہ تک ہو سکتی ہے۔

طبی نقطہ نظر سے وضع حمل عموماً دس قمری مہینوں میں ہوتا ہے۔ اس طرح اوسطاً وضع حمل کی مدت ۲۶۶ دن ہوتی ہے۔ یک جماعتی (single sexual exposure) حمل کی صورت میں یہ مدت ۲۶۹ دن شہار کی گئی ہے۔ تاہم مغربی مصنفین کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت وضع حمل جس کا ریکارڈ موجود ہے، ۳۸۹ دن^{۱۸}، ۳۱۳ دن^{۱۹}، گیارہ ماہ^{۲۰}، اور ۳۴۰ دن^{۲۱} ہے۔

ڈاکٹر عارف صدقی (شام) نے اپنی کتابت "الطب الشرعی" جلد اول، صفحہ ۱۲۲ میں تحریر کیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی یقینی مدت ایسی نہیں ہو سکتی جس کا تعین کیا جا سکے۔ ہر کیس انفرادی نوعیت رکھتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر عورت کے حیض کے دور پر اس کا اختصار ہوتا ہے عام طور پر وضع حمل کی مدت دس دور یعنی ۲۸۰ دن ہوتی ہے جب کہ حیض کا ایک دور ۲۸ دن کا ہوتا ہے۔

نتیجہ فکر :

اگرچہ طبی نقطہ نظر سے بھی کا دو سال میں پیدا ہونا نادرالوجود ہے لیکن ائمہ و فقهاء کا اس پر اتفاق ہے کہ طب کی بنیاد پر فتویٰ جائز نہیں۔ یعنی طب کسی شرعی حکم میں قول قرار نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی اسے شرعی حکم کی اساس قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسلام اپنے

(18) Ralph C. benson (hand-book of Obst. and Gyn-1964) Page 47-52.

(19) Medical Examiner, June 1946 with ref. of Origin of Life and process of reproduction. Page 354-355.

(20) Medical Gazette, with ref. of Origin of Life and Process of reproduction Page 355.

21) Legal Medicine by Maj. Collis (1902) Page 230-25.

بنیادی اخلاقی تصورات کے تحت بچہ کو صحیح النسب قرار دینے میں معقول سے معقول حجت کو بھی گواہا کرتا ہے تاکہ بچہ کو اپنے والدین کی صحیح اولاد تسلیم کیا جا سکے ۔ اس میں بہت سے سماجی فوائد اور تحفظات مضمرا ہیں ۔ اسی لیے شرع اسلام میں نکاح فاسد و وطی بالشبہ کو بھی ثبوت نسب کی حجت قرار دیا گیا ہے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد "الولد للفراش و للعاهر الحجر" ثبوت نسب کے سلسلے میں ایک اساس کی حیثیت رکھتا ہے ۔ چنانچہ فقہاء امت نے مسئلہ کی تفصیلات مرتب کرنے میں پوری توجہ اس طرف سرکوز کی ہے کہ بچہ صحیح النسب قرار دیا جائے ۔ اس پس منظر میں جب ہم زائد سے زائد مدت حمل کے مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فقہاء نے بعد الوقوع یا تأذیل الوجود صورتوں کو بھی پیش نظر رکھا ہے ۔ چنانچہ ہمارے نزدیک حمل کی مدت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی کی محوّله بالا حدیث پر اس مسئلہ کا مدار رکھنا ہی انسب اور قرین صواب ہے ۔ وضع حمل کی زائد سے زائد مدت دو سال قرار دینے کا منشاء یہ ہے کہ بعض کسی عورت کا ایک سال سے زائد (اور یہ مدت دو سال تک ہو سکتی ہے) مدت میں بچہ کو جنتا بھائے خود مرد کے انکار کے قائم مقام نہ ہو ۔

لیکن ساتھ ہی یہ امر مسلمہ ہے کہ دو سال میں وضع حمل کے واقعات شاذ ہی دیکھنے میں آتے ہیں ۔ بنا برین اس خطہ کے سنبھال کے لیے کہ ولدالزنا جائز النسب کا مقام حاصل نہ کرے ، اسلامی مالک میں ایک سال کی مدت ، حمل کی زائد سے زائد مدت ، قرار دی گئی ہے ، اس کی بنیاد بعض شواہد اور روزمرہ پیش آئے والے واقعات پر رکھی گئی ہے ۔ لیکن اس میں احتیاط کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جس کو فقہاء امت نے بطور خاص ملحوظ رکھا ہے ۔

ثبت نسب ۱۲۷ - جب کسی مرد اور عورت میں بلا شک و شبہ ازدواجی تعلق
بے حکم شرعی (خواہ صحیح ہو یا فاسد) مشہور اور معروف طریقے ہو قائم ہو کر شرع
اسلام کے مقرہ اصول کے مطابق بھی کی پیدائش ہوئی ہو تو بکم شرعی
بھی صحیح النسب کہلانے کا۔

تشریع

ثبت نسب کے لیے دو طریقے معمول ہیں۔ ایک قطعی اور دوسرا
ظنی۔ ان کو حجت قطعی اور حجت ظنی بھی کہا جاتا ہے۔ حجت قطعی
سے صاد حکم شرعی ہے یعنی ایسی حجت جس سے شرعاً نسب ثابت
ہو جائے۔

۱۔ چنانچہ اگر ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرے اور چہ ماہ سے کم
میں اس کے بھی پیدا ہو جائے تو وہ اولاد بکم شرعی اس شوہر کی نہ
ہوگی، کیونکہ حمل اس کے نکاح سے پہلے قائم ہوا ہے اور وہ حمل اس کے
نطفے سے نہ ہو گا کیونکہ حمل کی مدت چہ ماہ سے کم نہیں ہے اور اگر
ہوئے چہ ماہ یا چہ ماہ سے زائد عرصے میں اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد
اسی شوہر کی ہو گی کیونکہ عورت کا بد قیام نکاح فراش ہونا بھی موجود
ہے اور حمل کی مدت پوری ہے۔^{۲۲}

۲۔ جس عورت کو اس کے شوہر نے رجعی طلاق دی ہو اس کے
دو سال یا اس سے زیادہ مدت میں بھی پیدا ہوا۔ ایسی صورت میں اگر
اس عورت نے اس مدت کے دوران اپنی عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو تو
بکم شرعی بھی کا نسب طلاق دینے والے شوہر سے ثابت ہو گا۔ لیکن اگر
اس عورت نے طلاق کی اتنی مدت کے بعد جس میں عدت پوری ہو سکتی
ہے عدت گزرنے کا اقرار کر لیا ہو تو بھی کا نسب طلاق دینے والے

(۲۲) کنز الدلائل، عبدالحق نسفي، مطبع مجتبائی، دہلی، ۱۳۳۸ھ/۱۹۶۰ء، صفحہ ۱۵۰
المختصر، القدوری، علام ابوالحسن قدوری، صفحہ ۱۴۲

[دفعه ۱۲۷]

شوہر سے ثابت نہ ہو گا۔ الیہ کہ مرد دعویٰ کرئے کہ وہ بیوہ اسی کا ہے۔ ۲۳۔ البته اگر چہ ماہ سے کم میں بیوہ پیدا ہوا ہو تو نسب ثابت ہو جائے گا اس لیے اقرار کے بعد چہ ماہ سے کم مدت میں بیوہ پیدا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ بیوی کا حمل عدت گزرنے سے قبل قرار پایا ہوا تھا۔ ۲۴۔

۳۔ ایسی عورت کے بھی کا نسب جس کو بائیں طلاق دی گئی ہو شوہر سے اس وقت ثابت ہو گا جب کہ بھی کی پیدائش دو سال سے کم مدت میں ہوئی ہو۔^{۲۵} کیونکہ اس صورت میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حل طلاق سے پہلے قرار پایا تھا لیکن اگر تفہیق کے پورے دو سال بعد بھی پیدا ہوا تو نسب ثابت نہ ہو گا الیہ کہ شوہر بھی کا دعویٰ کرنے پڑتا ہے اگر دو سال ہوتے ہی بچہ پیدا ہو گیا (یعنی دو سال سے ایک لمحہ بھی زائد نہ ہو سکا) تو بھی کا نسب ثابت ہو جائے گا۔^{۲۶}

۴۔ بیوہ عورت کے بھی کا نسب اس کے شوہر کی وفات سے دو برس کے اندر ثابت ہو گا۔^{۲۴} اگر اس عورت نے چار ماہ دس یوم ختم ہونے کے بعد عدت ختم ہونے کا اعلان کر دیا پھر پورے چہ ماہ کے بعد اس کے بھی پیدا ہوا تو متوفی سے اس کا نسب ثابت نہ ہو گا۔ اور اگر چہ ماہ سے

(٢٢) كنز الدقائق، عبدالله نسفي، مطبع مجتبائي، دهلي، ١٣٣٨ هجري، صفحه ٣٩.

شرح وقایه، جلد ۲، صفحه ۱۵۶

هداية ، برهان الدين مرغيناني ، مطبوعة دهلي ، جلد ٢ صفحه ٣٣

(٢٤) فتح القدر، ابن هام، مطبوعة مصر، ١٣٥٦ هجري، جلد ٣، صفحات ٣٠٠-١

جمع الاتهار، دمامه أفندي مطبوعه مصر، ١٣٤٢ هجري، جلد ١، صفحه ٣٧٣

(٢٥) المختصر ، التدويري ، المطبعة الجالية ، ١٣٣ هجري ، صفحه ١٤١

هدایه ، برهان الدین مرغیانی ، مطبوعه دهلي ، جلد ۲ ، صفحه . ۳۳

فتح القدير، ابن هام، مطبوعة مصر، ١٣٥٦ هجري، جلد ٣، صفحه

شرح وقاره ، جلد ۲ ، صفحات ۱۵۶-۱۵۷

^{٤٣١} سید اویین، برهان الزین مرتضیائی، مطبوعه دهلی، جلد ۲، صفحه ۱۲۷

کم میں پیدا ہوا تو نسب ثابت ہو جائے گا۔^{۲۸}

امام مالک و امام شافعی کے نزدیک حیض اور طهر (زمانہ پاک) والی عورت جو عدت میں ہو جب اپنی عدت ختم ہونے کا اقرار کر لے اور اس اقرار کے بعد پورے چھ ماہ یا اس سے زیادہ عرصے میں اس کے بچہ پیدا ہو تو ہر سال تک کی درمیانی مدت میں بچہ کے پیدا ہو جانے کی صورت میں بچہ کا نسب شوہر سے ثابت ہو گا بشرطی کہ اس نے دوسرا نکاح نہ کیا ہو۔ لیکن امام احمد این حنبل کے نزدیک ایسی صورت میں بچہ کا حمل اس شوہر سے ثابت نہ ہو گا۔ (مگر بعض حنبلی فقهاء مثلاً خرق وغیرہ اس مسئلے میں امام مالک اور شافعی کے ہم خیال ہیں) اسی طرح حنبلی فقه کی کتاب المغنى میں لکھا ہے کہ اگر آئسہ (وہ عورت جس کو حیض نہ آتا ہو) یا وہ عورت جو اپنے شوہر کی وفات کی عدت میں ہو تو اس کی عدت گزر جانے کے اقرار کے بعد اگر ہر سال سے کم مدت میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچہ کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ پیدائش اس عورت کے اقرار کے جھوٹے ہونے کا سبب قرار دی جائے گی۔^{۲۹}

۵ - اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہو تو شوہر کے انتقال کے وقت سے دو سال کی مدت کے اندر جس وقت بھی بچہ پیدا ہو گا اس کا نسب متوفی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔^{۳۰} لیکن امام زفر کے قول کے مطابق وفات کی عدت (چار ماہ دس یوم) گزرنے کے بعد اگر چھ ماہ سے کم مدت میں بچہ ہوا ہے تو نسب ثابت ہو گا ورنہ نہیں۔ لیکن

(۲۸) هدایہ اولین ، برہان الدین مرغیانی ، مطبوعہ دہلی ، جلد ۲ ، صفحہ ۳۲۱

فتح القدير ، ابن ہام ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۶ء ، جلد ۳ ، صفحہ ۳۰۳

کنز الدقائق ، عبدالحق نسفی ، مطبع مجتبی دہلی ، ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹ء ، صفحہ ۱۰۹

المختصر ، القدوری ، المطبعة الجالية ، ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۰ء ، صفحہ ۱۷۲

(۲۹) المغنی ، ابن قدامة مقدسی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۹ء ، جلد ۷ ، صفحہ ۲۹۷

(۳۰) المختصر ، القدوری ، المطبعة الجالية ، ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۰ء ، صفحہ ۱۷۲

اگر یہ لڑکی بالغ نہ تھی بلکہ قریب البلوغ تھی اور شوہر کی وفات کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا، اگر یہ بچہ کل دس ماہ دس یوم سے کم مدت میں پیدا ہوا ہے تو متوفی سے نسب ثابت ہوگا اور اگر اس کے بعد پیدا ہوا تو نسب ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ چار ماہ دس یوم وفات کی عدت ہے اور حمل کی مدت کم از کم چھ ماہ ہے لہذا اگر اس کل یعنی دس ماہ دس یوم کے اندر بچہ پیدا ہوا تو یہ اس امر کی دلیل ہوگی کہ عدت میں استقرار حمل ہو چکا تھا۔^{۲۱}

۶ - اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کی تاریخ سے جو ماہ سے کم مدت میں بچہ پیدا ہو جائے تو ایسے بچہ کا نسب اس شوہر سے ثابت نہ ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں نکاح سے پہلے حمل قرار پانا واضح ہے۔ البتہ اگر پورے چھ ماہ یا اس سے زیادہ مدت میں بچہ پیدا ہوا تو بحکم شرعی نسب ثابت ہوگا خواہ شوہر اقرار کرے یا نہ کرے یا خاموش رہے۔ لیکن اگر شوہر نے انکار کیا کہ یہ بچہ اس عورت کے نہیں پیدا ہوا اور دایہ نے اس کی ولادت کی گواہی دے دی تو نسب ثابت ہو جائے گا اور بچہ کی صحیح النسبی کے انکار سے شوہر پر لعan واجب ہو جائے گا۔^{۲۲}

ملک شام کا قانون :

ثبوت نسب کے بارے میں ملک شام میں حسب ذیل قانون راجع ہے :
دفعہ ۱۲۹ - (۱) ہر اس زوجہ کے بچہ کا نسب، جو نکاح صحیح میں ہو، اپنے شوہر سے حسب ذیل دو شرائط کے ماتحت ثابت ہوگا :
(الف) یہ کہ زوجین کے عقد نکاح کو حمل کی کم از کم مدت (چھ ماہ) گزرن چکی ہو۔

(۲۱) مجمع الانہر، داماد آفندی مطبوعہ مصر، ۱۳۲۴ھ/جولائی ۱۹۰۷ء، صفحہ ۲۲۷ء

(۲۲) فتح القدير، ابن هام مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/جولائی ۱۹۳۷ء، جلد ۲، صفحہ ۲۰۸ء
مجمع الانہر، داماد آفندی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۴ھ/جولائی ۱۹۰۷ء، صفحہ ۲۲۷ء

- (ب) یہ کہ ظاہر طور پر زوجین کے درمیان عدم ملاقات ثابت نہ ہو ۔ مثلاً یہ کہ زوجین میں سے کوئی ایک قید خانے میں ہو یا حمل کی انتہائی مدت تک کسی دور دراز شہر میں ہو ۔
- (۲) اگر مندرجہ بالا دو شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے تو بھی کا نسب شوہر سے ثابت نہ ہو گا الا یہ کہ شوہر اس بھی کے نسب کا اقرار کرے اور اس بھی کا دعویٰ کرے ۔
- (۳) جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو بھی کے نسب کی شوہر سے نفی نہ کی جائے گی ، مگر لعan کے ذریعہ سے (اس بھی کے نسب کی نفی کی جا سکتے گی) ۔

دفعہ ۱۳۰ ۔ اگر مطلقہ یا بیوہ نے اپنی عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو تو اس کے بھی کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ہو جائے گا ، بشرطیکہ اس عورت نے اس بھی کو تاریخ طلاق یا وفات سے ایک سال کے اندر جنا ہو اور اگر ایک سال سے زیادہ میں جنا تو اس بھی کا نسب اس شوہر سے ثابت نہ ہو گا الا یہ کہ شوہر (بصورت طلاق) اس کا دعویٰ کرے یا (بصورت وفات) اس کے ورثاء اس بھی کا دعویٰ کریں ۔

دفعہ ۱۳۱ ۔ مطلقہ یا بیوہ جس نے عدت گزرنے کا اقرار کر لیا ہو ان دونوں کے بھی کا نسب ثابت ہو جائے گا جب کہ وہ (مطلقہ یا بیوہ) وقت اقرار سے ۱۸۰ یوم سے کم میں یا وقت طلاق یا موت سے ایک سال سے کم میں بھی جنیں ۔

دفعہ ۱۳۲ ۔ (۱) اس بھی کا نسب جو نکاح فاسد میں دخول کے بعد پیدا ہوا ہو شوہر سے ثابت ہو جائے گا ، بشرطی کہ وہ بھی تاریخ دخول سے ۱۸۰ یوم یا اس سے زائد دنوں میں پیدا ہوا ہو ۔

(۲) اگر اس بھی کی ولادت متارکت یا تغیریق کے بعد ہوئی ہو تو

[دفعہ ۱۳۸]

اس کا نسب ثابت نہ ہوگا الیہ کہ وہ عورت اس بھی کو تاریخ مبارکت یا تقریب سے ایک سال کے اندر جنے۔

دفعہ ۱۳۳ - (۱) وہ عورت جس کے ساتھ شبد میں وطی (صحبت) کی گئی ہو اگر وہ کم از کم مدت حمل اور زائد از زائد مدت حمل کے درمیان بھی جنے۔ تو اس کا نسب وطی کرنے والے مرد سے ثابت ہوگا۔^{۲۳}

۱۲۸ - کسی مرد اور عورت میں شریعت اسلامیہ کے مطابق ازدواجی تعلق قائم ہو کر بھی کی صحیح النسبی بدزیعہ دعویٰ ثابت ہو سکتی ہے۔

ثبت نسب
بدزیعہ دعویٰ

تشريع

قام نسب کے لیے دوسرا ذریعہ ثبوت دعویٰ ہے۔ چنانچہ اگر ایک شخص کسی لڑکے سے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ یہ بیرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد لڑکے کی ماں یہ کہیرہ میں متوفی کی زوجہ ہوں تو یہ عورت متوفی کی زوجہ متصور ہوگی اور وہ لڑکا اس شخص کا بیٹا مانا جائے گا^{۲۴} بشرط کہ اس شخص کا اس لڑکے کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اس کا بیٹا ہے عادتاً محال نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ اس شخص اور بیٹے کی عمر میں ایسا تقاضا نہ پایا جائے کہ اس لڑکے کا اس شخص کا بیٹا ہونا عادتاً محال ہو جیسے کہ مرد کی عمر ۲۵ سال ہو اور لڑکے کی عمر ۲۰ سال۔

اگر ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور اس زوجہ کے دو

(۲۳) قانون الاموال الشخصية ، شام

(۲۴) فتح القدير ، ابن هام ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۷ء ، جلد ۳ ، صفحہ ۳۰۹
کنز الدقائق ، عبداللة نسفي ، مطبع محباني ، دہلی ، ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰ء ، جلد ۱ ، صفحہ ۱۵۰
شرح وقایہ ، جلد ۳ ، صفحہ ۱۹۷

هدایہ ، برهان الدین مرغیانی ، مطبوعہ دہلی ، جلد ۲ ، صفحہ ۶۳۳
مجموع الانہر ، داماد آفندی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء ، جلد ۱ ، صفحہ ۲۲۹
بدائع الصنائع ، امام کلامی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۲۸ھ / ۱۹۰۹ء ، جلد ۲ ، صفحہ ۲۱۲

سال یا اس سے زائد میں بھی پیدا ہوا اور شوہر اس بھی کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ وہ اس کا بچہ ہے تو اس بھی کا نسب اس شخص سے ثابت ہو جائے گا۔^{۲۵}

نکاح کے بعد چہ ماہ سے کم مدت میں بھی کی پیدائش کی صورت میں بھی کا نسب اس مرد سے ثابت نہ ہوگا الیہ کہ وہ (مرد) اس بھی کا دعویٰ کرے (کہ وہ اس کا ہے) اور یہ نہ کہے کہ وہ زنا کا نتیجہ ہے۔

بھی صورت اس وقت ہوگی جب کہ ایک زانی شخص نے اس عورت سے نکاح کیا ہو جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، درآن حالیکہ وہ عورت اس مرد سے حاملہ تھی اور نکاح کے بعد چہ ماہ سے کم مدت میں بھی پیدا ہوا ہو تو اس بھی کا نسب اس مرد سے ثابت نہ ہوگا الیہ کہ وہ مرد اس بھی کا دعویٰ کرے اور یہ نہ کہے کہ بچہ زنا کا نتیجہ ہے۔

۱۲۹ - بھی کی صحیح النسبی کا قیاس ان حالات سے کیا جا سکتا ہے جن سے اس کے والدین میں نکاح کا ہونا قیاس کیا جا سکتا ہو:

(الف) کسی مرد اور عورت میں ازدواجی تعلق قائم ہو کر شربعت اسلامیہ کے مقررہ اصول میں شک و شبہ کے احتمال کے ساتھ بھی کی پیدائش ہوئی ہو تو اس کا نسب بذریعہ حجت ظنی (شهادت و قیاس) ثابت کیا جا سکتا ہے۔

(ب) قیام نسب کے سلسلے میں شرعی اثبات کے تمام وسائل قبول کیجے جائیں گے۔

تشریع

ثبت نسب کا تیسرا ذریعہ شہادت ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ

(۲۵) فتح القدير ابن هام ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۵۶ھ/ ۱۹۷۶ء ، جلد ۳ ، صفحہ ۳۰۳
جمع الانہر ، داماد آفندی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۲۴ھ/ ۱۹۰۶ء ، جلد ۱ ، صفحہ ۲۷۶

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”عورتوں کی شہادت جائز ہے ان امور میں جن کے دیکھنے کی مرد اہلیت نہیں رکھتے۔“ اگرچہ اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے لیکن اس کو ابن ابی شیبہ نے این شہاب زہری سے روایت کیا اور کہا ہے کہ زہری نے فرمایا کہ ”اس بات پر سنت جاری ہوئی کہ ان امور میں عورتوں کی شہادت جائز ہے جن (امور) پر سوا عورتوں کے کوئی اطلاع نہیں پاتا۔“ اس حدیث کو دارقطنی نے محمد بن عبدالملک واسطی کے واسطہ سے روایت کیا ہے اور محمد بن عبدالملک نے اعمش سے اور انہوں نے ابی واائل سے اور انہوں نے حذیفہ سے روایت کیا ہے کہ ”نبی صلعم نے دایہ کی شہادت جائز قرار دی۔“ چنانچہ اگر شوہر بقیام نکاح مجھے کی ولادت سے انکار کرتا ہے تو ایک دائی کی شہادت سے نسب ثابت ہو جائے گا۔

امام محمد ایشیبانی نے بھی اپنی کتاب الآثار میں لکھا ہے کہ ابراهیم شخصی بھی مجھے کے رونے پر (ولادت کے وقت) عورتوں کی شہادت کو جائز سمجھتے تھے۔

البته مطلقہ کے بطن سے پیدا شدہ مجھے کے نسب کے بارے میں مرد کے انکار کی صورت میں امام ابوحنینہ اور صاحبین میں اختلاف ہے۔ امام ابویوسف و امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ مطلقہ عورت نے دوران عدت مجھے جنا اور عدت موجود ہونے کے سبب وہ اپنے شوہر کی فراش ہے اور فراش ہونے سے نسب لازم ہو جاتا ہے لہذا نسب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اور بصورت انکار اگر ضرورت ہے تو یہ کہ مجھے اسی عورت نے جنا ہے اور یہ بات ایک عورت (دائی) کی گواہی سے ثابت ہو جائے گی، جیسا کہ نکاح قائم رہنے کی صورت میں بالاتفاق ثابت ہو جائے ہے۔

امام ابو حنینہ فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت نے وضع حمل کا اقرار کیا تو عدت گزر گئی اور گزری ہوئی چیز حجت نہیں ہوتی، لہذا نئے

مرے سے نسب ثابت کرنے کی ضرورت لاحق ہوگی ۔ اس لیے مکمل گواہی شرط ہے ۔ بالفاظ دیگر وضع حمل کے ساتھ ہی عدت گزر جانے کے بعد عورت اجنبیہ ہو گئی اور اجنبیہ کے بھی کا نسب اس کے سابق شوہر سے ثابت کرنے کے لیے حجت یعنی شہادت شرعی (مکمل شہادت) قائم ہوئی چاہیے جو دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں پر مشتمل ہو ۔ یعنی اگر معتمدہ (وہ عورت جو عدت میں ہو) کے اولاد پیدا ہو اور شوہر منکر ہو تو امام ابو حنیفہ کے تزدیک دو مرد یا دو عورتیں اور ایک مرد کی شہادت سے نسب ثابت ہو جائے گا ۔ لیکن امام ابو یوسف کے تزدیک ایک دائی کی گواہی سے نسب ثابت ہو جائے گا ۔ البتہ اگر حمل ظاهر ہو یا شوہر حمل کا اقرار کرے تو بلا شہادت نسب ثابت ہو گا ۔^{۲۶}

اگر شوہر بھی کی ولادت سے انکاری ہے تو دائی کی شہادت سے نسب ثابت ہو جائے گا ۔ شرح وقاہہ میں لکھا ہے کہ اگر معتمدہ عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے لڑکا جنا اور شوہر نے اس کی ولادت سے انکار کیا تو اگر قبل ولادت حمل ظاهر نہ تھا اور نہ ہی شوہر نے حمل کا اقرار کیا تھا تو امام ابو حنیفہ کے تزدیک ثبوت نسب کے لیے دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہوگی ۔ لیکن صاحبین کے تزدیک صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے ۔^{۲۷}

۴ - امام شافعی کے تزدیک چار عورتوں کی گواہی شرط ہے ۔ امام مالک کے تزدیک دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے ۔ علماء حنفیہ کا اس برواجع ہے کہ اگر نکاح قائم ہو تو ایک دائی کی گواہی سے نکاح

(۲۶) المختصر ، القدوری ، المطبعة الجالية ، ۱۳۰ ، هجری ، صفحہ ۱۷۲
هداہ ، برہان الدین مرغینانی ، مطبوعہ دہلی ، جلد ۲ صفحہ ۱۳۳

(۲۷) شرح وقاہہ ، جلد ۲ ، صفحہ ۱۶۰
هداہ ، برہان الدین مرغینانی ، مطبوعہ دہلی ، جلد ۲ ، صفحہ ۱۳۱

ثابت ہو جائے گا لیکن اختلاف موت اور طلاق کی صورت میں ہے چنانچہ موت اور طلاق کی صورت میں آکھی دافی کی گواہی سے امام ابو حینیہ کے نزدیک نسب ثابت نہ ہوگا، جب کہ صاحبین کے نزدیک ایک دافی کی گواہی سے نسب ثابت ہو جائے گا۔

خلاصہ بحث :

مندرجہ بالا نظائر کا خلاصہ یہ ہے کہ معتقد عورت خواہ معتقد طلاق ہو یا معتقد وفات، طلاق رجعی ہو یا بائن، بیچے کا نسب اس کے باب سے (بصورت انکار) اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کہ اس عورت سے بیچے کی پیدائش پر دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں شہادت دیں یا پہلے سے حمل ظاهر ہو یا شوہر نے اپنی زوجہ کے حاملہ ہونے کا اقرار کر لیا ہو۔ یہ قول امام ابو حینیہ کا ہے ۔

صاحبین کے نزدیک تمام صورتوں میں صرف ایک عورت کی شہادت سے نسب ثابت ہو جائے گا۔ چونکہ عدت کے قیام کی بناء پر عورت کا فراش ہونا ثابت ہے جو نسب لازم کرنے کے لیے کافی ہے اور اصراف اس امر کی ضرورت ہے کہ یہ تعین کیا جائے یا قرار دیا جائے کہ بیچے اسی عورت کا ہے ۔

امام ابو حینیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے وضع حمل کا اقرار کرنے سے شرعاً عدت ختم ہو گئی اور جو چیز گزر چکی ہے وہ آئندہ حکم کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ لامحالہ ثبوت نسب کے لیے کامل حجت کی ضرورت پیش آئے گی۔ چنانچہ حجت بدزیرعہ شہادت دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں، بخلاف اس صورت کے جب واضح طور پر حمل موجود ہو یا شوہر نے حمل کا اقرار کر لیا ہو کیونکہ نسب کا ثبوت پہلے سے موجود ہے اب شہادت کی ضرورت صرف اس لیے ہو گی کہ یہ تعین کیا جائے کہ بیچے اسی عورت کے بطن سے پیدا ہوا ہے ۔

اگر معنده وفات کے بھی پیدا ہو جس کی تصدیق متوف کے ورثا کر دین اور شہادت کوئی بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں تمام امہ کا اتفاق ہے کہ ورثاء کے حق میں بھی کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ البتہ دیگر اشخاص کے حق میں بھی کا نسب ثابت ہو گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک اگر متوف کے ورثا شہادت کے اہل ہیں تو دیگر تمام افراد کے حق میں بھی کا نسب ثابت ہو جائے گا ایسی صورت میں بعض فقہاء کے نزدیک یہ شرط ہے کہ متوف کے ورثا نے تصدیق نسب شہادت کے لفظ کے ساتھ کی ہو لیکن بعض فقہاء کے خیال میں تصدیق اور اقرار کے لیے شہادت کے لفظ کا استعمال ضروری نہیں اور یہی نقطہ نظر صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔^{۲۸}

ایک عورت کے بھی پیدا ہونے کے بعد زوجین میں اختلاف پیدا ہو گی۔ شوہر نے کہا کہ اسے نکاح کیجئے ہوئے صرف چار ماہ گزرے ہیں عورت نے کہا چھ ماہ ہو گئے۔ ایسی صورت میں عورت کا قول معتبر ہو گا، کیونکہ یہاں ظاہر حال کی شہادت عورت کے حق میں ہے یعنی یہ کہ بھی کی پیدائش نکاح کے تحت مانی جائے نہ کہ زنا کا نتیجہ ہو۔^{۲۹}

اگر عورت مطلقہ بائنسہ یا بیوہ ہو اور اس کے بطن سے اولاد پیدا ہو اور اس کا شوہر یا بصورت وفات اس کے ورثاء اس بھی کے نسب کا انکار کریں اور اولاد دو برس سے کم میں ہوئی ہو اور اس عورت نے عدت کے گزر جانے کا اقرار نہ کیا ہو تو اگر دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں نسب کی شہادت دے دیں یا حمل ظاہر ہو یا وارت اس کو سچا بتائیں تو وہ اولاد اسی شوہر کی ہوگی۔^{۳۰}

(۲۸) فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ/۱۸۷۲ء، جلد ۳، صفحہ ۲۰۶-۲۰۷
جمع الانہر، دمام آفندی، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۹ھ/۱۸۹۷ء، جلد ۱، صفحہ ۲۲۷-۲۲۸

(۲۹) فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ/۱۸۷۲ء، جلد ۳، صفحہ ۲۰۹
کنز الدقائق، عبداللة نسف، مطبع عجیبی دہلی، ۱۳۳۸ھ/۱۸۱۰ء، صفحہ ۱۳۹-۱۴۰

نسب بذریعہ اقرار ۱۵۰ - جب کسی بھر کا نسب غیر متعین ہو تو شرع اسلام کے مطابق اقرار کے ذریعہ نسب ثابت کیا جا سکتے گا۔ مگر لازم ہے کہ اس اقرار کا اثر، سوانح ماد باب اور بھر کے، دیگر اشخاص پر ان کی تصدقی کے بغیر نہ پڑے گا۔

تشریح

جب کسی بھر کا نسب بطریق معقول اپنے باب سے ثابت نہ ہو یعنی یہ اس ثابت نہ ہو کہ اس کا نطفہ قرار پکڑنے کے وقت اس کے والدین میں صحیح ازدواجی تعلق قائم تھا، تو شرع اسلام کے تحت اقرار بالنسب کے ذریعہ نسب ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن اگر بھر کا کسی دیگر شخص کے تعلق سے صحیح النسب ہونا ثابت ہو جائے تو اقرار نسب غیر موثر ہو گا۔ بالفاظ دیگر اقرار بالنسب کے اصول کا اطلاق صرف ایسی صورت میں ہو گا جب کہ نسب غیر متعین اور ببھم ہو۔

اقرار بالنسب کی شرائط :

اقرار بالنسب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ صحیح النسبی شرعاً، عادتاً اور عرفاً ممکن ہو مثلاً باعتبار عمر وہ شخص اس بھر کا باب ہو سکتا ہو، وہ عورت محروم میں سے نہ ہو اور وہ بھر کسی دوسرے شخص کی مشہور و معروف اولاد نہ ہو۔

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اقرار بالنسب کے اصول کی حیثیت ایک قاعدة شہادت کی نہیں ہے بلکہ یہ قانون اصلی (substantive law) کا ایک جزو ہے۔ چنانچہ اقرار بالنسب کے سلسلے میں عدالتون کو اسلامی احکام فقه پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔

اقرار بالنسب کا صریح ہونا ضروری نہیں اگر ایک شخص عادتاً اور علالیہ طور پر اس بھر کے ساتھ مثل اپنی صحیح النسب اولاد کے سلوک کرتا رہا ہے تو اس واقعہ سے صحیح النسبی کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔

اسلامی مالک میں اقرار بالنسب کے احکام

عراق :

دفعہ ۵۲۔ (۱) اقرار فرزندی اگرچہ مرض الموت میں کیا جائے

مجہول النسب کے واسطے ثبوت نسب کا موجب ہوگا، جب کہ اس اقرار کے ساتھ مقر کا مثل اس مقرلہ کے لڑکا پیدا ہو سکتا ہو۔

(۲) جب کہ مقر شادی شدہ یا معتمدہ عورت ہو تو اس کے بھر کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہ ہوگا مگر ساتھ شوہر کی تصدیق یا گواہی کے۔

۳۔ مجہول النسب کا کسی کے بارے میں باب یا مان ہونے کا اقرار کرنے سے اس اقرار سے نسب ثابت ہو جاتا ہے، جب کہ مقرلہ اس کی تصدیق کر دے اور وہ لڑکا ایسا ہو کہ اس کا مثل پیدا ہو سکتا ہو اس مقر کے۔

(۴) اقرار کرنا ساتھ نسب کے علاوہ یہی ہونے کے، باب ہونے کے اور مان ہونے کے، نہیں سراحت کرے گا غیر مقر بر (یعنی جس شخص نے اقرار کیا ہے اس کے سوائے دوسرے اشخاص پر اس کے اقرار کا اثر نہ پڑے گا) الہ یہ کہ دوسرا شخص (جس پر اثر پڑے) اس کی تصدیق کرے۔^{۷۱}

شام :

دفعہ ۱۳۶۔ (۱) مجہول النسب کے لیے اس کا نسب اقرار کننده سے ثابت ہو جاتا ہے واسطے فرزندی کے اقرار سے خواہ وہ مرض الموت میں ہو، جب کہ عمر میں ایسا فرق ہو جو اس فرزندی کا احتمال رکھتا ہو۔

(۲) جب کہ اقرار کننده عورت منکوحہ یا معتمدہ ہو تو بھر کا

(۷۱) قانون الاحوال الشخصية

نسب ثابت نہیں ہوتا ہے مگر ساتھ باہمی تصدیق کے یا بذریعہ گواہی کے۔

دفعہ ۱۳۵ - اگر کوئی محبول النسب کسی کے متعلق یہ اقرار کرے کہ وہ اس کا باپ یا مان ہے تو اس کا نسب اس مرد یا مورث سے ثابت ہو جائے گا جب کہ مقولہ (جس کے لیے اقرار کیا جائے) نے اس کی تصدیق کی ہو اور دونوں کے درمیان عمر میں ایسا تقاضا پایا جائے جو اس تعلق کا اختال رکھتا ہو۔

دفعہ ۱۳۶ - کسی شخص کے بارے میں فرزند، باپ یا مان ہونے کے اقرار کا اثر غیر مقرر پر نہیں ہوگا الا اس (شخص) کی تصدیق کے۔^{۲۲}

عدالتی فیصلے :

بمقدمہ محمد عظمت بنام لالی یگم پریوی کونسل نے یہ تحریر کیا کہ متعدد مقدمات میں یہ طریقہ ہو چکا ہے کہ اقرار بالنسب کا صریح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا اپنی اولاد کے نسب کا اقرار اس کے علاویہ پدرانہ برتواء سے لگایا جا سکتا ہے۔^{۲۳}

اقرار بالنسب اور بار ثبوت کے سلسلے میں پریوی کونسل نے بمقدمہ حبیب الرحمن بنام الطاف علی اس مسئلہ میں تفصیل کے ساتھ لکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ مسلمانوں میں بغیر کسی رسم کے نکاح منعقد ہوتا ہے، اس لیے براہ راست نکاح کا ثبوت ہر حالت میں دستیاب ہونا مشکل ہے۔ جہاں نکاح کا بلا واسطہ ثبوت نہیں مل سکتا، وہاں قیاسی ثبوت کافی متصور ہوتا ہے۔ بالواسطہ یا قیاسی ثبوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اولاد کی صحیح النسبی کا اقرار کیا جائے یہ اقرار نہ صرف فرزندی بلکہ صحیح النسب فرزندی کا ہونا چاہیے۔ نیز یہ کہ اقرار مذکور ظاہراً ناممکنات میں سے نہ ہو۔ جب شرائط مذکور مکمل ہو جاتی ہیں تو اقرار کی وقت مغض

(۲۲) ۱۸۸۱ع آفی۔۱۔

(۲۳) قانون الاحوال الشخصية

شهادتی بیان سے بالآخر ہو کر نکاح کا قیام قائم کریں گے اس قیاس سے زوجہ اور بیٹا دونوں بھیتیت مدعی فائدہ اُلہا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ واقعی قیاس ہے نہ کہ قیاس قطعی، اس سے دیگر واقعی قیاسات کی طرح اس کے خلاف ثابت کرنے سے اس کی تردید ممکن ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس دعویدار یہی کی تائید میں صحیح النسبی کا باضابطہ اقرار موجود ہو اس کی مان کا نکاح ثابت شدہ اور اس یہی کی صحیح النسبی سسلمہ تصور کی جائے گی تاوقیکہ اس نکاح کی تردید نہ کی جائے۔^{۳۴}

۱۵۱۔ اقرار بالنسب جو بہ پابندی احکام شرع کیا جائے ناقابل رجوع ہو گک

اقرار بالنسب
سے رجوع

تشريع

اگر کوئی باپ کسی بھر کے بارے میں یہ اقرار کرے کہ وہ اس کا ہے، اور وہ رشتہ شرعی اور واقعی اعتبار سے ممکنات میں سے ہو تو پھر امن مرد کو یہ اختیار نہ ہو گا کہ اس سے منعرف ہو جائے۔ چنانچہ جو اقرار بالنسب ایک بار کر لیا جائے اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔

۱۵۲۔ اسلام میں کسی کو متبنی بنالا بہ لحاظ احکام شرع یہ اثر ہو گا۔

متبنی بنانا

تشريع

مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حرثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی اور عدت گذر جانے کے بعد رسول اللہ نے بحکم اللہ اس سے نکاح کر لیا تو لوگوں نے طعنہ رزق کی کہ اپنے بیٹے کی مطاقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ تب ”ما كان مهد ابا احمد من رجالكم“^{۳۵} والی آیت قرآنی نازل ہوئی کہ مهد (صلعم) تم آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔

(۳۴) (۱۹۲۱ع) ۳۸، آفی - اے - ۱۱۳، ۱۲۰-۲۱،

(۳۵) پارہ ۲۲ سورہ الحزاب ۷۰

زید بن حارثہ جن کو آپ نے متبنی کر لیا تھا آپ کے واقعی بیٹے نہیں بن گئے تھے کہ آپ ان کی مطلقہ بیوی سے نکاح نہ کر سکیں۔ اس آیت سے یہ حکم مرتب ہوا کہ کسی کو متبنی بنا لینے سے اس کو شرعاً اولاد کا درجہ اور حق حاصل نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کا متبنی ہو تو اسے وہ حقوق حاصل نہ ہوں گے جو اولاد کو ماں باپ پر حاصل ہوتے ہیں مثلاً حق نفقہ یا وراثت وغیرہ۔ اسی طرح تبیت میں لینے والا بھی متبنی کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔

بعض حضرات جو کھیج ہان کر تبیت کو اسلام میں بایں طور راجح کرنے کا خیال رکھتے ہیں کہ اس میں اولاد حقیقی کے حقوق قائم ہو جائیں حضور کے زمانے کے "عقد مواخات" کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حکم دیا کہ مہاجر و انصار آپس میں "عقد مواخات" کر لیں یعنی ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لیں۔ اس کے نتیجے میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو جاتے تھے اور ان میں وراثت بھی جاری ہو جاتی تھی۔ لیکن اس واقعہ سے یہ استدلال باطل ہے کیونکہ اس واقعہ کے بعد "آیت قرآنی" "وَالْوُلُو الْأَرْحَامُ بِعِصْمِهِمْ أُولَئِي بِعِصْمِهِمْ" نازل ہوئی جس نے یہ تصریح کر دی کہ ذوی الارحام آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور اس طرح "عقد مواخات" کے ذریعہ وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض حضرات تبیت میں لینے والے شخص اور متبنی کے درمیان بر بنائے معاہدہ تبیت وراثت جاری کرنے کے حق میں نظر آتے ہیں لیکن وراثت بر بنائے معاہدہ جاری نہیں ہو سکتی۔ البتہ تبیت میں لینے والا متبنی کے حق میں ایک تھائی کی حد تک وصیت کر سکتا ہے جیسا کہ وہ کسی اجنبی کے لیے کرنے کا شرعاً مجاز ہے۔

خستان

پرورش کا حق

ایسوال باب

حصانت

۱۵۳ - سات سال سے کم عمر لڑکے اور تا حد بلوغ لڑکی کی حصانست کا حق مان کو حاصل ہوگا الا یہ کہ کسی سبب سے شریعت نے اس کو غیر مستحق قرار دیا ہو :

مگر لازم ہے کہ حق حصانست میں بچہ کی فلاح و بہبود اور حفاظت کا لعاظ رکھا جائے ۔

تفسیر بیح

حصانست کے لغوی معنی تریت کے ہیں ۔ شرعی اصطلاح میں مان یا کسی شرعی مستحق کے چھوٹے بچے کو پرورش کرنے کو "حصانست" کہتے ہیں ۔

اجاع :

اس امر میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بچہ کی پرورش کی مستحق سب سے پہلے اس کی مان ہے ۔ دوسرا رشتہ داروں کا درجہ اس کے بعد ہے ۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ اس لڑکے یا لڑکی کی پرورش کا حق مان کو کتنی عمر تک رہتا ہے ؟

حنفیہ سلک :

امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب لڑکا خود کھانے پینے، لباس پہننے اور استنچا کرنے لگے تو اس کی پرورش کا حق مان سے باپ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ۔ لڑکے کی اس حالت دو ہیچھے کی عمر کا اندازہ علامہ خصاف نے سات آنھے سال بیان کیا ہے ۔ البتہ مان کو لڑکی کی پرورش کا حق اس

کے بالغ ہونے تک ہے ۔ یہی قول امام ابو یوسف کا ہے ۔ امام محمد کے نزدیک جب لڑکی میں نفسانی خواہش ظاہر ہو تو اس وقت تک مان کو پرورش کا حق حاصل ہے ۔ متأخرین احباب نے امام محمد کے قول کو پسند کیا ہے ।

امم ثلاثہ کا نقطہ نظر :

امام مالک کے نزدیک مان کو لڑکے کی پرورش کا حق اس وقت تک ہے جب تک وہ لڑکا واضح طور پر بات چیت کر سکے اور لڑکی کا شادی ہونے تک ۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک لڑکے اور لڑکی کی پرورش کا حق دونوں کی سات سال عمر ہونے تک مان کو حاصل ہے ۔ اس کے بعد بھی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ مان اور باپ میں جس کو پسند کرے اس کے سپرد کر دیا جائے ۔^۲

شیعی فقہاء کی رائے :

شیعی فقہ کی رو سے مان کو لڑکے کے متعلق دو سال اور لڑکیوں کے متعلق سال کی تکمیل تک حق حضانت حاصل رہتا ہے ۔ جب بھی مذکورہ بالا عمر کی حد کو پہنچ جائیں تو باپ کو حق حضانت حاصل ہو جاتا ہے ۔^۳ اس ضمن میں اہلسنت و الجاعت کا مسلک صواب سے قریب تر معلوم ہوتا ہے ۔ نابالغوں کی مصلحتیں بھی اسی کے مقاضی ہیں اور اسی بنیاد پر قانون سازی مناسب ہوگی ۔

قرآن میں ظاہر نص نہیں :

مان کے حق حضانت کے بارے میں قران کریم میں کوئی آیت ظاہر

(۱) مجمع الانہر، داماد آفندی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۷ھ/ ۱۸۸۲ء، صفحات ۸۲-۸۱

بدائع الصنائع، امام کلبانی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ھ/ ۱۸۸۳ء، جلد ۲، صفحہ ۴۴

فتح القدير، ابن ہمام مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/ ۱۹۳۷ء، جلد ۳، صفحہ ۳۱۶

(۲) المعنی، ابن قدامة مطبوعہ مصر، ۱۳۶۰ھ/ ۱۹۴۱ء، جلد ۲، صفحات ۶۱-۶۰

(۳) شرائع الإسلام، نجم الدین جعفر، مطبوعہ تهران، القسم الثانی صفحات (۱ و ۲)

نص کے طور پر اس مسئلہ میں موجود نہیں البتہ اقتضاء نص کے طور پر
فقہاء نے آیت رضاعت ”والوالدات برضعن اولاد هن حولین کاملین لعن ارادان
یم الرضاعة“ سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو
پورے دو سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جو رضاعت
مکمل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس آیت سے اقتداء نص کے طور پر یہ ثابت
ہوتا ہے کہ صغر سنی میں بھی کی پرورش کا حق اولًا مان کو حاصل ہے۔

احادیث نبوی :

فقہاء نے مان کے حق حضرات میں مذکورہ آیت قرآنی کے ساتھ متعدد
احادیث سے بھی استدلال کیا ہے چنانچہ جن احادیث سے اس مسئلہ میں
استبطاط کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) ”پس نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم (فتح مکہ کے بعد) حمزہ
کی بیٹی نے آپ کا تعاقب کیا اور آواز دی اے چجا، اے چجا،
پس اس بھی کا ہاتھ حضرت علی نے پکڑ لیا اور فاطمہ سے کہا:
اپنے چچا کی بیٹی کو لو۔ چنانچہ فاطمہ نے اس کو انہا لیا۔ اس
بارے میں حضرت علی، زید اور جعفر نے جھگڑا کیا،
حضرت علی نے کہا کہ میں نے اسے لی لیا ہے اور وہ میرے
چچا کی بیٹی ہے۔ اور جعفر نے کہا کہ وہ میرے چچا کی
بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور زید نے کہا
کہ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا کہ خالہ مان کے
درجے میں ہے۔“^۱

(۲) فخر ج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبعتہ ابنة حمزة تناولی باعم فتناولها على
فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها على و زيد و
جعفر ، قال على انا اخذتها وهي بنت عمى ، وقال جعفر ابنة عمى و خالتها
عمى ، وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها - وقال
الحالة بمنزلة الام - الخ (بخاری) مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۵۰
والسنن الکبریٰ بیہقی مطبوعہ دکن جلد ۸ صفحہ ۵

(۲) ”عمرو بن شعیب نے اپنے باب اور ان کے باب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے روایت کی کہ ایک عورت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی (اور عرض کیا) یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میرا بیٹھ ظرف تھا اور میری چھاتی مشکیزہ اور میری گود اس کے لیے پناہ گاہ تھی۔ اس کے باب نے مجھے طلاق دے دی ہے اور چاہتا ہے کہ اسے مجھے سے لے لے پس رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ تو اپنے بھی کی زیادہ مستحق ہے جب تک کہ تو (دوسرा) نکاح نہ کر لے۔“

(۳) ”حدیث بیان کی مجھ سے رافع بن سنان نے کہ تحقیق انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی بیوی نے اسلام لانے سے انکار کیا پس وہ نبی کریم صلعم کے پاس آئی اور کہا کہ میری بیٹی کا دودھ چھوٹ گیا اور رافع نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے نبی صلعم نے رافع سے کہا کہ ایک طرف بیٹھ جاؤ اور اس کی عورت سے کہا کہ تم بھی ایک طرف بیٹھ جاؤ اور کہا کہ بھی کو درمیان میں بٹھاؤ پھر کہا کہ تم دونوں بلاڑ پس وہ بھی اپنی ماں کی طرف مائل ہوئی۔ پس نبی صلعم نے دعا کی، کہ اے اللہ اس لڑکی کو هدایت فرم اپنے باب کی طرف مائل ہو گئی۔ چنانچہ رافع نے اس سے بیٹی کو لے لیا۔“

(۴) عمرو بن شعیب عن ایہ عن جده عبداللہ بن عمرو ان امراء قالیت یا رسول اللہ ان اپنی هذا کان بطی لہ و عامہ و ثدل لہ ستاء و حجری لہ حواء و ان اباہ طلقی اراد ان ینزعه منی فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انت انت انت انت به مالم تنكحی۔ (السنن الکبریٰ بیہقیٰ، مطبوعہ دکن، جلد ۸، صفحات ۵-۶)

(۵) حدیثی رافع بن سنان انه اسلم و ایت امرأته ان تسلم فاتت النبی صلعم فقاتت ابنتی وهي نظیر وقال رافع ابنتی فقاتل النبی صلعم لرافع اقدم ناحية وقال لام اله اقدمی ناحية، قال واقدم الصبية بینهما ثم قال ادعواها فماتت الصبية الى امها، فقال النبی صلعم، اللهم اهد ها فماتت الى امها فاخذتها۔ (السنن الکبریٰ بیہقیٰ مطبوعہ دکن، جلد ۸، صفحہ ۳ ابو داؤد، مطبوعہ کارخانہ تجارت کتب کراچی جلد اول، صفحہ ۳۰۵)

(۴) ”ابی میمونہ سے مروی ہے ، انہوں نے کہا کہ ہم ابی ہریرہ کے پاس تھے پس ابی ہریرہ نے کہا کہ ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میرا باب اور مان آپ پر قربان ہوں میرا شوہر چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو لے جائے اور وہ مجھے نفع دیتا ہے اور ابی عینہ کے کنوں سے پانی پلاتا ہے پس اس کا شوہر آیا اور کہا کون جھگڑا کرتا ہے مجھ سے میرے بیٹے کے بارے میں ؟ پس فرمایا رسول اللہ نے کہ اے لڑکے ! یہ تیرا باب ہے اور یہ تیری مان ہے پس جس کا ہاتھ چاہ تھام لے - لڑکے نے مان کا ہاتھ تھام لیا اور وہ عورت اس لڑکے کو لے کر چلی گئی ۔“

(۵) ”عمارۃ الجرمی سے مروی ہے ، انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے مجھے اختیار دیا دریان میں مان اور چجائے ، پھر کہا میرے بھائی کے واسطے جو مجھ سے چھوٹا تھا ، اور یہ ایسا ہی ہے - اگر اس کی عمر کو پہنچ گا اس کو یہی اختیار میں دون گا ۔“

(۶) ”یان کیا مجھ سے عبدالرحمن بن ابی الزناد نے ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باب سے جو روایت کرتے ہیں فقہاء سے جن کا قول

(۷) عن ابی میمونة قال بینا انا عند ابی هریرة فقال ان امرأة جاءت الى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فقالت فذاك ابی وامي ان زوجي يريد ان يذهب باني وقد نعمني وسائلی من بذر ابی عینہ فباء زوجها وقال من يخاصمنی فاني فقال : يا غلام هذا ابوک و هذا امک فخذ بیدا یهما شئت فاخذ بیدا یهما فانطلقت به - (نسائی مطبوعہ اصح الطایع ، کراچی ، جلد ۲ ، صفحہ ۹۳ و السن التکری بیہقی ، مطبوعہ دکن ، جلد ۸ ، صفحہ ۳)

(۸) (عن عمارۃ الجرمی - قال خیری على رضی اللہ عنہ بین امی و عمی ثم قال لآخر لی اصغر منی ، وهذا ایضاً لوقد بلغ مبلغ هذا لخیرته - (السن التکری البیہقی ، مطبوعہ دکن ، جلد ۸ ، صفحہ ۴)

پہنچتا ہے اہل مدینہ سے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فیصلہ کیا
ابویکر نے عمر الخطاب کے خلاف، ان کے بیٹے عاصم کے حق
میں عمر کی نافی کے واسطے، اس کی حضانت کے بارے میں
یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گیا اور ام عاصم اس دن زندہ تھی اور
(دوسرے شخص) کے نکاح میں تھی۔^۹

(۷) ”قاسم بن محمد سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب
کے پاس انصار میں سے ایک عورت تھی جس نے ایک لڑکا عاصم
بن عمر جنا۔ پس حضرت عمر نے اس کو طلاق دے دی۔ پس
ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر سوار قبا کی طرف جا رہے تھے
کہ اپنے بیٹے کو مسجد کے سامنے کھیلتا ہوا پایا۔ اس کے بازو
کو پکڑ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان سواری پر بثہ
لیا، لڑکے کی نافی نے اس کو پا لیا۔ پھر نافی اور حضرت عمر
کا اس لڑکے میں جھگڑا ہوا۔ دونوں ابویکر صدیق کی خدمت
میں آئے۔ حضرت عمر نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابویکر
نے فرمایا اسے عمر اس عورت اور اس لڑکے کو چھوڑ دے۔
پس حضرت عمر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا (اس فیصلے
سے کوئی تعریض نہیں کیا)۔^{۱۰}

(۹) ثنا عبدالرحمن بن ایہ الزناد، عن ایہه عن الفقهاء الذين یستحبی الی قولهم من
اہل المدینة كانوا یقولون، قضی ابویکر الصدیق علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
عنہما لجدة ابینه عاصم بن عمر بمحضاته حتی نیبلغ وام عاصم یومذہ حیة متزوجة
(السنن الکبریٰ، بیہقی، مطبوعہ دکن، جلد ۸ صفحہ ۵)

(۱۰) عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من
الأنصار فولدت له عاصم بن عمر - ثم فارقتها عمر رضي الله عنه فركب يوماً
إلى قباء فوجدا بهن يلعب بفناء المسجد فأخذ ببعضه فوضعه بين يديه على الدابة
فادركته جدة الغلام فنمازعته اباه فأتى بلال حتى أيا ابا يکر الصدیق رضي الله عنه
 فقال عمر رضي الله اباه - فقال ابویکر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما
راجعه عمر الكلام - (السنن الکبریٰ، بیہقی، مطبوعہ دکن جلد ۸، صفحہ ۵)

(۸) ”مسروق سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ام عاصم کو طلاق دی۔ وہ (عاصم) اپنی نافی کی زیر پرورش تھا۔ پس امن نافی نے ابویکر کی خدمت میں تنازعہ پیش کیا۔ حضرت ابویکر نے فیصلہ دیا کہ لڑکا اپنی نافی کے پاس رہے گا اور حضرت عمر کو نفقة دینا ہوگا اور فرمایا کہ یہ (نافی) اس لڑکے کی (پرورش کی) زیادہ حقدار ہے۔“^{۱۱}

(۹) ایک اور روایت میں ہے کہ پس فیصلہ کیا ابویکر نے اس لڑکے کی مان کے حق میں، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرمائی سنہیں چھڑاؤ والدہ کو اس کے بیٹے سے۔^{۱۲}

علامہ ابن قدامہ مقدسی کی رائے :

کتاب المغنى کے مصنف علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلي نے لکھا ہے کہ ”الام احق بکفالة الطفل والمعتوه اذا طلت“، مجھے اور عدم العقل کی پرورش کی مان زیادہ حق دار ہے، جبکہ اسے طلاق دے دی گئی ہو اور اس کی دلیل میں مذکورہ بالا تکمیر ^۲ حدیث عمرو بن شعیب کی اور ابویکر رضی اللہ عنہ کا اثر مذکورہ بالا ^۶، اور ^۸ پیش کیا ہے۔ پھر فرمایا ہے ”ولَا نَهَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ وَأَشْفَقَ عَلَيْهِ وَلَا يُشَارِكُهَا فِي الْقُرْبِ إِلَيْهِ وَلَا يَتَوَلَّ الْحُضَانَةَ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْفَعُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَإِمَّهُ أُولَى بِهِ مِنْ أُمَّ إِلَيْهِ“، یعنی مجھے سے زیادہ قریب اور زیادہ شفقت رکھئے والی مان ہوا کری ہے۔ اس قرب و شفقت میں باب کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا اور حقیقت تو یہ ہے۔ کہ باب بھی مان

(۱۱) عن مسروق ان عمر رضی اللہ عنہ طلق ام عاصم فكان في حجر جدته فخاصلته الى ابویکر رضی اللہ عنہ فقضی ان یکون الولد مع جدته و النفقۃ على عمر رضی اللہ

عنہ وقال هي الحق به (السنن الکبریٰ ییہقی مطبوعہ دکن جلد ۸ صفحہ ۵)

(۱۲) فقضی به ابویکر رضی اللہ عنہ لامہ ثم قال سمعت رسول اللہ صلعم يقول لاتوله والدہ عن ولدہا۔ (السنن الکبریٰ ییہقی مطبوعہ دکن، جلد ۸ صفحہ ۵)

جسی شفقت نہیں رکھتا اور نافی دادی کی نسبت سے اولیا ہو گی - نیز والدہ کی حضانت کے تقدیم میں ایک اور مقام پر اسی کتاب میں این مقدسی نے لکھا ہے کہ "والحضرات انما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يکون فيه هلاکه و هلاک (دینہ)" اور حضانت بھی کی ہبودی و فلاح کے پیش نظر مقرر کی گئی ہے۔ لہذا کسی ایسے طریقے پر درست نہ ہوگی جس سے بھی کی ذات اور دین کے ضالع ہونے کا اندازہ ہو۔^{۱۳}

ابن ہام کی تصریح :

اسی طرح برهان الدین مرغیبان صاحب عدایہ اور کمال الدین ابن ہام صاحب فتح القدير نے سابقہ دونوں روایات کا حوالہ دیا ہے اور اس کی علت یا ان کرتے ہوئے فرمایا ہے "ولان الام اشدق و اقدر على الحضارة فكان الدفع اليها انظر و اليه اشار الصديق رضي الله عنه بقوله، ريقها خير من شهد و عسل عندك يا عمر رضي الله عنه" یعنی اس لیے کہ ماں بھی کے حق میں التہا سے زیادہ شفیق ہوتی ہے اور نگرانی و حفاظت پر مرد کی نسبت سے زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ اسی شفقت کی طرف حضرت صدیق رضي الله عنه نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ "اے عمر! بھی کی ماں کا لعب دھن بھی کے حق میں تمہارے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہو گا" صاحب فتح القدير اس کی شرح میں فرماتے ہیں "و اما كانت اشدق عليه لانه كان جزا لها حقيقة ، حتى قد يفرض بالمتراض و اقدر على الحضارة لتبتلها بمصالحا والرجل اقدر على الاكتساب ولذا جعلت نفقته عليه" یعنی ماں بای کی نسبت سے اس لیے زیادہ شفیق ہوتی ہے کہ حقیقت میں بچہ ماں کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات بھی کو قینچی کے ذریعہ کاٹ کر ماں سے جدا کیا جاتا ہے، اور عورت اسی پرورش میں مشغول

(۱۳) المفتی، ابن قدامة، مطبوعہ مصر، ۱۳۶۷ھ، جلد ۲، صفحات ۶۱۳-۱۴۳

ہونے کی وجہ سے حضانت پر زیادہ قدرت رکھتی ہے، بخلاف مرد کے کہ وہ مال حاصل کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، چنانچہ یہی کی منقولہ روایت (۷) اس کی دلیل میں پیش کی ہیں۔ و نیز موطا، امام مالک و مصنف، این ابی شیبہ کے حوالے سے بھی ان روایات کو نقل کیا ہے۔^{۱۴}

مان کے حق فائق کی علت :

اسی طرح امام شافعی رحمة الله عليه نے استدلال میں یہی احادیث پیش کی ہیں اور والدہ کے تقدم کی علت ان الفاظ میں بیان فرمائی ”فِمَا كَانَ لَا يَعْقُلُ كَانَ الْأَمْ أَوْلَى بِهِ عَلَى أَنْ ذَلِكَ حَقٌ لِلْوَلَدِ لَا لِلْأَبْوَابِ لَأَنَّ الْأَمْ أَخْنَى عَلَيْهِ وَارِقَ مِنَ الْأَبِ“^{۱۵} پس جب کہ مجھے ناسجو ہو تو مان اس کی پیروزی زیادہ خدا کے۔ کیونکہ یہ حق بھی کا ہے نہ کہ والدین کی محبت و الفت و شفقت کے درجات کا، جس کا اندازہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل احادیث سے بھی ہوتا ہے۔

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ اعْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَّقِلُوْنَ الصَّبِيَّاْنَ فَلَا تَنْتَبِلُوهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ أَوْ اسْلَكْ لَكَ لَكَ أَنْ تَرْزَعَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِكَ الرَّحْمَةُ“، متفق عليه۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی عرب حاضر ہو کر کہنے لگا آپ لوگ بیوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آنحضرت صلم نے فرمایا جب کہ اللہ نے تیرے دل سے رحم کو تکال دیا ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ ”وَ عَنْهَا قَالَ جَائَتِنِي امرأةٌ وَ مَعْهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسَالَنِي فَلَمْ أَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَكْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ ابْنَتِهَا وَلِمْ تَكَلَّ مِنْهَا الْغُصَّةُ“، یعنی حضرت عائشہ

(۱۴) فتح القدير، ابن همام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/ ۱۹۳۷ء، صفحہ ۳۱۲۔

(۱۵) کتاب الام، امام شافعی مطبوعہ مصر، ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۶۲ء، جلد ۸، صفحہ ۲۳۵۔

رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میرے پاس ایک سالہ آئی جس نے مجھ سے سوال کیا اس وقت میرے پاس سوانی ایک چھوارے کے اور کچھ موجود نہ تھا۔ میں نے وہ چھوارہ اس عورت کو دے دیا اس نے اس کے دو حصے کر کے اپنی ان دونوں بیجوں کو دے دیا (جو ہم راہ تھیں) اور خود نہ کھایا۔^{۱۹۱}

تجزیہ :

مذکورہ بالا دونوں روایتوں سے مان اور باب کی شفقت و محبت کا اندازہ کرنا اور اس سے بروشور کے حق میں مان کا مقدم ہونا واضح ہو جاتا ہے، الٰی یہ کہ ایسے عوارض پیش آجائیں جن کی بناء پر مجھے کے حق میں مان کی اس محبت و شفقت کے معدوم ہو جانے کا ظن غالب پیدا ہو جائے، چنانچہ سابقہ احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا ”انت احق به مالم تنکحی“، اس وقت تک تو مجھے کی زیادہ مستحق ہے جس وقت تک دوسرا نکاح نہ کر لیے، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد عورت کو چونکہ دوسرے شوهر سے ازدواجی تعلق پیدا ہونے کی بناء پر اس کی اولاد سے شفقت و محبت کا لگاؤ پیدا ہو جائے گا اور ساتھ ہی شوہر ثانی کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہنا ہو گا اس لیے ابھر اول شوہر کے مجھے کی بروشور کا حق ادا نہ کر سکے گی۔ (اس مسئلہ پر تفصیلی بحث آگئے آئے گی)۔ اسی طرح فقہا نے مان کے فاسقہ یا غیر مامونہ ہونے کی صورت میں بھی حق حضانت کو ساقط تصور کیا ہے۔

نتیجہ فکر :

ان تمام احادیث و آثار سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حق بروشور میں مجھے کی بہبودی اور حفاظت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اور حالات

(۱۹۱) بخاری و سلم بحوالہ مشکوہ مطبوعہ نور محمد کراچی، جلد ۲، صفحہ ۱۳۶

کے تقاضے کو نظر انداز نہ کیا جائے گا۔ اور جہاں تک ممکن ہو مان کو تقدم حاصل ہوگا اگر کوئی مانع موجود نہ ہو اور بعض موقع میں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ بھی کو مان اور باب کے درمیان اختیار دینا مناسب ہو گا۔ اور ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ مان اور باب کے ہوتے ہوئے مان کے سلسلہ کے دوسرے رشتہ داروں، نانی یا ماموں کے زیر پرورش دینا بہتر ہو گا۔ اگر حالات کا تقاضا یہ ہے کہ والدہ کی زیر پرورش دینے سے بھی کو دنیوی یا دینی نقصان پہنچے گا تو اس وقت حاکم عدالت کو بھی کے حق میں بہتر طریقہ کا انتخاب از خود کرنا ہوگا۔ اس طرح اگر ایسے افراد جن کو اوناً یا ثانیاً بھی کی پرورش کا حق حاصل تھا موجود نہ ہوں تو خود حاکم کو یہ حق منتقل ہو جائے گا اور پھر حاکم بھی کے عصبات کے علاوہ ایسے رشتہ داروں میں سے کسی کو انتخاب کرنے گا جو حتی الامکان بھی کا ذی رحم محروم ہو اور سلسلہ نسب بھی تک عورت کے واسطے سے پہنچا ہو۔ چنانچہ محمد بن حسن رحمة الله عليه نے فرمایا کہ اگر بھی کا چچا زاد بھائی ہو اور ماموں بھی تو ایسی صورت میں ماموں کو مقدم سمجھا جائے گا کیونکہ چچا زاد بھائی محروم نہیں ہے اور ماموں محروم ہے اور اس کا سلسلہ نسب بھی تک مان کے واسطے سے پہنچا ہے۔^{۱۷}

مالک اسلامیہ میں رائج الوقت قوانین

قالون الاحوال الشخصية ، عراق :

دفعہ ۲۵۔ (الف) مان اپنے بھی کی حضانت اور تربیت کی ، دوران زوجیت اور بعد تفہیق ، سب سے زیادہ مستحق ہے ۔

(ب) شرط ہوگا کہ حاضنہ عورت ، بالغ ، عاقل اور بھی کے تربیت و

(۱۷) بداع الصنائع ، امام کلامی ، سطیو عصر ، ۱۳۲۸ھجری ، جلد ۲، صفحہ ۲۳

حفظ پر قادر ہو اور کسی ایسے شخص کے لکھ میں نہ ہو جو حضون کے لیے اجنبی (غیر محرم) ہو ۔

(ج) جب زوجین حضانت کی اجرت اور سدت کے تعین میں اختلاف کریں تو قاضی اس کا تعین نابالغ کے مصاحت کے پیش نظر کرے گا ۔

(د) باپ اور اس کے علاوہ جو بھی ولی ہو ان پر لازم ہے کہ وہ حضون کے معاملے میں اس کی تربیت اور تعلیم کی خیال رکھیں یہاں تک کہ وہ اپنے عمر کے سال مکمل کر لے ۔ لیکن وہ بھی سوائے حاضنہ کے کسی اور کے پاس نہ رہے گا، جب تک کہ قاضی اس کے خلاف حکم نہ دے ۔

(ه) قاضی اس امر کا مجاز ہے کہ وہ بھی کی حضانت کی برقراری کے لیے اجازت دے ، جب کہ اس پر یہ ظاہر ہو جائے کہ بھی کی مصلحت اس امر کی متناقضی ہے ۔

قانون الاحوال الشخصية، مصر :

دفعہ ۲۰۔ قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کو حضانت کی اجازت دے دے ، لڑکے کی خورت میں سات سال کے بعد نو سال تک اور لڑکی کے واسطے نو سال کے بعد گیارہ سال تک جب کہ ان دونوں کی مصلحتیں اس بات کی مقتضی ہوں ۔

قانون الاحوال الشخصية تیونس :

دفعہ ۶۰۔ باپ اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کے لیے لازم ہے کہ وہ حضون پر نگاہ رکھیں اور اس کو درس گاہ میں یہ غرض حصول تعلیم بھیجن۔

دفعہ ۶۱۔ جب حاضنہ سفر کرے تو ولی پر اس کے واجبات نہ ہوں گے۔

دفعہ ۶۲۔ جب تک کہ اس کی مان کی حضانت قائم ہے اور حضون کی مصلحت اس کے خلاف متناقضی نہیں ہے ، باپ کو منع کیا جائے گا بھی

کو اس کی ماں کے شہر سے باہر لے جانے ہے، الا یہ کہ اس کی ماں کی رضامندی ہو۔

دفعہ ۶۴۔ جو عورت بغیر جسمی معدنوی کے حق حضرات کو کسی دوسرے پر منتقل کر دے تو بلا رضاۓ ولی ایسا نہ ہوگا الا یہ کہ وہ عورت اپنے حق حضرات کو ساقط کر لے۔

دفعہ ۶۵۔ مستحق حضرات کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا حق حضرات ساقط کر لے، پس حق اس کی طرف جو رتبی میں اس کے بعد ہو، منتقل ہو جائے گا، جس کا ذکر فصل ۷۵ میں کیا گیا ہے اور اگر وہ شخص جو رتبی میں اس کے بعد ہے جس کا ذکر فصل ۷۵ میں کیا گیا ہے، انکار کر دے یا کوئی دوسرا مستحق حضرات موجود نہ ہو تو اس کا حق حضرات ساقط نہ ہو گا۔

دفعہ ۶۵۔ حاضرہ اجرت حضرات کی مجاز نہ ہوگی سوانح معاوضہ خدمت کے مثلاً کھانا پکانے اور اسی قسم کی دیگر خدمتیں مطابق معروف طریقے کے

دفعہ ۶۶۔ اگر بچہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے پاس رہتا ہو تو دوسرے کو اس سے ملنا جلتا منع نہ ہوگا اور جو شخص دیکھنے کے واسطے اس بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا چاہے تو اس کی مشقت اسی پر ہوگی۔

دفعہ ۶۷۔ متعین ہو گا کہ محضون بالغ ہونے سے پہلے لڑکے کی صورت میں ۷ سال اور لڑکی کی صورت میں ۹ سال حاضرہ کے پاس رہے، اور اس کے بعد جب باپ انتقال حضرات کی خواہش کرے تو اس کی خواہش کو ہوا کیا جائے گا، جب کہ حاکم کوئی ایسی بات نہ دیکھے جو اس بچے کی بقا کے لیے ضروری ہو۔

قانون الاحوال الشخصية ، اردن :

۱۲۳ - نابالغ بھی کی حضانت ختم ہو جائے گی جب کہ وہ اپنی عمر کے سال پورے کر لے اور لڑکی کی صورت میں جب کہ وہ ۶ سال مکمل کر لے۔ قاضی کے لیے جائز ہو گا کہ وہ اجازت دے لڑکے کی حضانت کے واسطے عورتوں کو ۷ سال کے بعد نو سال تک اور لڑکی کی صورت میں نو سال کے بعد گیارہ سال تک ، جب کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ان دونوں کی مصلحتیں ایسے حکم کا تقاضہ کرتی ہیں ۔

قانون الاحوال الشخصية ، شام :

دفعہ ۱۲۴ - حضانت کی اجرت اس شخص پر ہے جو نابالغ کے نفقة کا ذمہ دار ہے اور وہ اس کے (بھی کے) نفقة سے نصف سے زائد نہ ہو گی۔

دفعہ ۱۲۵ - مان قیام زوجیت یا عدت طلاق کے دوران اجرت حضانت کی مستحق نہ ہوگی ۔

دفعہ ۱۲۶ - جب بھی کے نفقة کا ذمہ دار شخص اجرت حضانت ادا کرنے سے بہ سبب تنگدستی عاجز ہو اور نابالغ بھی کے کسی محروم نے نابالغ کی پرورش کا ذمہ بطور احسان لے لیا تو حاضنه کو اختیار ہو گا کہ وہ اس بھی کو بلا اجرت اپنے پاس رکھے رکھی یا اس شخص کے حوالے کر دے جس نے احسان کیا ہو ۔

دفعہ ۱۲۷ - جب عورت نافرمان ہو اور اولاد پانچ سال سے زیادہ عمر کی ہو تو قاضی کے لیے اس اولاد کی حضانت کے بارے میں فیصلہ کرنا جائز ہے کہ کس کے پاس رکھئے۔ قاضی ان دونوں کی سلامتی کا لحاظ کرے گا۔

دفعہ ۱۲۸ - قاضی اس امر کا مجاز ہے کہ وہ عورتوں کو بھی کی حضانت ۶ سال کے ختم تک اور بھی کی حضانت ۱۱ سال کے ختم تک کی اجازت دے دے ۔

دفعہ ۱۵۸ - (الف) مان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے لڑکے کے ساتھ دوران قیام نکاح سفر کرے ، ماسوائے باب کی اجازت کے ۔

(ب) عورت مجاز ہے کہ وہ انقضائی عدت کے بعد بھی کے باب کی اجازت کے بغیر اپنے شہر ، جہاں اس کا عقد نکاح ہوا ہو ، سفر کرے ۔

دفعہ ۱۵۹ - اگر حاضنہ مان کے علاوہ کوئی دوسری عورت ہے تو اس کو لڑکے کے ولی کی اجازت کے بغیر لڑکے کے ساتھ سفر کرنے کا اختیار نہیں ۔

دفعہ ۱۵۰ - باب اپنی حضانت کی مدت میں بلا اجازت حاضنہ مجاز نہیں ہے کہ لڑکے کے ساتھ سفر کرے ۔

دفعہ ۱۵۱ - عورتوں کے ولی کے واسطے لازم ہے کہ وہ اس عورت کو اپنے گھر میں رکھے جب کہ عورت چالیس سال کی عمر سے کم ہو خواہ وہ عورت ثیہ ہو ، پس جب کہ وہ بغیر وجہ جائز کے اس ولی سے سرکشی کرے تو اس ولی پر اس کے نفقة کی ذمہ داری نہ ہوگی ۔

دفعہ ۱۵۲ - مان کے نہ ہونے یا اپنے حق یہ دست بردار ہو جانے یا شرعاً غیر مستحق قرار دیے جانے کی صورت میں سات سال سے کم عمر لڑکوں اور نابالغ لڑکیوں کی حضانت کا حق منفصلہ ذیل رشتہ دار عورتوں کو علی الترتیب حاصل ہوگا :

نان (بڑلائی بھی شامل ہے) ، دادی (بڑدادی بھی شامل ہے) ، حقیقی بہن ، اخیاقی بہن ، علاقی بہن ، حقیقی بہن کی بیٹی ، اخیاقی بہن کی بیٹی ، علاقی بہن کی بیٹی ، حالہ اور بھوپی ۔

شروع

اگر بھی کی مان موجود نہ ہو یا اس کا شرعی حق کسی بناء پر ساقط ہو گیا ہو تو حضانت کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ اس بارے میں فقهاء کے درمیان اختلاف ہے ۔

مان کے بعد
رشته دار عورتوں
کا حق

[دفعہ ۱۵۶]

احناف کے نزدیک ایسی صورت میں استحقاق کی ترتیب حسب ذیل
ہو گی :

مان کے بعد نانی ، خواہ کتنے ہی اوپر کی ہو - نانی کے سلسلے میں
نہ ہونے پر ، دادی خواہ کتنے ہی اوپر کی ہو - پھر حقیقی بہن ،
پھر مادری ، پھر پدری ، اس کے بعد خالہ کا سلسلہ پھر پھوپی کا
سلسلہ ، اس کے بعد حقیقی بہن کی لڑکیاں اس کے بعد بھائی کی لڑکیاں
پھر پھوپی کی لڑکیاں ۔^{۱۸}

امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی مان کے سلسلے کی عورتوں باپ کے
سلسلے کی عورتوں سے مقدم ہوں گی اور ان سب کے نہ ہونے کی صورت
میں بہنوں کا سلسلہ قائم ہو گا تقریباً یہی ترتیب تھوڑے سے فرق کے ساتھ
امام مالک و شافعی کے نزدیک بھی ہے - بھر حال یہ مسئلہ متفق علیہ
ہے کہ بھیج کی مان کے سلسلے کی عورتوں کو باپ کے سلسلے کی عورتوں
پر مقدم کیا جائے گا -

مالک اسلامیہ میں راجح الوقت قوانین

قانون الاحوال الشخصية ، تیونس ،

دفعہ ۵۶ - حضانت بھی کے تحفظ کے لیے ہے اس کے رهن سہن اور
تریت کے بارے میں ۔

دفعہ ۵۵ - اگر عورت حضانت سے انکار کرے تو اس پر جبر نہیں کیا
جائے گا الا یہ کہ کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو ۔

دفعہ ۵۶ - زیر حضانت بھی کے اخراجات اس کے مال سے پورے کیے
جائیں گے بشرطی کہ اس کا مال ہو ورنہ اس کے باپ کے مال سے - اور اگر
حضانت میں رکھنے والی عورت کے پاس مکان نہ ہو تو باپ پر لازم ہے کہ

(۱۸) مجمع الانہر ، داماد آفندی مطبوعہ مصر ، ۱۳۲۷ هجری ، جلد ۱ ، صفحہ ۲۸۱

وہ زیر پروردش بھیجے کے ساتھ اس کے لیے گھر کا بندوست بھی کرے۔

دفعہ ۷۵- حضرات والدین کے حقوق میں سے ہے، جب ان کے درمیان رشتہ روجیت قائم ہو۔ جب کہ روجیت بوجہ طلاق یا موت ختم ہو جائے تو حضرات کے حسب ذیل اشخاص مستحق ہوں گے۔ بھیجی کی ماں، پھر نانی، پھر بھیجی کی خالہ، پھر ماں کی خالہ، پھر ماں کی پھوپی، پھر بھیجی کی دادی، پھر اس کا باپ، پھر اس کی بہن، پھر اس کی پھوپی، پھر اس کے باپ کی پھوپی، پھر اس کے باپ کی خالہ، پھر اس کے بھائی کی لڑکی، پھر اس کی بہن کی بیٹی، پھر وصی، پھر بھیجی کا بھائی پھر اس کا دادا، پھر اس کا نانا، پھر اس کے بھائی کا لڑکا، پھر اس کا چچا، پھر اس کے چچا کا لڑکا، اور مقدم کیا جائے گا حقیقی بھائی.....

اور اسی طرح دوسرے تمام مراتب میں جہاں تک ممکن ہو پہلے مادری رشتہ دار کو فوقیت دی جائے گی اور ان رشتے داروں کو جو پدری ہوں۔ اگر دو مستحق حضرات ایک درجے میں برابر ہوں تو اس کو فوقیت دی جائے گی جو ان دونوں میں بلحاظ عمر بڑا ہو۔ اور لڑکے کے عصہ ہونے میں اتحاد دین شرط ہو گا (یعنی لڑکا اور اس کا سربراہت ہم مذہب ہوں)۔

قانون الاحوال الشخصية، شام :

دفعہ ۱۳۹- حضرات کا حق ماں کے واسطے ہے اور پھر اس کی ماں یعنی نانی کے واسطے ہے، خواہ کتنے ہی اوپری درجے میں ہو پھر دادی کے واسطے ہے، خواہ کتنے ہی اوپری درجے میں ہو، پھر حقیقی بہن کے لیے ہے پھر اخیاں بہن کے لیے ہے پھر علاقی بہن کے لیے ہے، پھر اخیاں بہن کی لڑکی، پھر علاقی بہن کی لڑکی کے لیے ہے، پھر پھوپیوں کے لیے ہے اسی ترتیب سے پھر بترتیب وراثت۔

[دفعہ ۱۵۶]

دفعہ ۱۵۶ - جب اصحاب حضانت چند ہوں تو قاضی کو بہرین شخص انتخاب کر لیئے کا حق ہے جو محضون کے حق میں زیادہ سودمند ہو۔

۱۵۵ - جب کہ حضانت کی مستحق عورتوں میں سے کوئی موجود نہ ہو یا اس کے لیے آمادہ نہ ہو یہ اس کا حق ساقط ہو گیا ہو تو پھر مردوں کو ^{مردوں کا} حق حضانت ^{ترتیب عصوبت حضانت کا حق ہوا۔}

قشریع

یہ امر ثابت ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو حضانت کا حق فائق حاصل ہے اور مردوں کو حق حضانت صرف اس صورت میں حاصل ہوتا ہے جب کہ حضانت کی مستحق عورت موجود نہ ہو یا اس کے لیے آمادہ نہ ہو یا کسی شرعی سبب سے اس کا حق حضانت ساقط ہو گیا ہو۔ ایسی صورت میں جو عصبی رشتہ دار وراثت میں مقدم ہے وہ حضانت میں بھی مقدم ہو گا جیسے باپ پھر دادا، (خواہ کتنا ہی اوپر کے درجہ کا ہو) پھر حقیقی بھائی پھر حقیقی بھائی کی اولاد^{۱۹}۔ لیکن لڑکی کی حضانت کے موقع پر عصبات میں اس امر کا لحاظ رکھنا ہو گا کہ وہ دیانت دار و امانت دار ہو۔ فاسق یا خائن ہونے کی صورت میں اس کو حق حضانت نہ ہو گا اسی طرح عصبات کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔^{۲۰}

۱۵۶ - بھی کی برووش کرنے کے لیے لازم ہے کہ بالغ اور عاقل ہو اور بھی کی مناسب برووش بر قادر ہو اور اس میں کوئی ایسا امر بالغ موجود نہ ہو جو اُسے بھی کی حضانت کے مقابلے میں بنا دے۔

بھوں کی برووش
کرنے والوں
کی شرائط

(۱۹) بداع الصنائع، امام کاسانی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ھ/جولائی، جلد ۳، صفحہ ۲۲۳

فتح القدير، ابن همام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/جولائی، جلد ۳، صفحہ ۲۱۶

الحرر في الفقه، ابوالبرکات مطبوعہ مصر، جلد ۳، صفحہ ۱۱۸

(۲۰) بداع الصنائع، امام کاسانی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ھ/جولائی، جلد ۳، صفحہ ۲۲۳

فتح القدير، ابن همام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/جولائی، جلد ۳، صفحہ ۲۱۶

تشریح

بھی کی پروردش کرنے کے لیے حسب ذیل شرائط کا ہونا لازمی ہے : عاقل ہو ، بالغ ہو ، آزاد ہو ، فاسق نہ ہو ۔

ان شرائط میں تمام ائمہ متفق ہیں ۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ بھی کی پروردش کرنے والا مسلمان ہو کافر نہ ہو لیکن احتف اور ان قاسم و ابو ثور کے خیال میں بھی کی مان کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے ۔^{۲۱}

مان کے حق میں ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ اگر والدین میں تقریق ہو گئی ہو تو مان نے کسی دوسرے اجنبی سے نکاح نہ کیا ہو نیز یہ کہ وہ مرتد نہ ہوئی ہو ۔ البته حسن بصری کے نزدیک یہ شرط نہیں ۔ ان کے نزدیک مان کے دوسرا نکاح کر لینے سے اس کا حق حضرات ساقط نہیں ہوتا ۔^{۲۲}

اس امر میں نسب کا اتفاق ہے کہ بھی کے کسی ایسے رشتے دار سے جو بھی کا محروم ہے نکاح کر لینے سے مان کا حق حضرات ساقط نہیں ہوتا مثلاً چیजات ۔^{۲۳}

مالک اسلامیہ میں رائج الوقت قوانین

قانون الاحوال الشخصية ، تیولس :

دفعہ ۵۸ - مستحق حضرات کے لیے شرط ہو گا کہ وہ ملکہ ہو ، امین

(۲۱) المفتی ، ابن قدامة مقدسی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۶۴ھ / ۱۹۴۵ء ، هجری ، جلد ۲ ، صفحہ ۶۱۶۔

فتح القدير ، ابن هام ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۷ء ، هجری ، جلد ۳ ، صفحہ ۲۰۵۔

جمع الہر ، داماد آنندی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۰ء ، هجری ، جلد ۱ ، صفحہ ۳۸۱
بدائع الصنائع ، امام کاسانی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۲۸ھ / ۱۹۰۹ء ، هجری ، جلد ۳ ، صفحہ ۳۱۱۔

(۲۲) المفتی ، ابن قدامة مقدسی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۶۴ھ / ۱۹۴۵ء ، هجری جلد ۲ ، صفحہ ۶۱۹-۲۰۔

جمع الہر ، داماد آنندی مطبوعہ مصر ، ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۰ء ، هجری ، جلد ۱ ، صفحہ ۳۸۱
بدائع الصنائع ، امام کاسانی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۲۸ھ / ۱۹۰۹ء ، هجری ، جلد ۳ ، صفحہ ۳۲۲۔

فتح القدير ، ابن هام ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۷ء ، هجری ، جلد ۳ ، صفحہ ۳۱۳۔

هو اور حضانت پر قدرت رکھتا ہو ، متعدد امراض سے محفوظ ہو - مزید یہ کہ جب مستحق حضانت مرد ہو تو اس لیے ضروری ہوگا کہ وہ بھی کی حضانت کے لیے اس بھی کا محروم بالنسبہ ہو - مستحق حضانت عورت ہو تو اس کے واسطے شرط ہوگا کہ وہ عورت اس زوج سے خالی ہو جس نے اس کے ساتھ صعبت کی ہو الا یہ کہ وہ شوهر زیر حضانت بھی یا بھی کا محروم یا اس کا ولی ہو -

دفعہ ۵۹ - اگر حضانت کی مستحق عورت محضون کے باپ کے مذهب کے خلاف ہو تو اس عورت کی حضانت اس بھی کے لیے جائز نہ ہوگی - الا یہ کہ محضون کی عمر پانچ سال نہ ہوئی ہو - اور اگر اس امر کا خوف ہو کہ وہ بچہ اپنے باپ کے دین کے خلاف دین کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اس فصل کے احکام اس کی حاضنہ ماں کے اوپر لا گو نہ ہوں گے -

قانون الاحوال الشخصية ، شام :

دفعہ ۱۳۲ - حضانت کے واسطے بلوغ اور عقل اور بھی کو صحت اور اخلاق کے ساتھ پرورش کرنے پر قدرت شرط ہے -

۱۵۷ - ماں کا ترجیحی حق حضانت کسی ایسے اجنبی سے نکاح کر لینے سے ساقط ہو جائے گا جو بھی کا محروم نہ ہو الا یہ کہ عدالت کی رائے میں نابالغ کا اپنی ماں کی حضانت میں رہنا اس کی بہبود میں ہو -

مائن کب
نقابل حضانت
قرار باقی ہیں

تفسیر

اگرہ اربعہ اس امر میں متفق ہیں کہ اگر بھی کے والدین میں فرق واقع ہو چکی ہو تو ماں کا حق حضانت اس ومت ساقط ہو جائے کا جب عورت کسی ایسے اجنبی سے نکاح کر لے جو اس بھی کا محروم نہ ہو - البته حضرت حسن بصریؓ کے نزدیک دوسرا نکاح کر لینے سے حق حضانت ساقط نہیں ہوتا ۔^{۲۲}

(۲۲) المفتی، ابن قدامة مقدسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۶۷ھجری، جلد ۲، صفحہ ۶۱۹

امام شافعی اور احمد بن حنبل کے ایک قول کے بموجب نکاح (ثانی) منعقد ہوتے ہی حق حضانت ساقط ہو جاتا ہے لیکن امام مالک کے نزدیک اور احمد بن حنبل کے دوسرے قول کے بموجب نکاح کے بعد جب تک شوہر (ثانی) سے ہم بستری نہ ہو جائے اس وقت تک حق حضانت ساقط نہ ہوگا۔ لیکن امام احمد کا پہلا قول زیر عمل رہا ہے^{۲۵}۔

اسلامی مالک کے متعلقہ قوانین

قانون الاحوال الشخصية، تیونس :

دفعہ ۸۵ - مستحق کے لیے شرط ہوگ کہ وہ مکلف ہو ، امین ہو ، اور حضانت پر قدرت رکھتا ہو ، متعدد امراض سے محفوظ ہو - مزید یہ کہ جب مستحق حضانت مرد ہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بھی کے حضانت کے لیے اس بھی کا محروم بالنسب ہو۔ اگر مستحق حضانت عورت ہو تو اس کے واسطے شرط ہوگی کہ وہ عورت اس زوج سے خالی ہو جس نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو ، الا یہ وہ شوہر زیر حضانت بھی یا بھی کا محروم یا اس کا ولی ہو -

قانون الاحوال الشخصية ، شام :

دفعہ ۱۳۸ - حاضنه کا ایسے شخص سے نکاح جو ازروئے قرابت حضون کا محروم نہ ہو اس عورت کے حق حضانت کو ساقط کر دے گا۔

دفعہ ۱۳۱ - حق حضانت عود کر آئے گا جب کہ اس کے ساقط ہونے کا مسبب زائل ہو جائے ۔

پاکستانی عدالتون کے فیصلے :

اجنبی سے نکاح ثانی کر لینے کی صورت میں زوجہ کے حق حضانت سے محرومی کے سلسلے میں ہمارے ملک کی اعلیٰ عدالتون نے متعدد فیصلے

(۲۵) السنفی، ابن قدامة مقدسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۶۴ھجری، جلد ۲، صفحہ ۹۰۔

دلیے ہیں جن کا ذکر مسئلہ کو سمجھنے میں مدد دے گا۔

بقدامہ چہ بشیر بنام غلام فاطمہ جسٹس کیکاؤس نے قرار دیا کہ بیوہ عورت کے نکاح ثانی کی صورت میں شوہر ثانی کا نابالغ کا بذریعہ قرابت حرم ہونا ضروری ہے۔ حضور صلعم کا ارشاد ہے جس پر یہ قاعدہ قائم ہے کہ عورت حق حضانت کھو دیتی ہے جب کہ وہ ایک اجنبی سے نکاح (ثانی) کر لے۔ یہ کہنا کہ دوسرا شوہر جوں ہی اس عورت سے نکاح کرتا ہے اور تعلق زنا شوہی قائم ہو جاتا ہے وہ شوہر اس نابالغ کے حرم کے درجے میں آ جاتا ہے، درست نہ ہوگا اور عورت کا حق حضانت محفوظ نہ رہ سکے گا۔

جسٹس کیکاؤس نے مقدمہ بالا میں مزید قرار دیا کہ اگرچہ مان اپنے نابالغ بھی کا (قانونی) حق حضانت رکھتی ہے لیکن باب حقیق ولی ہوتا ہے اور بھی بہ نگرانی اور کنٹرول استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر عورت بھی کو ایسی جگہ لے جائے جہاں باپ آس پر اپنی نگرانی اور کنٹرول نہیں رکھ سکتا تو مان بھی کے حق حضانت کو کھو دیتی ہے۔^{۲۶}

جسٹس کیکاؤس نے ایک اور مقدمے نیاز بی بی بنام فضل اللہ میں یہ قرار دیا کہ بالعموم عورت کا حق حضانت اس بناء پر ختم نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے پاس بھی کی پرورش کے لئے سرمائی کی کمی ہے۔ اسلامی قانون اس امر کو عورت کی ناہلیت بسلسلہ حضانت تصور نہیں کرتا۔ بلکہ ہم کو یہ تصور کرنا ہوگا کہ نابالغ کا مقاد اسی شخص کی زیر حضانت رہنے میں ہے جس کو اسلامی قانون قرار دیتا ہے تا آن کہ اس کے خلاف امر ثابت نہ ہو۔^{۲۷}

ایک اور مقدمے عمر النبی بنام رشیدہ اختر جسٹس اخلاق حسین نے

(۲۶) بی، ایل، ڈی، ۱۹۵۳ع، لاہور، صفحہ ۳۔

(۲۷) بی، ایل، ڈی، ۱۹۵۳ع، لاہور، صفحہ ۴۴۲۔

یہ قرار دیا کہ اسلامی قانون ایک ایسی مان کے حق حضافت کو جس نے ایک ایسے شخص سے نکاح کر لیا ہو جو اس کی نابالغ لڑکی کے درجات عمر میں نہ ہو، سرپرست (ولی) مقرر کیجئے جانے سے تمام صورتوں میں منع نہیں کرتا۔ کسی اجنبی سے نکاح (ثاق) کر لیجئے سے عورت کا حق حضافت مطلقاً ختم نہیں ہوگا۔ وہ محض اپنا بھیجی کی حضافات کا ترجیحی حق کھو دیتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر بھیجی کا کوئی دوسرا رشتہ دار ہے جو اسلامی قانون کے تحت بھیجی کی حضافات کا حق رکھتا ہے اور جس پر بھیجی کی بہood کا صحیح اور اطمینان بخش طریقے سے اعتہاد کیا جا سکتا ہے تو مان ایسی صورت میں بھیجی کی حضافات کا بطور استحقاق اذعا نہیں کر سکتی۔

جشن اخلاق حسین نے اسی مقدمے میں یہ اظہار خیال کرتے ہوئے کہ اے، آئی، آر، ۱۹۲۸ع صفحہ ۲۴۰ اور پی، ایل، ڈی، ۱۹۵۲ع، بغداد الجدید، صفحہ ۵۳ میں قانون کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا، قرار دیا کہ ایک باپ جو دفعہ ۲۵ ”گارجن اینڈ وارڈز ایکٹ“ کے تحت اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مان نے ایک اجنبی سے نکاح کر لیا ہے اس لیے مجھے مان کی حضافات سے نکال کر اسے دلايا جائے محض اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ ایسا کرنا اس نابالغ لڑکی کے مفاد میں ہو۔ جشن اخلاق حسین نے مزید قرار دیا کہ جب عدالت دفعہ ۲۵ کے تحت ایک ایسی درخواست پر غور کر رہی ہو جس میں بھیجی کی واپسی بے حضافات ولی کی درخواست کی گئی ہو تو عدالت پر لازم نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا حکم دے جو اس قانون کے مطابق ہو جس کا وہ نابالغ تابع ہے جیسا کہ دفعہ ۱۱ (۱) کے تحت مذکور ہے۔ ایک باپ بھیجی کے نفع کی ذمہ داری اور اس کی مان کے سہر سے بینے کے لیے اپنے حق حضافات سے دستبردار ہو گیا ہو اور بھیجی کے عہد طفولیت میں اور اس کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہ لی ہو اور بھیجی کی نکرانی مان اچھی طرح کر رہی ہو اور

بچہ سن تمیز کو پہنچ چکا ہو اور باپ کے پاس جانے سے منع کر چکا ہو تو باپ کی درخواست زیر دفعہ ۲۵ ”گارجین اینڈ وارڈز ایکٹ“ اس بناء پر منظور نہیں کی جا سکتی کہ نابالغ کی مان نے ایک اجنبی سے نکاح (ثانی) کر لیا ہے۔ پی۔ ایل۔ ڈی، ۱۹۵۲ع بغداد الجدید، صفحہ ۵۳ میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی مان ایک ایسے اجنبی شخص سے نکاح (ثانی) کر لے جو نابالغ کا حرم نہ ہو تو اس کا یہ فعل اس کو نابالغ کے سربرست کی حیثیت سے عمل کرنے کا نا اہل بنا دے گا اور اس خمن میں اس قانون کے احکام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس کا وہ بچہ تابع ہے خواہ ایسا کرنا بھی کے مفاد ہی میں کیوں نہ ہو^{۲۸}۔

پی، ایل، ڈی، ۱۹۵۶ع، لاہور، صفحہ ۸۸ہ میں یہ قرار دیا گیا کہ اسلامی قانون کے تحت بھی کا اپنے ولی کی طرف لوٹنا یہ تصور کیا جائے گا کہ نابالغ کے مفاد میں ہے چنانچہ ایک لڑکا جس کی عمر سال سے زیادہ ہو باپ اس کی حضانت کا مستحق ہے۔

پی، ایل، ڈی، ۱۹۵۳ع، لاہور، صفحہ ۳ میں یہ قرار دیا گیا کہ بھی کا مفاد اسی شخص کی حضانت میں تصور کیا جائے گا جو شخصی قانون کے تحت نابالغ کی حضانت کا مستحق ہے الا یہ کہ پیش آمده واقعات اس کے خلاف نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ثابت کیجیے جائیں۔

جشن محمد شفیع نے بمقیدہ رشیدہ یکم بنام شہاب الدین^{۲۹} قرار دیا کہ اگر نابالغ بھی کی مان ایک ایسے شخص سے شادی کر لے جو نابالغ کا حرم نہ ہو تو اس کا ایسا کرتا اس بھی کے لیے مان کے حق حضانت کے لیے رکاوٹ نہ ہوگا۔ سب سے بڑھ کر خیال (نظریہ) بھی کی بہood ہے۔

(۲۸) بی، ایل، ڈی، ۱۹۵۵ع، لاہور، صفحہ ۳۱۲

(۲۹) بی، ایل، ڈی، ۱۹۶۰ع، لاہور، صفحہ ۱۱۳۲

فاضل جمع نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی
ہدایت نہیں کہ ایک عورت طلاق پا کر اگر دوسرا شادی کر لے تو پہلا
شوہر اس سے اپنا بچہ لے سکتا ہے۔ اگر شخص اس بنا پر کہ اس نے دوسرا
شادی کر لی ہے وہ بچہ سے محروم ہو سکتی ہے تو میں کوئی وجہ نہیں
سمجھتا کہ ایک مرد دوسرا شادی کر لینے کی صورت میں کیوں نہ اپنے
بچے سے محروم ہو۔ سوتیلی مان اگر سوتیلی باپ سے زیادہ نہیں تو کم از کم
اس کے برابر تکلیف دہ اور خطرناک ضرور ہے۔ بہرحال نابالغوں کے متعلق
قانون بنانا ریاست کا کام ہے کیونکہ قرآن اس بارے میں قطعاً ساکت ہے۔
گارجین ایڈ وارڈ ایکٹ کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ نابالغان
کے معاملات اس کے تابع ہیں۔ پاکستان کی اسلامی ریاست کے وجود میں
آنے کے بعد ملک کے منتخب نمائندوں نے اس قانون کو منظور کر لیا تھا
لیکن اس قانون میں بھی اس بارے میں کوئی واضح اور متعین ضابطہ نہیں
ہے کہ والدہ کے نکاح ثانی کے بعد نابالغ بھی کا حق حضانت اس کے حائل
ہوگا۔ قرآن اور اس ایکٹ دونوں کے مطابق واحد قابل لحاظ امر بھی کی
فلاح و بہود ہے۔ ہر مقدمے کا فیصلہ امن کے خاص حالات و کوائف کی
بانا پر ہوگا۔

(۲) اس فیصلہ میں فاضل جمع نے کافی تفصیل کے ساتھ اسلامی قانون کے ماخذوں کے
ضمن میں سنت کی تشریعی حیثیت قانون سازی کے طریق (اجاع اور اجتہاد)
اور اسلامی فقہی سرمائی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جن کا
براء راست واقعات مقدمہ سے تعلق نہ تھا۔ چونکہ یہ بھیں براہ راست "اصول
فقہ اسلام" کے تحت آئی ہیں، اس لیے ہمارے موضوع سے خارج ہیں، اور ان
سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ البتہ یہاں اس فقر اشارہ کرنا یہ جا نہ ہو کا
کہ بہتر ہوتا اگر یہ اصول مباحثہ عدالتی فیصلے کا جزو نہ ہوتے اور ایک
علیحدہ کتاب کی صورت میں شائع کر کے دعوت فکر دی جائی۔ ایک جمع کے
فیصلے بر کھلی اور مکمل تنقید ہمارے معاشرے میں خاصی بیوجدگیوں کا
موجب ہوتی ہے، کیونکہ ججوں کو "عدالتی تحفظ" حاصل ہوتا ہے اور
ناقدين کو عدالتی وقار کے مجموع ہونے کا خدشہ بھی دامنگیر رہتا ہے۔

عدالت عالیہ مغربی پاکستان کراجی یعنیج نے بمقامہ مسہہ تظیر بیگم بنام عبدالستار قرار دیا کہ ”شرع اسلام میں مان تمام اشخاص کے مقابلے میں زمانہ ازدواج میں نیز تنسیخ نکاح کے بعد بھی اپنے بیویوں کی حضانت کی بہترین مستحق ہے (چنانچہ) مان کے اپنے نابالغ بیویوں کی حضانت کے حق پر لڑکی کی صورت میں بلوغت تک اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس مقدمے میں مان نے اپنا قانونی حق حضانت شرع اسلام کے تحت کھو دیا کیونکہ اس نے ایک اجنبی مرد سے نکاح کر لیا۔ لیکن کسی اجنبی شخص سے نکاح کر لینا اس (مان) کو اپنے بیویوں کی حضانت سے محروم نہیں کرتا، اگر عدالت کی رائے ہو کہ اجنبی مرد سے نکاح (ثانی) کرنے کے باوجود یہ امر نابالغوں کی بہبود میں ہو گا کہ وہ مان ہی کے پاس رہیں“^(۲۱)۔

بمقامہ اختر احمد بنام مسہہ حضور بیگم جشن وحید الدین احمد نے قرار دیا کہ ”محض یہ امر واقعہ کہ مان نے اپنے نابالغ بھی کا حق حضانت کھو دیا۔ یہ بھی کی آئندہ حضانت کے سوال کو قطعی طور پر طے نہ کر سکے گا۔ یہ سوال ہمیشہ نابالغ کے مقاد اور بہبود کے تقاضوں کی روشنی میں طے کرنا ہو گا۔“

جشن وحید الدین احمد نے مقدمے کے واقعات پر روشنی ڈالنے ہوئے تحریر فرمایا کہ ”تنسیخ نکاح کے بعد فریقین میں ایک باہمی تصفیہ ہوا جس کے تحت شوہر نے مان کے دین مہر اور نفقہ سے دست برداری کے عوض اپنی نابالغ لڑکی (عمر ۱۶ سال) کے حق حضانت سے مان کے حق میں دست برداری اختیار کر لی۔ بعد ازاں مان نے نکاح ثانی کر لیا۔ پھر باپ نے اس دلیل کی بنا پر کہ شوہر (ثانی) نابالغ کا محروم نہیں ہے، نابالغ کی

(۲۱) بی، ایل، ڈی، ۱۹۶۳ع، کراجی، ۳۶۵

حضرات کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت ابتدائی نے یہ فرار دیا کہ اس امر کی کوئی شہادت نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نابالغ لڑکی کی اپنی ماں کی زیر حضرات مناسب طور پر دیکھ بھال نہیں ہو رہی یا اس سے برا سلوک کیا جا رہا ہے یا یہ کہ ماں ایک غیر اخلاقی زندگی گذار رہی ہے۔

مقدمہ مذکورہ میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ باپ نے بھی دوسرا نکاح کر لیا ہے جس سے اس کے ایک بھی بھی ہے۔ چنانچہ عدالت ماتحت نے اس امر کو مناسب نہ سمجھا کہ لڑکی کو باپ کی حضرات میں دیا جانے کیونکہ سوتیلی ماں سے لڑکی کے لیے اچھے سلوک کی توقع نہ تھی۔ عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ ”حالات مقدمہ کے پیش نظر عدالت ماتحت نے جس صواب دید کا استعمال کیا اس میں مداخلت کا کوئی جواز موجود نہیں اور یہ کوئی مناسب مقدمہ نہیں ہے جس میں ماں کو اپنے نابالغ بھی کی حضرات سے محروم کر دیا جائے۔“^{۲۲}

نابالغ کی بہبود — حضرات کا بنیادی اصول :

مقدمہ خوشی محمد بنام محمد النساء جشن شیر احمد و جشن بشیر احمد نے قرار دیا کہ ”حضرات کے معاملے میں نابالغ کی بہبود کو فوقیت حاصل ہے شخصی قانون کے تحت عام اصولوں سے اخراج محفوظ اس صورت میں ہونا چاہیے جب کہ یہ خیال ہو کہ نابالغ ایک ایسے فائدے سے محروم ہو جائے گا جو زیادہ بنیادی نوعیت کا ہے۔“

اس مقدمے میں فاضل ججان نے نابالغ بھوؤں کو اس بنا پر ماں کی حضرات سے نکال کر باپ کی حضرات میں دے دیا کہ ماں غیر اخلاقی زندگی بسر کر رہی ہے اور اپنے لیے ایک ایسے ماحول کا انتخاب کر لیا ہے جس میں وہ کر نابالغ بھی مستقل ایسے اثر میں رہیں گے جو ان کے اخلاق اور روحانی

(۲۲) نبی ایل ڈی ۰۱۹۶۵ ع ’کراچی‘ صفحہ ۶۵

اقدار کو متاثر کرنے کا ف نفسم خطرہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔^{۲۲}

نابالغ بیرون کی حضانت کے سلسلے میں عدالت عالیہ مغربی پاکستان لاہور نے یمندمہ زہرہ یکم بنام طفیل احمد منور یہ اقرار دیا کہ ”جہاں کہیں کسی قانونی مسئلے میں قرآن، حدیث یا اجماع کے ذریعہ نص موجود نہ ہو اور ائمہ اور فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہو تو عدالت قانونی مسئلے میں اپنی رائے قائم کر سکتی ہے۔ چنانچہ عدالتیں امن امر کی مجاز ہوں گی کہ وہ فقہ اسلام کی کتب میں حضانت کے قاعدے سے اختلاف کر سکیں جب کہ اس مسئلے میں قرآن و مت نے کوئی نص موجود نہ ہو۔ عدالتیوں نے قاضیوں کی جگہ لے لی۔ اس لیے وہ اجتہاد کے ذریعہ خود نتائج تک پہنچ سکتی ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک اجتہاد اصول قیاس میں شامل ہے۔ حضانت کے مسئلے میں مختلف کتب فقہ میں جو اصول پیش کیا گیا ہے وہ یکساں نہیں ہے۔ اس لیے عدالتیوں کو اس امر کی اجازت ہوگی کہ وہ کتب فقہ میں بیان کردہ اصول سے انکراف کریں، اگر واقعات مقدمہ کے پیش نظر ان اصولوں کی پیروی نابالغ کے مفاد کے خلاف ہو۔“

مقدمہ مذکورہ بالا میں مان نے اپنے دو نابالغ بیرون کی نو سال تک بغیر کسی خطا و قصور کے پروردش کی تھی اور اس تمام عرصے میں باپ نے اپنے بیرون کو نہ کبھی دیکھا اور نہ ہی ان کے نفترے کے سلسلے میں ایک ہائی دی۔ چنانچہ عدالت عالیہ نے یہ قرار دیا کہ ان بیرون کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ اپنی مان کے پاس رہیں۔^{۲۳}

عدالت عالیہ آزاد جموں و کشمیر نے یمندمہ زدھا یکم بنام محمد نظیر خان یہ قرار دیتے ہوئے کہ مان نکاح ثانی کی صورت میں اپنے نابالغ بیٹے کے حق حضانت سے محروم ہو جاتی ہے تحریر فرمایا کہ نابالغ کی بہبود کا تصفیہ

(۲۲) ہی ایل ڈی، ۱۹۶۱ع، ۱۹۶۱ع، لاہور، ۷۶۸

(۲۳) ہی ایل ڈی، ۱۹۶۵ع، لاہور صفحہ ۶۹۵

خود اختیار کرده طور پر جج کی آزاد مرضی بہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قانون کے ملحت کیا جانا چاہیے جس کا نابالغ تابع ہے۔ قانون یہ تصور کرتا ہے کہ جہاں قانونی حضرات ہے وہاں بھی کی بہترین بہبود بھی ہے۔ عدالت نابالغ کی بہبود کے لیے کہ کسی کی حضرات بہترین ہے، قانونی احکام کی پابند ہے۔ اپنی رائے کی تشکیل میں وقتاً فوقتاً امن ضرب المثل کا مفہوم کہ نابالغ کی بہبود سب سے زیادہ اہم ہے اس طرح لیا جانا چاہیے کہ وہ اصل جس پر قانون ساز ادارہ آگئے بڑھتا ہے یہ ہے کہ نابالغ کی بہبود سب سے اہم اور غور طلب مسئلہ ہے۔ یہ حقیقت قانون کے الفاظ کی تعبیر کے وقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض اوقات نابالغ کی بہبود واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ کون شخص سرپرست کی حیثیت سے منتخب کیا جانا چاہیے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ قانون کا آخری مقصد نابالغ کی بہبود ہے۔ چنانچہ یہ ضرب المثل اس محفوظیت کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے کہ جج صاحبان اپنے ذاتی نظریات کو قانون ساز ادارے کے اوپر حیثیت نہیں دے سکتے اور اگر قانون یہ تجویز کرتا ہے کہ ایک مخصوص شخص بھی کی حضرات کا حق رکھتا ہے تو عدالتیں اس امر کی پابند ہیں کہ اس طریقے کو عمل میں لائیں، جس کا قانون مقتضی ہے، کیونکہ عدالتیں قانون ساز ادارے کی خواہش سے بالا رہ کر اپنے ذاتی خیالات کو روکار نہیں لا سکتیں کہ ان کے نزدیک نابالغ کی بہبود کیا ہے۔ جہاں قانون جج کی صواب دید کا لحاظ رکھتا ہے وہاں وہ صواب دید اولین طور پر نابالغ کی بہبود کو زیادہ کرنے کے مقصد سے جج کی سمجھے کے مطابق استعمال کی جائے گی، لیکن ایسا کرنے میں جج اس قانون کے مطابق عمل کرتا ہے جس کا کہ نابالغ تابع ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ جج اپنی صواب دید استعمال کرے۔ فاضل جج نے آگئے چل کر قرار دیا کہ گارجین اینڈ وارڈز ایکٹ اور شرع اسلام میں کوئی تصادم نہیں ہے۔^{۲۵}

(۲۵) بی ایل ڈی '۱۹۶۶ع'، آزاد جموں و کشمیر، صفحہ ۱

بمقدمہ سیدہ بیوی بنام شاہ نواز خان ، جسٹس جمیل حسین رضوی نے قرار دیا کہ اسلامی قانون کے تحت ایک مان اپنی لڑکی کی حضانت کی اس کے بالغ ہونے تک اور لڑکے کی ۷ سال کی عمر کو پہنچ جانے تک مستحق ہے ۔ ایک مان اپنا حق حضانت مخصوص اس بناء پر نہیں کھو دیتی کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ رہ رہی ہے ۔ حضانت کے بارے میں شرع اسلام کا اصول بنیادی طور پر اس امر واقعہ پر مبنی ہے کہ نابالغوں کا اپنے سرپرستوں کے ساتھ رہنا جیسا کہ قانون میں ہدایت کی گئی ہے ، ان کے مقاد میں ہے اگر زوجین کے تعلقات کشیدہ ہیں جس کی بناء پر وہ علیحدہ رہتے ہیں تو روجہ اپنے بیووں کے حق حضانت سے امن مدت کے دوران جس میں کہ قانون اسے بیووں کی حضانت کا حق دیتا ہے ، محروم نہ ہوگی ۔^{۳۶}

نابالغ کی مان کا اپنی اولاد کے نفقة کی استطاعت نہ رکھنا اس کے حق حضانت کو محروم نہیں کر سکتا ۔^{۳۷}

باب تعبیری حضانت رکھتا ہے :

بمقدمہ محمد صادق بنام مسز صادق صفورا قرار دیا گیا کہ باب اپنے بیووں کا قانونی اور حقیقی سرپرست ہے ، تا آنکہ وہ بھی بالغ ہوں ۔ مان لڑکے کی صورت میں ۷ سال اور لڑکی کی صورت میں بلوغت یعنی ۱۵ سال کی عمر تک حق حضانت رکھتی ہے لیکن اس عرصے میں بھی مان کا حق حضانت باب کی نگرانی اور کنٹرول میں ہوگا ۔ باب اپنے بیووں کے نفقة کا ذمہ دار ہے ۔ باب کے متعلق ہمیشہ یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اپنے بیووں کی تعبیری حضانت (constructive custody) رکھتا ہے خواہ مان یا کوئی دوسری رشتہ دار عورت یا کوئی دیگر شخص جو باب کا نامزد ہو حقیقی حضانت (actual custody) رکھتا ہو ۔^{۳۸}

(۳۶) ہی ایل ڈی ، ۱۹۶۱ع ، لاہور ، صفحہ ۵۰۹

(۳۷) ہی ایل ڈی ، ۱۹۶۱ع ، لاہور ، صفحہ ۷۶۸

(۳۸) ہی ایل ڈی ، ۱۹۶۳ع ، لاہور ، صفحہ ۵۲۳

نتیجہ فکر :

ہماری عدالتوں کا یہ نقطہ نظر کہ حضانت کے معاملے میں ”بھی کی بہبود“ کا تصور ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے ، شرع اسلام کے عین مطابق ہے ۔ لیکن اس سلسلے میں یہ اس ملحوظ رکھنا ہو گا کہ بھی کی بہبود کا تصفیہ جع کے موضوعی (subjective) انداز نظر پر نہیں چھوڑا جاسکتا ۔ اس کا تصفیہ معروضی (objective) طور پر کرنا چاہیے ۔ معروضی طور پر تصفیہ کرنے کے لیے شرعی قاعدہ کا لحاظ رکھنا جائے گا کیونکہ شرعی قاعدہ کے بارے میں یہ تسلیم کرنا ہو گا کہ اس کا اطلاق بھی کی بہبود میں ہے الا یہ کہ حالات مقدمہ اس کے مقابلی ہوں کہ ایک شرعی قاعدہ کو چھوڑ کر دوسرا شرعی قاعدہ (یعنی بھی کی بہبود کا خیال) اختیار کرنا انسب ہے ۔ مثال کے طور پر یہ ایک شرعی قاعدہ ہے کہ عورت کا ایک ایسے اجنبی مرد سے نکاح ثانی کرنا جو بھی کا محروم نہ ہو اس کے حق حضانت سے محرومی کا موجب ہو گا لیکن دوسرا شرعی قاعدہ یہ ہے کہ ”حضورت کا مدار بھی کی منفعت پر ہے“ چنانچہ اگر حالات مقدمہ کے تحت عدالت اس نتیجے پر پہنچ کر دوسرا قاعدہ کے اتباع میں پہلے قاعدے سے صرف نظر کرنا چاہیے تو ایسا کرنا شرع کے مطابق ہو گا ۔ چنانچہ ہماری عدالتوں کا یہ نقطہ نظر کہ اگر حالات مقدمہ کے پیش نظر بھی کی بہبود اسی میں ہو کہ وہ ماں کے پاس رہے تو محض کسی عورت کا اجنبی مرد سے نکاح (ثانی) کر لینا اس کے حق حضانت کو ساقط نہیں کر سے گا ، صحیح ہے ۔ بلکہ اس کی تائید خود قسماء کے اقوال سے بھی ہوئی ہے چنانچہ علامہ ابن عابدین نے اپنی مشہور تصنیف رد المحتار میں (جلد دوم ، صفحہ ۶۹۳ مطبع بولاق ، مصر) حضانت کے باب میں اس مستملے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :

”اگر حاضرہ عورت کھانے لینے میں شوہر سے علیحدہ ہے اور بیٹا اس

عورت کے ساتھ ہے تو اس کو حق حضانت حاصل ہے کیونکہ اس مرد کو اس عورت یا بچہ پر کوئی دخل نہیں ہے، برخلاف اس صورت کے جیکہ حاضنہ اجنبی شوہر کی عیال (زیر بروش) ہو یا اس اجنبی مرد کے ابک اور زوجہ ہو یعنی اس عورت کی سوکن موجود ہو (تو بچہ اس کی مان کی حضانت سے لے لیا جائے گا)۔

مان کے غیر محروم مرد سے نکاح کرنے کی صورت میں اس کے حضانت کے حق کا ساقط ہو جانا نابالغ کے ضرر کو دور کرنے کی غرض سے ہے۔ لہذا مفتی کو چاہیے کہ صاحب بصیرت ہو اور بچہ کی مصلحت کا لحاظ رکھئے کیونکہ کبھی بچہ کا قریبی رشتہ دار اس بچہ سے بعض رکھتا ہے اور اس کی موت کا طلب گار ہوتا ہے اور (کبھی) اس کی مان کا اجنبی شوہر بچہ کے لیے مشق ہوتا ہے اور اس پر بچہ کی جدائی شاق ہوتی ہے کیونکہ اس بچہ کا قریبی رشتہ دار اس بچہ کو لینے کا (کبھی اس غرض سے) ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اور اس کی مان کو تکلیف پہنچائے یا اس کے غرض سے لیتا ہے کہ اس (بچہ) کے نفقہ ہی سے کھائے یا اور کچھ اس کے مانند۔ اور کبھی اس مرد کی زوجہ ہوتی ہے جو اس بچہ کو دگنی انسداد دیتی ہے یہ مقابلہ اس کے اجنبی شوہر کے۔ کبھی اس (قریبی رشتہ دار) کے اولاد ہوتی ہے جس کے سبب لڑکی کے لیے فتنہ کا خدشہ ہوتا ہے بوجہ یکجا رہائش کے۔ جب مفتی یا قاضی اس بارے میں واقف ہو جائیں تو ان کے لیے اس بچہ کو مان کی حضانت سے علیحدہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس حضانت کا مدار بچہ کی منفعت پر ہے۔

تجزیہ

پاکستان میں بیووں کی حضانت کے سلسلے میں راج' الوقت
قالون گارجین اینڈ وارڈز ایکٹ، ۱۹۲۵ع نافذ ہے لیکن یہ

قانون مسلمانوں کی معاشری ضروریات پر پورا نہیں اترتا۔ امن کمی کو ہاری عدالتون کے فیصلوں نے کسی حد تک پورا کیا ہے۔ البتہ یہ عرض کرنا مناسب علوم مالک میں راجعِ الوقت قوانین (جن کے تفصیلی حوالے اس باب میں دیے گئے ہیں کی مدد سے حضانت کا ایک جامع قانون مرتب کر کے مقتننہ سے منظور کرا لیا جائے تو اس سے مسلمانوں کی عائلی زندگی کے ایک اہم پہلو سے متعلق بہت سی الجھنیں دور ہونے میں مدد ملے گی۔ ہم نے حتی الامکان اپنے بیان کردہ نظریہ کو کتاب هذا کی دفعات میں ملحوظ رکھا ہے چنانچہ یہ اصول کہ (حضرات کامدار بھی کی بیویوں پر ہے) اور یہ قاعدہ کہ (عورت کا غیر محروم سے نکاح اس کے حق حضانت کو ساقط کر دیتا ہے) واقعات و حالات کے پیش نظر اپنی اپنی جگہ دونوں صحیح ہیں البتہ ان کا اطلاق مقدمہ کے مخصوص واقعات کے پیش نظر کیا جانا چاہیے۔

نفقة اولاد وآباء واجداد

اولاد کے نفقة
کی ذمہ داری

تیسیواں باب

نفقۃ الولد

۱۵۸ - باب اپنے بیٹوں کے بالغ ہو جانے تک اور بیٹوں کے نکاح ہو جانے تک حسب استطاعت نفقہ دینے کا ذمہ دار ہوگا۔

تشریع

اسلام سے قبل عرب میں والدین پر اپنے بیجوں کے نفقے کی ذمہ داری نہ تھی - بالخصوص لڑکیوں کو ایک نخوسٹ شمار کیا جاتا تھا اور انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا - اسلام جہاں نفس انسانی کی عظمت پر زور دیتا ہے وہاں انسانی جان کے تحفظ کے قواعد بھی مرتب کرتا ہے - چنانچہ اسلام اہل و عیال کے نفقة کو ایک عبادت قرار دیتا ہے - بد روایت ابو مسعود انصاری آنحضرت[ؐ] سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "جب مسلمان اپنے بیوی بیجوں کی ذات پر ثواب سمجھ کر خرج کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے" - یعنی وہ صدقے کے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے ۔

نابالغ اولاد کا نفقہ صرف باب پر واجب ہوتا ہے اس میں باب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا جیسے کہ اس کی زوجہ کے نفقة میں کوئی شریک نہیں ہوتا ۔ لیکن باب پر اولاد کا نفقہ اس صورت میں واجب ہوگا جب کہ بھی کا ذاتی مال موجود نہ ہو ۔ اگر بھی کامال موجود ہو تو اس کا نفقہ اپنے مال سے ہوگا اور نابالغ بھی کامال ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس نے کسی سے ترکے میں حاصل کیا ہو یا کسی نے ہبہ کیا ہو ۔ فقة کی مشہور کتاب "ذخیرہ" میں مذکور ہے کہ اگر نابالغ

(۱) عدایہ جلد دوم مطبوعہ قرآن محل کراچی صفحہ ۷۷۷

کے پاس زمین یا کپڑے (زادہ از ضرورت) ہوں اور اس کے نفقے کے واسطے ان کی ضرورت پڑے تو باپ بھیتیت ولی کے ان کو یچ کر نفقے میں خرج کرنے کا مجاز ہوگا۔^۲

باپ پر اولاد کے نفقے کی ذمہ داری غیر مشروط اور مطلق ہے۔^۳ محض اس بناء پر کہ اولاد نافرمان ہے یا مان کی زیر پرورش ہے باپ اپنی اولاد کو نفقہ دینے کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا۔^۴ چنانچہ از روئے شرع باپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ بیٹوں کو بالغ ہونے تک اور بیٹیوں کو نکاح ہو جانے تک حسب استطاعت نفقہ دے۔ اگر اولاد خود صاحبِ جائیداد ہے اور اس کی پرورش امن سے ہو سکتی ہے تو باپ پر نفقہ کی ذمہ داری نہ ہوگی۔^۵ جہاں تک بیٹوں کے بالغ ہونے کا تعلق ہے از روئے شرع بلوغ کی عمر ۱۵ سال ہے الیہ کہ اس سے قبل بالغ ہو جائیں۔ قانون بلوغ مجریہ، ۱۸۷۵ع کا اولاد کے بلوغ کے تعلق سے باپ کی ذمہ داری نفقہ پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔^۶

مسٹر رولینڈ ولسن نے اپنی کتاب اینگلکو محمدن لاء (دفعات، ۱۳۲۰۱۳)

پر تحریر کیا ہے کہ نفقہ آن امور میں شامل نہیں ہے جو قانون بلوغ کے اطلاق سے مستثنی قرار دئے گئے ہیں۔ اس لیے ولسن کے خیال میں نفقہ کی ذمہ داری بھی اولاد کے ۱۸ سال کی عمر تک رہتی ہے۔ لیکن ولسن کا یہ خیال درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ قانون بلوغ نے حقوق اور اس

(۲) هدایہ عربی مطبوعہ قرآن محل کراجی، جلد دوم صفحہ ۳۳۵

(۳) فتح القدير شرع هدایہ مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ جلد ۳ صفحہ ۳۳۳

(۴) فتح القدير شرح هدایہ مطبوعہ مصر ۱۳۳۶ جلد ۲ صفحہ ۳۳۳

(۵) صفرابیکم بنام محمد یوسف، بی ایل ڈی، لاہور، ۱۹۵۱ع صفحہ ۳۳۱

فتح القدير مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ جلد ۳ صفحہ ۳۳۳

الرسبوط السرخسى مطبوعہ مصر ۱۳۲۰ جلد ۵ صفحہ ۱۸۵

Majority Act, 1875. (۶)

کے بالمقابل وجوب کے قائم رہنے کی مدت میں کوئی اختیار نہیں کیا۔ اس لیے ایک مسلمان کے بیٹوں کو بالغ ہو جانے کے بعد باپ سے نفقة پانے کا حق باقی نہیں رہتا اور نہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد والدین پر ان کا نفقة واجب رہتا ہے، الّا یہ کہ کسی نقص یا بخاری کے سبب کسب معاش پر قادر نہ ہوں۔

عام اصول یہ ہے کہ نفقة محتاج پر واجب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا واجب ہونا صلة رحمی کے طور پر ہوتا ہے جب کہ محتاج خود اس بات کا مستحق ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ احسان کرے تو اس پر کیوں کر نفقة واجب ہو سکتا ہے؟ لیکن اس عام اصول کا اطلاق زوجہ اور نابالغ اولاد کے نفقة کی صورت میں نہیں ہوتا، کیونکہ زوجہ اور نابالغ اولاد کا نفقة شوہر اور والد پر ندار ہونے کے باوجود واجب ہوتا ہے کیونکہ جب اس نے نکاح کیا تو نفقة دینا اس پر لازم ہوگی۔

خوش حالی کے بارے میں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ وہ شخص بقدر نصاب مالک ہو یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو (یا بالفاظ دیگر اس پر زکوٰۃ لینا حرام ہو)۔ امام محمد الشیبانی سے مروی ہے کہ خوش حالی کا اندازہ یہ ہے کہ ایک ماہ تک اس کی ذات اور اہل و عیال کے خرچ کے بعد پس انداز ہو یا اس کی مستقل کمائی سے اس طرح پس انداز ہوتا ہو تو اس پر ذی رحم محروم کا نفقة واجب ہوتا ہے ورنہ نہیں، بندوں کے حقوق کی ادائی میں صرف قادر ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ نصاب کا، کیونکہ نصاب مالدار ہی کے واسطے ہے۔ لیکن فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ چنانچہ آدمی کی بنیادی ضروریات سے اتنا مال زائد ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہو تو اس پر اپنے ذی رحم رشتہ داروں کا نفقة واجب ہوگا۔

جب قاضی نے مرد پر اس کے فرزند، والدین اور قریبی رشتہ داروں کا نفقة متعین کر کے ادائی کا حکم دیا اور پھر بغیر نفعے کے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس مدت کا نفقة ساقط ہو جائے گا کیونکہ فرزند، والدین یا قرابت داروں کا نفقة تکمیل ضرورت کے واسطے واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ خوشحال ہوں تو نفقة واجب نہیں ہوتا، لہذا مدت گزرنے سے وہ نفقة ساقط ہو گیا۔ البتہ زوجہ کا نفقة بالخصوص جب قاضی نے مقرر کر دیا ہو تو ساقط نہیں ہوتا کیونکہ شوہر پر زوجہ کا نفقة اس کی خوشحال کے باوجود واجب ہوتا ہے۔ زوجہ کا نفقة دراصل معاوضہ جس ہے جب کہ اولاد، والدین اور دیگر رشتہ داروں کا نفقة بریناء احسان واجب ہوتا ہے۔

۱۵۹ - باب صرف صحیح النسب اولاد کے نفقة کا ذمہ دار ہو گا۔

اولاد کا

صحیح النسب

ہونا ضروری ہے

تفسیر

باب صرف اپنی صحیح النسب اولاد کے نفقة کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس پر غیر صحیح النسب اولاد کے نفقة کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔
خاطبہ فوجداری پاکستان کی دفعہ ۲۸۸ کے تحت باب کو غیر صحیح النسب اولاد کا نفقة دینے پر محبوک کیا جا سکتا ہے۔ عدم ادائی کی بناء پر اس کو سزا نے قید بھی دی جا سکتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ از روئے قانون رائجِ الوقت اولاد غیر صحیح النسب ہے تو باب ادائی نفقة کے حکم کی تعییل سے محض اس بناء پر انکار کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ ماں اس اولاد کو باب کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہے۔

(7) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife or his legitimate or illegitimate child unable to maintain itself, may order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, at such monthly rate, not exceeding (four hundred) rupees in the whole.

تجزیے

از روئے شرع اسلام باب ناجائز اولاد کے نفقة کا ذمہ دار نہیں ہے ، جب کہ راجع وقت قانون (دفعہ ۲۸۸ ضابطہ فوجداری) کے تحت اس کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ مذکورہ دفعہ ۲۸۸ ضابطہ فوجداری میں شرع اسلام کے مطابق ترمیم کی جائے۔

(۱) باب کے مفلس ہونے کی صورت میں اولاد کے نفقة کی ذمہ داری
بشرط مقدرت مان پر ہوگی۔

مان اور دادا	کی ذمہ داری
--------------	-------------

(۲) والدین کے مفلس ہونے کی صورت میں اولاد کے نفقة کی ذمہ داری
بشرط مقدرت ان کے دادا پر عائد ہوگی۔

قشر بع

باب کے مفلس ہونے کی صورت میں اولاد کے نفقة کی ذمہ داری جب کہ خود اولاد کی کوئی جائیداد نہ ہو ' بھوں کی مان اور مان کے مفلس ہونے کی صورت میں دادا پر منتقل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عدالت اس امر کی مجاز ہوگی کہ باب کی عدم استطاعت کی صورت میں مان اور مان کی عدم استطاعت کی صورت میں بھوں کے دادا کو بھوں کے نفقة اور بروشوں کا انتظام کرنے کا حکم دے۔ البتہ مان اور دادا کی یہ ذمہ داری باب کی طرح غیر مشروط اور مطلق نہیں۔ جوں ہی باب کی مالی حالت بہتر ہو جائے اور وہ اس قابل ہو کہ بھوں کے نفقة اور بروشوں کے اخراجات کا بار اپنہا سکے امن کی ذمہ دلوي عودہ کر آئے گی اور وہ اپنے بھوں کے نفقة کا ذمہ دار ہو گا۔

کسی عورت کا شوہر غالب ہو جائے۔ اور باب ، بھوں یا مان کا مال موجود نہ ہو تو عورت حسب ضرورت اور دستور کے مطابق اپنے اور اپنے بھوں کے گزارے لئے باب کے نام پر قرض لے کر گزارہ کر سکتی ہے۔

۱۶۱ - اولاد پر اپنے حاجت مند آباو اجداد کو نفقة دینا واجب ہے - خواہ وہ اس کے ہم مذہب نہ ہوں -

تشریح

بالغ اولاد پر واجب ہے کہ اپنے والدین اور دادا ، دادیوں کو نفقة دے جب کہ وہ حاجت مند ہوں خواہ وہ اس کے ہم مذہب ہوں یا نہ ہوں - اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت "وصاحبها فی الدنیا معروفا" ہے ، کہ دنیا میں والدین کے ساتھ اعتدال (خوش اسلوبی) کے طور پر رہو - اس آیت کا نزول ایسے مان اور باب کے حق میں تھا جو کافر تھے - اعتدال (خوش اسلوبی) کے طور پر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد خود تو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو اور والدین کو چھوڑ دے کہ بھوکے سر جائیں ، اولاد پر والدین کے نفقے کے علاوہ دادہ اور دادیوں کے نفقے کی ذمہ داری کی دلیل یہ ہے کہ وہ بھی باب اور ماؤں میں سے ہیں کیونکہ باب کی غیر موجودگی میں دادا اس کا قائم مقام ہوتا ہے - چونکہ وہ بھی اس اولاد کے زندہ ہونے کا سبب ہیں اس لیے وہ اس اولاد پر اپنی زندگی کا استحقاق رکھتے ہیں جیسا کہ والدین کی صورت میں ہے - شرع اسلام نے آباء و اجداد کے نفقے کی ذمہ داری میں محتاجی کی شرط اس لیے لکائی ہے کہ اگر وہ مال دار ہیں تو ان کے نفقے کا وجوب دوسرے کے مال میں قائم ہوئے کی بہ نسبت اپنے مال میں قائم ہونا اولیٰ ہے - جہاں تک اختلاف دین کا تعلق ہے یتو یہ اختلاف نفقة واجب ہونے میں مانع نہیں ہوتا ، جیسا کہ مذکورہ بالا آیات سے ظاهر ہے - (کیونکہ آیت قرآن مطلق ہے اور اس بات پر دلالت کریں ہے کہ والدین خواہ مسلمان ہوں یا کافر ان کے ساتھ اعتدال (خوش اسلوبی) کا برداشت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے) - لیکن اگر یہ لوگ ایسے کافر ہوں جو مسلمانوں سے لڑتے ہوں تو مسلمان اولاد پر ان کا نفقة واجب نہ ہو گا کیونکہ جو شخص مسلمان سے دین کے بارے

میں لڑائی کرے خواہ کوئی ہو اس کے ساتھ احسان کرنے سے منع کیا گا ہے۔^۸

والدین کے نفقے میں فرزند کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو گا یعنی اگر والدین کا فرزند موجود ہے اور نفقہ دے سکتا ہے تو قاضی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ اور رشتہ دار بھی شریک ہو کر نفقہ دیں۔ نفقہ صرف ان کا فرزند دے گا، کیونکہ والدین کے واسطے اپنے فرزند کے سال میں حق ہے آنحضرت (صلعم) نے فرمایا کہ تو اور تیرا سال دونوں تیرے باب کے واسطے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غیر کے مال میں باب کا حق ثابت نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ والدین کے حق میں ان کا فرزند سب سے زیادہ قریب ہے۔ ظاہر الروایت میں ہے کہ محتاج والدین کے واسطے نفقہ کا استحقاق ان کے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں پر برابر ہے کیونکہ سب قربت لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو شامل ہے۔ امام سرخسی نے شرح کاف میں امام ابو حیفہ رحمة الله عليه سے روایت بیان کی ہے کہ میراث کی طرح دو حصہ لڑکا ایک حصہ لڑکی دے۔^۹ فتویٰ ظاہر الروایت پر ہے۔

دیگر رشتہ داروں کو جن سے میراث کا باہمی تعلق ہو، حسب قاعدة وراثت نفقہ دین

تشریف

نفقے کا تعلق میراث کے ساتھ ہے چنانچہ جن میں باہم میراث ہے ان میں نفقہ بھی ہوتا ہے۔ بنابریں ایک مسلمان پر واجب نہیں کہ اپنے غیر مسلم بھائی کو نفقہ دے کیونکہ غیر مسلم مسلمان کی میراث نہیں لے سکتا۔^{۱۰}

(۸) فتح القدير شرح هداية مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ھ جلد ۳ صفحہ ۳۳۷
بغالرائق مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ھ جلد ۳ صفحہ ۲۲۳

(۹) فتح القدير مع هداية مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ھ جلد ۳ صفحہ ۳۳۸
بغالرائق جلد ۳ صفحہ ۲۲۳ مطبوعہ مصر

(۱۰) فتح القدير مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ھ جلد ۳ صفحہ ۳۳۸
بغالرائق جلد ۴ مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ھجری صفحہ ۲۲۳

نفقہ ہر ذی رحم محروم کے لیے واجب ہوتا ہے جب کہ وہ نابالغ یا محتاج ہو یا عورت بالغہ نادار ہو یا مرد بالغ نادار ، لنجہ یا انداہا ہو کیونکہ قریبی رشتہ داری میں احسان کرنا واجب ہوتا ہے - جو رشتہ دار محروم ہو وہ قریب ہوتا ہے یعنی جس سے نکاح کی دائمی حرمت ہو ورنہ دور کی رشتہ داری میں نفقہ واجب نہیں ہوتا ۔

الله تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ”علی الوارث مثل ذلک“ یعنی وارث پر اس کے مثل واجب ہے ۔ بالفاظ دیگر استحقاق اور ذمہ داری دونوں کا تعلق یکسان طور پر ہوتا ہے یعنی جس درجے میں جو رشتہ دار استحقاق رکھتا ہے اسی درجے میں اس پر ذمہ دادی عائد ہوتی ہے ۔

علامہ ابو الحسن نے جو قدری کے نام سے مشہور ہیں اپنی کتاب ”المختصر“ میں لکھا ہے کہ نفقہ کا واجب ہونا میراث کی مقدار پر ہے ۔ کیونکہ آیت میں وارث کا لفظ کہنے میں یہ تنیہ ہے کہ مقدار میراث معتبر ہے ، کیونکہ حالات کے بقدر آدمی توان اٹھاتا ہے یعنی جتنا اسے میراث سے ملے گا اسی حساب سے بالفعل مورث کو نفقہ دے رہا ہے ۔

دیگر رشتہ داروں کے نفع کی صورت میں ایسی قربات موجود ہونے کے باوجود جس سے دائمی نکاح حرام ہوتا ہے اگر باہم دین میں اختلاف ہو تو نفقہ واجب نہیں ہو گا کیونکہ باہم وارث ہونے کی اہلیت (capacity) موجود نہیں ہے جب کہ دیگر رشتہ داروں کے نفع کا وجوب میراث پر قائم ہے ۔

اسلامی ممالک میں قوانین نفقہ

عراق کا قانون نفقہ :

دفعہ ۵۸ - ہر انسان کا نفقہ اس کے مال میں ہے مسوائی زوجہ

(۱۱) فتح القدير مع هدایہ جلد ۳ صفحہ ۳۵۰
بjur الرانی جلد ۳ صفحہ ۴۲۸

کے جس کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے ۔

دفعہ ۵۹ - (۱) لڑکے کا مال موجود نہ ہونے کی صورت میں اس کا نفقہ اس کے باپ پر ہے جب تک کہ وہ (باپ) نادر یا کسب معاش سے عاجز نہ ہو ۔

(۲) اولاد کا نفقہ جاری رہے گا بصورت لڑکے کے نکاح تک اور بصورت لڑکے کے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اس کے مثل دیگر لڑکے کلائے کے لائق نہ ہو جائیں ، جب کہ وہ طالب علم نہ ہو ۔

دفعہ ۶۰ (۱) جب کہ باپ اپنی اولاد کا نفقہ دینے سے مجبور ہو تو نفقہ اس شخص پر واجب ہو گا جس پر باپ کی عدم موجودگی کی صورت میں ہوتا ۔

(۲) ایسا نفقہ خرچ کرنے والی کی طرف سے (جو باپ کے قائم مقام نے کیا ہو) باپ کے ذمہ قرض ہو گا جو باپ کے صاحب فراغت ہو جانے کے بعد واپس دلایا جائے گا ۔

دفعہ ۶۱ - صاحب استطاعت لڑکے پر خواہ بالغ ہو یا نابالغ ، اپنے نادر والدین کا نفقہ واجب ہے خواہ وہ (والدین) کسب معاش پر قادر ہوں تا آنکہ یہ ظاہر نہ ہوتا ہو کہ باپ کا ہلی اختیار کرنے پر تلا ہوا ہے ۔

دفعہ ۶۲ - ہر نادر کسب معاش سے عاجز شخص کا نفقہ اس کے ایسے صاحب استطاعت رشتہ داروں پر جو اس کے وارث ہوں بقدر حصہ ترکہ واجب ہو گا ۔

دفعہ ۶۳ - رشتہ داروں کے نفقہ کا حکم تاریخ دعوے سے دیا جائے گا

شام کا قالون نفقہ :

دفعہ ۱۵۲ - ہر انسان کا نفقہ اس کے مال میں ہے مگر زوجہ کا اس کے شوہر پر ہے ۔

دفعہ ۱۵۵ (۱) - اگر لڑکے کا مال موجود نہ ہو تو اس کا نفقة اس کے باپ پر ہے الیہ کہ اس کا باپ نفقة دینے سے عاجز اور جسمانی یا عقلی آفت کے سبب کمانے سے مجبور ہو -

(۲) اولاد کا نفقة لڑکی کی صورت میں نکاح تک اور لڑکے کی صورت میں جب کہ اس کے مثل لڑکے کمانے کے لائق ہوں قائم رہے گا -

دفعہ ۱۵۶ (۱) - جب کہ باپ نفقة دینے سے عاجز ہو اور (در آن حالے کہ) وہ کمانے سے عاجز نہ ہو تو اولاد کے نفقة کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جس پر باپ کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے -

(۲) نفقة باپ کے ذمہ قرض کے طور پر ہوگا اور جب وہ خوشحال ہو جائے تو اس کو دلایا جائے گا -

دفعہ ۱۵۷ (۱) - اپنے بیٹے کی زوجہ کا نفقة باپ پر واجب نہ ہوگا جب وہ (بیٹا) خوشحال ہو -

(۲) عسرت کی حالت میں باپ کا نفقة پر خرچ کرنا بیٹے کے ذمہ قرض ہوگا تاآنکہ وہ خوشحال ہو -

دفعہ ۱۵۸ - خوشحال اولاد پر خواہ مرد ہو یا عورت بالغ ہو یا نابالغ، اپنے محتاج والدین کا نفقة واجب ہوگا، خواہ وہ (والدین) کمانے پر قادر ہوں، جب تک کہ باپ کی طرف سے کمانے کے معاملے میں اس کے مثل اشخاص کے مانند کسل اور سستی ظاہر نہ ہو -

دفعہ ۱۵۹ - نادار اور آفت بدنی یا عقلی کے سبب کمانے سے قادر شخص کا نفقة اس صاحب فراغت شخص پر واجب ہے جو اس کا وارث ہو، بمقدار ان کے حصص وراثت کے -

دفعہ ۱۶۰ - اختلاف دین کی بناء پر نفقة واجب نہیں ہوتا مگر آباؤ اجداد اور اولاد کے واسطے -

مجموعہ قوانین اسلام

[دفعہ ۱۶۲]

دفعہ ۱۶۱ - رشتہ داروں کا نفقہ تاریخ دعویٰ سے دلایا جائے گا (یعنی جس تاریخ سے عدالت میں درخواست پیش کی جائے)۔

تیونس کا قانون نفقہ :

دفعہ ۳۳ - بذریعہ قربات نفقہ کے مستحقین کی دو قسمیں ہیں - باب و دادا خواہ درجے میں کتنے ہی اوپری ہوں - صلبی اولاد خواہ درجے میں کتنے ہی نیچے ہوں ۔

دفعہ ۳۴ - پیٹھے اور خوشحال اولاد لڑکے ہوں یا لڑکی ان پر محتاج والدین ، دادا ، دادی کو نفقہ دینا واجب ہے ۔

دفعہ ۳۵ - اگر اولاد ایک سے زائد ہو تو خوشحال سے نفقہ دلایا جائے گا نہ کہ انفرادی طور پر ہر ایک سے اور نہ ہی ورثہ کی بنیاد پر ۔

دفعہ ۳۶ - باب پر خواہ درجے میں کتنا ہی بلند ہو اپنی نابالغ اور کسب معاش سے عاجز اولاد کا نفقہ خواہ درجے میں کتنا ہی نیچے ہو واجب ہے - عورت کا نفقہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ اس کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب نہ ہو جائے اور لڑکی کا نفقہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سولہ سال کی عمر بلوغ کو نہ پہنچ جائے اور کسب معاش پر قادر نہ ہو ۔

دفعہ ۳۷ - باب کے تنگdest ہونے کی صورت میں مان پر اپنی اولاد کے نفقہ کی ذمہ داری دادا کے مقابلے میں مقدم ہے ۔

دفعہ ۳۸ - اگر مان بیوہ کی رضاعت سے معذور ہو تو باب پر واجب ہے کہ عرف و عادت کے بموجب بھی کو دودھ پلانے کے قائم مقام انتظام کرے ۔

دفعہ ۳۹ - جس شخص نے کسی غیر کے نفقہ کی ذمہ داری جو بالغ ہو یا نابالغ ، اپنے اوپر ایک معین مدت تک کے لیے لازم کر لی تو اس کی

تکمیل اس پر لازم ہوگی اور اگر مدت غیر معین ہو اور اس نے خود اس مدت کا تعین کر لیا تو اس بارے میں اس کا قول مانا جائے گا۔

دفعہ ۵۰۔ خوراک، لباس، مکان، تعلیم اور جن اشیاء کا عرف کے تحت ضروری ہونا معتبر ہو، نفقة میں شامل ہوں گی۔

دفعہ ۵۱۔ نفقة اپنے سبب کے زائل ہو جانے سے ساقط ہو جاتا ہے اور جو کچھ نفقة دینے والے سے جبراً بلا سبب لیا گیا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔

دفعہ ۵۲۔ نفقة دینے والے کی استطاعت اور نفقة پانے والے کے حال، زمانہ اور نرخوں کے بموجب مقرر کیا جائے گا۔

دفعہ ۵۳۔ اگر نفقة کے مستحق ایک سے زائد ہوں اور نفقة دینے والا ان سب کو نفقة دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو روجہ کے نفقة کو اولاد کے نفقة پر تقدم حاصل، ہوگا اور نابالغ اولاد کے نفقة کو والدین کے نفقة پر۔

اردن کا قالون نفقة :

دفعہ ۶۵ (ج) جس اولاد کا نفقة اس کے باپ پر واجب ہے اس کی تعلیم کا خرچ بھی نفقة کی طرح اس پر واجب ہے اور معتبر ہوگا۔ طلب علم ان اسباب میں سے بطور ایک سبب کے ہے، جن کی بنیاد پر اولاد کا نفقة باپ کے ذمہ لازم ہوتا ہے اور اسی طرح برابر ہے کہ تعلم ابتدائی ہو یا ثانوی یا جامعی (یعنی یونیورسٹی کی) اور تعلم کے لیے اس کا تعین لڑکے کی سمعجه اور اہلیت کے پیش نظر باپ کی خوشحالی یا تنگدستی کے مطابق کیا جائے گا۔

(د) اگر باپ تنگدست ہے اور ڈاکٹری فیس یا علاج کی قیمت یا تعلیم کا خرچہ ادا نہیں کر سکتا اور مان خوشحال ہے اور قدرت رکھنی ہے

تو وہ نفقة اس پر لازم ہو جائے گا باین طور کہ باپ کے ذمہ قرض ہو گا اور خوشحالی کے وقت وہ اس سے لے سکتی ہے اور یہی صورت اس وقت ہو گی جب کہ باپ غائب ہو۔ (اور اس کا مال اولاد کے نفقة کی ادائی کے لیے موجود نہ ہو۔)

تجزیہ

پاکستان میں مسلمان بچوں یا آباء و اجداد کے نفقة سے متعلق کوئی مفصل قانون موضوعہ (enacted law) موجود نہیں البتہ کتب فقہ سے اخذ کردہ احکام پر عمل کیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے اس سلسلہ میں مفصل خاطبوں کے ساتھ قانون سازی کی جائے جیسا کہ دفعات مندرجہ بالا میں کوشش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں مالک اسلامیہ میں راجعِ الوقت قوانین سے کاف مدد مل سکتی ہے جن کے تفصیلی اقتباسات سطور بالا میں پیش کئے گئے ہیں۔

هبة

ہبہ کی تعریف

چوبیوال باب

ہبہ

۱۶۳۔ ایک شخص کا دوسرے شخص کی طرف کسی جالداد منقولہ یا غیر منقولہ کا فوری اور بلا معاوضہ منتقل کرنا اور اس دوسرے شخص کا خود یا اس کی طرف سے کسی اور صاحب مجاز کا اس شے موبوہ کو قبول کر لینا ہبہ کہلاتا ہے :

مگر شوط یہ ہے کہ واهب (ہبہ کرنے والا) موبوہ (ہبہ کی ہوئی) جالداد کے حق ملکیت اور اس پر اختیارات سے کلیناً دستبردار ہو جائے۔

تفسیر

ہبہ اپنے لفظی معنی میں کسی ایسی شے کا دے دینا ہے جس سے وہ شخص جس کے نام ہبہ کیا جائے فائدہ حاصل کر سکتا ہو۔ ہبہ کی تعریف کنز الدقائق میں ”ہی تملیک العین بلا عوض“ کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ ۱ یعنی ہبہ (دوسرے شخص کو) بلا معاوضہ کے مالک بنانا ہے۔

شرع اکسی مخصوص شے کی ملکیت کا حق بغیر کسی معاوضہ کے عطا کرنا ”ہبہ“ کہلاتا ہے۔

علامہ نجم الدین ای جعفر العلی نے شیعی فقہ پر اپنی مشہور کتاب شرائع الاسلام میں ہبہ کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ ”ہبہ وہ عقد ہے جو بلا عوض عین مال کے اس طرح مالک کر دینے کو مقتضی ہے کہ فوری (غیر متعلق) اور نیت قربت سے مجرد (حال) ہو۔ کبھی ہبہ کی تعبیر

(۱) (کنز الدقائق، عبدالله بن محمود السنفی، مطبوعہ مصر... صفحہ ۳۵۲
فتح القدائر، ابن ہمام، مطبوعہ مصر... جلد ۲، صفحہ ۱۱۳)

لطف ”خملہ“ اور ”عطیہ“ سے بھی کی جاتی ہے۔^۲

بھی کے اصول کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”تھادوا خابوا“ ہے یعنی باہم ایک دوسرے کو هدیہ دو تاکہ محبت بڑھے۔^۳

پاکستان میں راجعِ الوقت قانون انتقال جانبداد ایکٹ ۱۸۸۲ع کی
دفعہ ۱۶۲ کے تحت بھی کی حسب ذیل تعریف بیان کی گئی ہے :

”بھی کسی ایسی منقولہ یا غیر منقولہ جانبداد کا انتقال ہے
جو وجود میں ہو اور جو رضا کارانہ طور پر بلا معاوضہ ایک شخص
کی طرف سے جس کو واهب (Donor) کہا جاتا ہے دوسرے شخص
کے حق میں جس کو موهوب لہ (Donee) کہا جاتا ہے کیا جائے
اور جو موهوب لہ یا اس کی طرف سے قبول کر لیا جائے۔“

ایسی قبولیت و اہب کی زندگی میں دی جائے نیز جب کہ وہ
بھی کرنے کا اہل ہو۔

اگر موهوب لہ قبولیت سے پہلے سر جائے تو بھی کالعدم ہو
جائے گا۔“

حق ملکیت و اختیار سے دستبرداری :

بھی کے لیے یہ امر لازمی ہے کہ بھی کرنے والا بھی کی ہوئی جانبداد
کے حق ملکیت اور اس سے متعلق اختیارات سے کلیتاً دستبردار ہو جائے۔

بھی صاف اور صریح ہونا چاہئے۔ بھی کرنے والوں کی نیت کا انصراف
بھی کی ہوئی شے کو موهوب لہ (donee) کے حق میں قطعی طور پر چھوڑ
دینے پر ہے۔ چنانچہ اگر بھی کرنے والا بھی کی ہوئی شے پر اپنے مالکانہ
اختیارات استعمال میں لاتا رہے تو وہ بھی کالعدم متصور ہو گا۔

بھی رضا کارانہ ہونا چاہئے۔ جبراً بھی ناجائز اور کالعدم متصور ہو گا۔

(۲) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر الحلي، (٢٠٠)، مطبوعہ بيروت،^۱ القسم الرابع، جلد اول، صفحہ ۲۵۳

(۳) هدایہ، برهان الدين مرغیبی، مطبوعہ قرآن محل، جلد ۳، صفحہ ۲۸۳

۱۶۴ - ہبہ ایک عقد ہے جو ایجاد و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے ۔

قشر بح

دیگر عام معاهدات کی طرح ہبہ کا انعقاد بھی ایجاد و قبول پر منحصر ہے جیسا کہ المختصر للقدوری، کنز الدائقائق اور هدایہ میں لکھا ہے کہ ہبہ ایجاد و قبول اور قبضے سے صحیح ہوتا ہے ۔

در اصل ہبہ کی نوعیت ایک معاهدے کی ہے اور معاهدہ ایجاد و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے ۔ جہاں تک قبضے کا تعلق ہے، قبضہ ثبوت ملک کے لیے ضروری ہے نہ کہ انعقاد ہبہ کے لیے ۔ چنانچہ اگر عقد ہبہ میں ایجاد اور قبول پایا جائے تو کہا جائے گا کہ ہبہ منعقد ہو گیا البتہ عدم قبضہ کی صورت میں ہبہ نامکمل اور غیر نافذ قرار پائے گا۔

۱۶۵ - انعقاد ہبہ کے لیے شہادت لازم نہیں ۔

شہادت ہے

قشر بح

ہبہ کے ارکان ایجاد اور قبول ہیں ۔ اس کی تکمیل قبضہ دینے سے ہوتی ہے ۔ کوئی ہبہ جس میں مطلوبہ ارکان پائے جائیں اور قبضہ بھی دے دیا گیا ہو، مخض اس بناء پر ناجائز نہ ہو گا کہ اس ہبہ میں گواہ نہیں ۔

۱۶۶ - ہبہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ ہبہ کرنے والا ہبہ کی ہونی جالداد کا بھہ موهوب لہ کے حوالے نہ کر دے ۔

استثناء: جن اشیاء کا قبضہ نہیں دیا جاسکتا ان کے ہبہ کی تکمیل واہب کے کسی اسرے فعل سے ثابت ہو جائے کی جس سے صاف طور پر یہ واضح ہوتا ہو کہ وہ جالداد کے حق ملکیت سے دست بردار ہو گیا ہے ۔

ہبہ کی تکمیل

(۱) المختصر للقدوری، مطبوعہ قرآن محل کراچی، صفحہ ۱۲۸
کنز الدائقائق، عبدالله ابن حمود نسخی، مطبوعہ مصر . . . صفحہ ۳۵۲
هدایہ، برهان الدین مرغینانی، مطبوعہ قرآن محل، جلد ۲، صفحہ ۲۸۳

تشریح

ہبہ کی تکمیل قبضہ کے بعد ہوتی ہے یا اس کی تکمیل کے لیے قبضہ کی حاجت نہیں، اس بارے میں فقہاء کے دریان اختلاف پایا جاتا ہے۔
حنفیہ اور مالکیہ کا اختلاف :

حنفیہ کے نزدیک ہبہ ایجاد و قبول سے منعقد ہو جائے گا، لیکن موہوب لہ (donee) کی ملکیت اسی وقت کامل ہوگی جب کہ شے موہوبہ (gifted property) پر اس کا قبضہ ہو جائے۔

امام مالک کے نزدیک شے مبعیہ (جو شے فروخت کی گئی ہو) کی طرح ہبہ کی صورت میں بھی بلا قبضہ ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک بلا قبضہ ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ احناف اپنے قول کی دلیل میں حدیث نبوی ”لَا يَبُوزُ الْهَبَةُ إِلَّا مَقْبُوضَةً“ پیش کرتے ہیں۔ یعنی ہبہ جائز نہیں الا یہ کہ شے موہوبہ پر موہوب لہ کا قبضہ ہو گیا ہو۔^۵
احناف کی دلیل :

احناف ہبہ کے سلسلے میں مذکورہ بالا حدیث سے استناد کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حدیث صرفون نہیں ہے بلکہ عبدالرزاق کے بقول ابراهیم نخسی (تابعی) کا قول ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہبہ کی تکمیل بلا قبضے کے نہیں ہوتی۔ امام مالک کا بلا قبضہ شے موہوبہ کو شے مبعیہ پر قیاس کرنا درست نہیں۔ ہبہ در اصل احسان کا معاملہ ہے اس کو بیع پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بیع عقد معاوضہ یا مبادله (contract for consideration or exchange) ہے۔ چنانچہ اگر عرض ہبہ (بلا قبضہ) سے موہوب لہ کی ملکیت ثابت قرار دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہبہ کرنے والے پر یہ ذمہ داری عائد ہو گی کہ وہ

(۵) هدایہ، برهان الدین مرغینانی، مطبوعہ فرقہ علم کراچی، جلد ۳، صفحہ ۲۸۳

شے موهوبہ بلا تاخیر موهوب لہ کے سپرد کر دے۔ حالانکہ ہبہ میں احسان کا معاملہ ہونے کے سبب یہ کیوں کر لازم ہو سکتا ہے، جب کہ موهوب لہ کا واهب پر کوئی حق واجب نہیں۔ لہذا امام مالکرخ کا یہ نقطہ نظر درست نہیں معلوم ہوتا کہ بلا قبضہ شے موهوبہ میں موهوب لہ (donee) کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔

اس ختن میں احناف کا یہ نظریہ درست معلوم ہوتا ہے کہ قبضے سے پہلے شے موهوبہ میں ملکیت ثابت نہیں ہوئی۔ چنانچہ اگر الف نے اپنی کوئی جائداد ب کو ہبہ کر دی مگر ابھی قبضہ اسی کے پاس ہے تو بalf کو بر بناء ہبہ اس جائداد سے بے دخل نہیں کرا سکتا۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث :

موطاء امام مالک میں حضرت عائشہؓ سے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابویکرؓ نے اپنی بیٹیؓ حضرت عائشہؓ کو ۲۰ وسق^{*} کھجوروں جو ابھی درختوں سے توزیؓ نہ گئی تھیں ہبہ کی تھیں اور ابھی وہ کھجوروں توزیؓ نہ گئی تھیں کہ حضرت ابویکرؓ کی وفات کا وقت آپنے ۔ حضرت ابویکرؓ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔ اگر تو نے ان کھجوروں بھر قبضہ کر لیا ہوتا تو وہ تیری ہو جاتیں۔ اب بموجب احکام وراثت سب وارثوں میں تقسیم کرنا۔

نیز عبدالراقنؓ نے صحیح استاد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی ہبہ کی تکمیل کے لیے قبضے کو شرط قرار دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے بھی یہی مروی ہے کہ ہبہ میں قبضہ شرط ہے اور بلا قبضہ ملکیت ثابت نہیں ہوئی۔^۵

*ایک وسق ۶۰ صاع کے برابر ہوتا ہے اور ایک صاع تقریباً سارہی تین سیر کے برابر ہوتا ہے یعنی تقریباً پانچ من دس سیر کھجوروں ہبہ کی تھیں۔
 (۵) الدرایہ فی تصریح احادیث الہدایہ، محبوب المطابع دہلی ۱۳۵۰ء، صفحہ ۳۰۷

المسوٹ :

قبضہ کے سلسلہ میں امام سرخسی اپنی مشہور تصنیف "المسوٹ" میں لکھتے ہیں کہ : ہارے (احناف کے) نزدیک ہبہ میں ملکیت عقد ہبہ کے سبب قبضہ سے پہلے ثابت نہیں ہوتی، اور امام مالک کے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے کہیر کہ امام مالک کے نزدیک ہبہ ایک عقد تملیک ہے۔ لہذا ملکیت کا ثبوت (قیام) عقد ہبہ کے ساتھ قبضہ پر موقوف نہیں رہے گا، جیسا کہ عقد بیع میں ہے، بلکہ اس سے بھی افضل صورت ہے کیونکہ بیع میں ملک کے اثبات کے لیے حاجت دونوں جانب سے ہوتی ہے اور ہبہ میں صرف ایک طرف سے۔ پس جب شخص قول دونوں طرف سے ملکیت کو واجب کر دیتا ہے تو ایک جانب سے ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ ملک ثابت ہو جائے گی۔

اس سئیلہ میں ہاری (احناف کی) دلیل وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی جانب سے روایت کی گئی ہے کہ "ہبہ جائز نہیں ہوتا مگر قبضہ سے" اس کے معنی ہیں کہ حکم ثابت نہیں ہوتا اور وہ (حکم) ملکیت ہے، اس واسطے ہبہ کا انعقاد بالاتفاق قبضہ سے پہلے ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسرا علت یہ ہے کہ یہ عقد (ہبہ) احسان کا معاملہ ہے پس اس میں ملکیت مجرد قبول سے ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ وصیت میں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عقد تبرع (عقد احسان) فی نفسہ (اپنی ذات میں) کمزور ہوتا ہے اور اسی واسطے اس کے ساتھ لزوم متعلق نہیں ہوتا اور واہب کی ملکیت جو قائم ہوتی ہے قوی ہوتی ہے وہ ایک ضعیف سبب کے ذریعہ زائل نہ ہوگی یہاں تک کہ اس میں وہ شے شامل ہو جائے جو اس کو مضبوط بنا دے اور وصیت میں یہ شے (وصیت کرنے والی) کی موت ہے کیونکہ وہ ملک کی مناقی ہوتی ہے۔^۶

(۶) المسوٹ، امام سرخسی مطبوعہ مصر، ۱۳۴۴ھ جلد ۱۲، صفحہ ۷۸

المسوٹ میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ”کہ میرے باپ نے اپنے باغ میں سے جو عالیہ میں تھا کٹی ہوئی کھجور کے بیس و سق ہبہ کئے۔ جب آپ کا وقت آخر آپنچا تو حضرت ابویکر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا کہ اے بیٹی ! میں لوگوں میں تجھے سے بہ اعتبار تیرے غنی ہونے کے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور تیری دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہ اعتبار تیرے فقیر ہونے کے سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں۔ میں نے تجھے یہیں و سق کٹی ہوئی کھجور اپنے باغ میں سے عالیہ مقام میں ہبہ کیں۔ تو نے ان کا قبضہ نہیں لیا اور اس مال کو علیحدہ بھی نہ کیا۔ یہیں وہ مال وارثوں کا ہے۔ وہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بھنوں کا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابویکر سے کہا کہ وہ تو صرف ام عبداللہ یعنی اسماء ہیں۔ ابویکر نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ بنت خارجہ کے رحم میں لڑکی ہے۔ شعی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ ابویکر نے (کھجوروں کے عوض) حضرت عائشہ کو اپنی زین ہبہ کر دی تھی۔“

مندرجہ بالا حدیث سے اخذ نتائج :

اس واقعہ میں یہ دلیل پائی جاتی ہے کہ ہبہ بلا قبضہ مکمل نہیں ہوتا اور قبضہ کے سلسلے میں یہ امر برابر ہے کہ وہ اجنبی ہو یا بیٹا، جب کہ وہ دونوں بالغ ہوں۔

حضرت عائشہ کی اس حدیث میں یہ دلیل بھی پائی جاتی ہے کہ ہبہ بلا تقسیم مکمل نہیں ہوتا جب کہ وہ شش قابل تقسیم ہو، کیونکہ حضرت ابویکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم قبضہ اور عدم تقسیم دونوں کی بناء پر اس ہبہ کو، جو حضرت عائشہ کو کیا تھا، باطل قرار دے دیا۔

(۷) المسوٹ، امام سرخسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۴۴ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۷۹

حضرت ابویکرؓ کے قول میں ”کہ تو نے نہ قبضہ لیا اور نہ تقسیم کیا“، میں ”حیازت“ سے مراد تقسیم ہے اور اس حدیث سے یہ دلیل بھی نکلتی ہے کہ غیر منقسمہ شے کا ہبہ جو قابل تقسیم ہو (فی الاصل) باطل نہیں ہوتا ، البتہ مشاع قابل تقسیم کی صورت میں ملک حاصل نہیں ہوتی تاولیکہ مشاع تقسیم نہ ہو جائے جس طرح قبضے کے بغیر ملکیت حاصل نہیں ہوتی اور ہم (احناف) یہ نہیں کہیں گے کہ ہبہ قبضے سے بھلے باطل ہے - اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ ہبہ کا تسلیم کر دینا ابتداء تمیلک کے مانند ہے اور ابویکر رضی اللہ عنہ تسلیم کرنے سے بوجہ اپنے مرض کے رک گئے تھے کیونکہ مرض کا حالت مرض (مرض الموت) میں اپنے مال میں سے کوئی شے اپنے ورثاء کو بطور ہدیہ کے دینا منوع ہے - اس سے یہ دلیل بھی نکلتی ہے کہ مرض الموت کی خالت میں مرضیض کے مال سے وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے نیز اس میں سے یہ دلیل بھی نکلتی ہے کہ حمل جملہ ورثاء میں شامل ہے ۔^۸

نابالغ کے حق میں ہبہ کی صورت میں قبضہ کی نوعیت :

امام سرخسی آگے لکھتے ہیں کہ ”حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے نابالغ بھی کے حق میں ہبہ کرے تو اس آدمی کے ہبہ کا اعلان کر دینے سے وہ ہبہ جائز ہو جاتا ہے - حضرت عمر اور عثمانؓ کے اس قول سے ہم (احناف) یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس ہبہ میں حق قبضہ نابالغ کی جانب سے باب کو ہوتا ہے - اگر ہبہ کرنے والا خود قابض ہوتا ہے تو اسی قبضے سے ہبہ مکمل ہو جاتا ہے اور حصول مقصد کے لیے اس ہبہ کا اعلان کرنا لابدی ہوتا ہے ، کیونکہ لڑکا اس چیز کے مطالبے پر قادر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے معلوم نہ ہو کہ کوئی شے اسے ہبہ کی گئی ہے اور یہی اس روایت

(۸) المبسوط (امام سرخسی) مطبوعہ مصر ، جلد ۱۲ ، صفحہ ۵۰۵۱

کے معنی ہیں جو شریع نے بیان کی ہے کہ ان سے پوجھا گیا کہ کیا چیز نابالغ بھی کے واسطے اس کے باپ کے ہبہ کو جائز کرنے ہے؟ شریع نے کہا کہ ”اس ہبہ پر شہادت“ اور بیان اس ہبہ پر شہادت سے مراد اس ہبہ کا اعلان ہے۔ کیونکہ شہادت ہبہ میں اس کے تکمیل کی شرط نہیں ہے اور اعلان کا جو ذکر کیا گیا وہ مضبوطی کے واسطے ہے تاکہ بیٹا باپ کی موت کے بعد تمام ورثاء کے خلاف اپنی ملکیت دلیل کے ساتھ ثابت کرنے پر قادر ہو جائے۔^۹

”امام محمد نے فرمایا کہ اگر قبضے سے پہلے واهب اور موهوب دونوں میں سے کوئی ایک سر جائے خواہ واهب، خواہ موهوب لہ تو ہبہ باطل ہو جائے گا کیونکہ ہبہ قبضے سے مکمل ہوتا ہے اور قبضہ ہبہ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح بیع میں قبول، بایں طور کہ ملک اس سے ثابت ہوئے ہے جیسا کہ بائع اور مشتری (seller and purchaser) دونوں میں سے کسی کی موت ایجاد کے بعد اور قبول سے پہلے بیع کو باطل کر دیتی ہے اسی طرح ہبہ قبضے سے پہلے واهب یا موهوب کی وفات کے سبب باطل ہو جاتا ہے۔“^{۱۰}

قبضے کے لیے اجازت ضروری ہے :

امام محمد نے فرمایا کہ ”اگر شےی موهوبہ عقد ہبہ کی مجلس میں موجود ہو اور موهوب لہ نے واهب کی اجازت سے اس کا قبضہ لیا ہو تو شےی موهوبہ موهوب لہ کی ملک ہو جائے گی اور اگر اس کا قبضہ واهب کی اجازت کے بغیر لیا ہو تو اس طرح قبضہ لینا بر بناء قیام موهوب لہ کو شےی موهوبہ کا مالک نہیں بناتا مگر از روئے استحسان وہ اس کا مالک ہو

(۹) البسط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۷ء، جلد ۱۲، صفحہ ۵۱

البحر الرائق، ابن نحیم، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ء، جلد ۲، صفحہ ۲۸۸

(۱۰) البسط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۷ء، جلد ۱۲، صفحہ ۵۲

جائے گا۔ کتاب الریادات میں امن قول پر نص ہے، ۱۱۴

دلیل بر بناء قیاس یہ ہے کہ شئے سوہوبہ و اہب کی ملک میں باق رہتی ہے اور کسی دوسرے شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ملک پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کر لے، کیونکہ ایسا قبضہ بہ طور تعددی (ظلم و زبردستی) کے ہوتا ہے نہ کہ بطور تمیلک کے۔ عقد کا ایجاد بیع کی طرح قبضے کے حق میں اذن نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر مشتری باائع کی اجازت کے بغیر زر ثمن کی ادائی سے پہلے شئے مبیعہ پر قبضہ کر لے تو یہ قبضہ "اجازت کے ساتھ" نہیں کھلاٹے گا اگرچہ شئے مبیعہ حاضر ہو تب بھی عقد کی بناء پر باائع کا اس شئے کو روک لینے کا حق ساقط نہیں ہوتا باوجودیکہ مشتری شئے مبیعہ کا مالک ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی ملک پر قبضہ کرتا ہے۔ جب کہ موهوب لہ بر بناء عقد مالک نہیں ہوتا تو اس کا قبضہ بر بناء اجازت کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے۔

دلیل بر بناء استحسان یہ ہے کہ ہبہ میں قبضہ بیع میں قبول کی مانند ہے لہذا بیع کا ایجاد قبول میں اذن ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہبہ کا ایجاد قبضے میں اذن ہو جاتا ہے کیونکہ ایجاد کننڈہ کا مقصود تبع (احسان) کی تکمیل ہے۔ اور یہ قبضے سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ قبضہ ہبہ کے مقصود کی تھیلی ہے۔

اگر شئے سوہوبہ مجلس ہبہ میں موجود نہ ہو اور موهوب لہ نے اس کا قبضہ لے لیا ہو جب کہ و اہب اور موهوب لہ جدا ہو گئے ہوں تو بغیر و اہب کی اجازت کے ایسا قبضہ موهوب لہ کو مالک نہیں بناتا۔ اگر موهوب لہ نے و اہب کی اجازت سے قبضہ کیا ہو تو اس کی بھی دو صورتیں

(۱۱) المبسوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۲ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۵

جمع الانہر مطبوعہ مصر ۱۳۲۲ھ، جلد ۲، صفحہ ۲۵۸
ہدایہ، برهان الدین مرغیانی مطبوعہ قرآن محل کراچی، جلد ۲، صفحہ ۲۸۳

ہیں۔ قیاسی و استحسانی۔ قیاسی یہ کہ ایسا قبضہ موهوب لہ کو مالک نہیں بناتا کیونکہ یہ قبضہ بیع میں بہ متزلہ قبول کے ہے اور قبول افراق کے بعد ملک کو ثابت نہیں کرتا خواہ وہ قبول ایجاد کننده کی اجازت سے ہو یا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہی صورت ایسے ہے میں قبضے کی ہے۔

دوسری صورت یہ کہ استحسان کی بنیاد پر ایسا قبضہ موهوب لہ کو شئی موهوبیہ کا مالک بنا دیتا ہے کیون کہ عقد ایجاد و قبول کے پائے جانے سے منعقد ہو جاتا ہے اور قبضہ کی احتیاج اس لیے ہے، تاکہ اس کے ذریعہ سبب کو قوی بنایا جائے۔ چنانچہ یہ تقویت ملکیت افراق کے بعد بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ قبضہ مالک کی صریح یا معنوی اجازت کا محتاج ہوتا ہے۔ پس جب شئی موهوبیہ موجود نہ ہو تو معنوی طور پر اس کا قبضہ اجازت کو ثابت نہیں کرتا الی یہ کہ واہب کی سلک کا قبضہ اس کی اجازت سے صراحتاً لیا گیا ہو۔^{۱۲}

شیعی نقطہ نظر :

علامہ نجم الدین ابی جعفر الحعلیؑ نے شیعی فقہہ پر اپنی مشہور کتاب شرائع الاسلام میں لکھا ہے کہ عقد ہبہ ایجاد و قبول اور قبضہ کا محتاج ہے۔ ایجاد سے ہر وہ لفظ مراد ہے جس سے تملیک (مالک) کرنا شئی مذکور کا قصد کیا جائے جیسے ”وہبتک“ (میں نے تجھے کو ہبہ کیا) ”ملکتک هذا“ (میں نے تجھے کو فلان شئی کا مالک کیا) وغیرہ۔^{۱۳}

علامہ نجم الدین ابی جعفر الحعلیؑ نے آگے لکھا ہے کہ عقد ہبہ کی صحت میں واہب (ہبہ کرنے والا) کا بالغ اور کامل العقل اور جائز التصرف ہونا شرط ہے اور اس مال کو ہبہ کرے جو کسی کے ذمے ہو پس اگر اس شخص کے لیے ہبہ کیا ہے جس پر واہب کا حق نہیں ہے تو علی الاشتبه

(۱۲) البسطو، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۰ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۵۲

(۱۳) شرائع الاسلام، نجم الدین ابی جعفر الحعلی، القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کی صحت کے لیے حصول قبضہ شرط ہے جو محل قرض میں ممتنع ہے اور اگر اس شخص کے لیے ہبہ کیا جس پر واهب کا حق ہے تو صحیح ہوگا اور یہ ہبہ ابراء کی طرف منتقل ہو جائے گا اور صحت ابراء الراس (مال کا ساقط کرنا جو کسی کے ذمہ ہو) میں علی الاصح تحقق قبول شرط نہیں ہے۔^{۱۴}

شیعی فقهاء کے نزدیک جب تک کہ مال موہوب (جو ہبہ کیا گیا ہے) پر قبضہ متحقق نہ ہوگا اس وقت تک ہبہ کے لیے کوئی حکم نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی مال کے ہبہ کرنے پر اس پر قبضہ دینے کا اقرار کرے تو موافق اس اقرار کے حکم کیا جائے گا اگرچہ مال موہوب (جو ہبہ کیا گیا ہے) واهب کے پاس ہو اور اگر اس کے بعد اپنے اقرار سے انکار کرے گا تو قبول نہ ہوگا۔^{۱۵}

قبضہ موہوب لہ میں بعد عقد جب کہ تاخیر ہو (یعنی عقد ہبہ کے بعد مال موہوب پر فوراً قبضہ نہ ہو) پھر واهب اس کو مال موہوب پر قبضہ دے تو انتقال ملک کا وقت قبضہ سے لیا جائے گا نہ کہ وقت عقد سے بخلاف وصیت کے کہ وہاں پر انتقال وصیت کا موت موصی کے وقت سے حکم کیا جائے گا جب کہ وصی نے وصیت کو قبول کر لیا ہو، اگرچہ تحقیق قبضہ میں موت موصی اور قبول وصی سے تاخیر واقع ہو۔^{۱۶}

اگر باپ یا دادا کوئی مال نابالغ بھی کو ہبہ کرے تو یہ ہبہ نفس عقد سے لازم ہو جائے گا اس لیے کہ قبضہ ولی کی طرف سے ہے اور اگر نابالغ بھی کو باپ، دادا کے علاوہ کوئی اور شخص ہبہ کرے خواہ واهب کو طفل مذکور پر ولایت حاصل ہو (جیسے وصی) یا حاصل نہ ہو تو طفل کی جانب

(۱۴) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر الحلي، مطبوعة بيروت، القسم الرابع، صفحه ۲۵۳

(۱۵) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر الحلي، مطبوعة بيروت، القسم الرابع، صفحه ۲۵۳

(۱۶) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر الحلي، مطبوعة بيروت، القسم الرابع، صفحه ۲۵۳

سے قبضہ کا حقق ہونا ضروری ہوگا۔ لہذا اگر شخص واهب غیر ولی ہوگا تو طفل کی جانب سے قبضہ کا متولی طفل کا ولی ہوگا یا حاکم شرع، اور اگر شخص واهب طفل کا ولی ہوگا (جیسے وصی) تو طفل کی جانب سے قبضہ کی ولایت اس ولی یا حاکم شرع کو حاصل ہوگی۔^{۱۴}

شیعی فقه کی مشہور کتاب شرائع الاسلام میں لکھا ہے کہ قبضہ کی صحت میں اجازت واهب شرط ہے پس اگر مال موهوب پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص قبضہ کر لے تو موهوب لہ (جن شخص کے لئے ہبہ کیا گیا ہو) کی طرف منتقل نہ ہوگا اور اگر اس مال کو ہبہ کر لے جن برمودہ کیا گیا قابض ہو تو صحیح ہوگا۔ صحت قبضہ میں اجازت واهب یا اس قدر مدت کے گزرا جانے کی ضرورت نہ ہوگی جس میں موهوب لہ کو قبضہ کرنا ممکن ہو۔^{۱۵}

ظاہریہ فرقہ کا نقطہ نظر :

ظاہریہ کے نزدیک ہبہ کے لفظ ہی سے ہبہ مکمل اور تام ہو جاتا ہے اس پر قبضہ کرنے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی حکم ان کے نزدیک عطیہ اور صدقہ کا ہے۔ ہبہ کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد واهب کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا اور اگر ہبہ کے بعد واهب مالکانہ تصرفات بھی شئی موهوبہ میں کر ڈالیں گا تب بھی ہبہ باطل نہ ہوگا بلکہ مالک کے تصرفات باطل ہوں گے اور وہ خامن ہوگا۔^{۱۶}

بلا اجازت قبضہ کے بارے میں پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ :

سپریم کورٹ پاکستان نے یمندمہ شمشاد علی بنام سید حسن شاہ قرار دیا کہ شئی موهوبہ کے قبضے کی حوالگی موهوب لہ کے حق میں بذریعہ

(۱۷) شرائع الاسلام، نجم الدین ابی جعفر العلی، مطبوعہ بیروت القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

(۱۸) شرائع الاسلام، نجم الدین ابی جعفر العلی، مطبوعہ بیروت القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

(۱۹) المحتلی، این حزم، مطبوعہ مصر، جلد ۶ ص ۱۰۷

واہب ہونا ضروری ہے چنانچہ موهوب لہ کا واہب کی اجازت کے بغیر قبضہ کر لینا بے اثر ہوگا۔^{۲۰}

امالت کی صورت میں جدید قبضے کی ضرورت نہیں :

”جب کوئی شخص دوسرا سے شخص کے پاس کوئی شے بطور امانت رکھے اور پھر وہ اس سے ملاقات کرے اور وہ شے اس کو ہبہ کر دے درآن حالے کہ شے موهوبہ ان دونوں کے سامنے موجود نہ ہو تو ایسا ہبہ جائز ہوگا جب کہ موهوب لہ کریں کہ میں نے اس شے کو قبول کیا۔ ایسی صورت میں جدید قبضے کی ضرورت نہیں۔“^{۲۱}

شیعی نقطہ نظر :

شیعہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے ۔

قبضہ لازمی ہے ۔ ہا کستانی عدالتون کے فیصلے :

جسشن کیانی و حبیب اللہ خان نے بمقدمہ اورنگ زیب بنام داؤد خان مندرجہ ہی ایل ڈی، ۱۹۵۷ع پشاور صفحہ ۳۸۵ قرار دیا کہ قبضے کی حوالگی کسی جائز ہبہ کی تین شرطوں میں سے ایک ہے ۔ لیکن اگر ہبہ باب کی جانب سے اپنے نابالغ بیٹے کے حق میں یا ایک سربرست کی جانب سے وارڈ (زیر ولادت بیٹہ) کے حق میں ہو تو قبضے کے منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ وہ سب کچھ جس کی ضرورت ہے نیک نیتی کے ساتھ دینا ثابت کرتا ہے ۔ چنانچہ ایسی صورت میں جبکہ دادا اپنے نابالغ بیوئے کے حق میں ہبہ کرے جب کہ اس کا باب میں چکا ہو تو دادا خود ہی قابض ہوگا اس کو قبضہ دینے کی ضرورت نہیں اور یہ تصور کر لیا جائے گا کہ

(۲۰) ہی، ایل، ڈی، ۱۹۶۳ع، سیریم کورٹ، صفحہ ۱۰۳

(۲۱) المبسوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۴۵ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۵۸

فتح القدير ان هام، مطبوعہ مصر جلد ۱، صفحہ ۱۲۵

البعزالائق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر، جلد ۱، صفحہ ۲۸۷

شرائع الاسلام، علامہ حلی، مطبوعہ بیروت، جلد اول، القسم الرابع صفحہ ۲۵۳

نابالغ ہوئے اپنے دادا کی زیر ولایت ہے، جب کہ اس کا باپ مرحکا ہو۔

جسٹس محمد یعقوب علی خان اور جسٹس چنگیز نے بہ اجلام متفقہ بمقامہ شمشاد علی بنام حسن شاہ مندرجہ پی ایل ڈی، ۱۹۷۰ع، لاہور صفحہ ۳۰۰ قرار دیا کہ اسلامی قانون کے تحت ہبہ کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ:

(۱) واهب کی جانب سے ہبہ کا اظہار ہو،

(۲) موہوب لہ کی جانب سے اس ہبہ کا صریحی یا معنوی طور پر قبول ہو، اور

(۳) یہ کہ شے موہوبہ کا جس طرح قبضہ دیا جانا ممکن ہو اس کا قبضہ موہوب لہ کے حوالے کیا گیا ہو۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ جب ہبہ کی جانے والی شے حقیقی قبضہ دینے کے قابل نہ ہو تو ہبہ کرنے والی کے ایسے مناسب افعال سے، جن کا منشاء اس شخص کی طرف جس کے نام ہبہ کیا گیا ہے، جائداد منتقل کرنے کا ہو تو ہبہ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جائداد مرحونہ (right of redemption) کا حق انفکاک (mortgaged property) کے قبضے میں ہو۔

مغربی پاکستان ہائی کورٹ، لاہور نے بمقامہ منصور بنام ثریا یکم قرار دیا کہ ماں محض نابالغ بھوپول کی ایک معینہ عمر تک حصانات کا حق رکھتی ہے، وہ باپ کی زندگی میں نابالغ کی ذات کی سربرست نہیں ہو سکتی باپ اس حقیقت کے باوجود کہ حصانات ماں کے حق میں ہو، اپنے بھوپول کا تمام اوقات میں سربرست رہتا ہے۔ ایک باپ یا سربرست چونکہ نابالغ کی جائداد کا سربرست ہوتا ہے اس لیے باپ یا سربرست کے اپنے نابالغ بھوپول کے

نام جائیداد ہبہ کرنے کی صورت میں قبضہ کی حوالگی کی لزومیت کی پابندی سے بری کر دیا جاتا ہے۔ مان نایابع بیوں کی ذات یا جائیداد کی سرپرست نہیں ہے (اس لیے مان کے اپنے نایابع بیوں کے نام جائیداد ہبہ کرنے کی صورت میں قبضہ کی حوالگی کے اصول کی پابندی لازمی ہوگی)۔^{۲۲}

سپریم کورٹ پاکستان نے یمنقدمہ شمشاد علی شاہ بنام حسن شاہ قرار دیا کہ جائیداد موہوبہ کے قبضے کے متعلق شرع اسلام کا قاعدہ بالکل واضح ہے۔ شرع اسلام میں شئیے موہوبہ کے قبضے کی حوالگی موہوب لہ کے حق میں ہبہ کے جواز کے لیے شرط مقابل کی حیثیت رکھوئی ہے۔ ہبہ کی دستاویز میں حوالگی قبضہ کا محض ذکر کاف نہیں الیہ کہ واہب موہوب کا باپ اور سرپرست ہو (چنانچہ ہبہ بلا قبضہ من ابتداء باطل (void ab initio) ہے)۔^{۲۳}

یمنقدمہ رابعہ خاتون بنام عزیز الدین بسوامی سپریم کورٹ، پاکستان نے قرار دیا کہ قانون اسلام میں ہبہ کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ شئیے موہوبہ کا قبضہ موہوب لہ کو دیا جائے جو واہب کی کلیتاً دست برداری کی شہادت ہوگا۔ اگر نایابع کا حقیقی باپ زندہ ہے تو قبضہ اس حقیقی باپ کو دیا جانا چاہئے۔ ایسی صورت میں جب کہ ایک باپ اپنے نایابع بیوے

(۲۲) ہی ایل ڈی، ۱۹۶۶ع، لاہور صفحہ

یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ مان کے سوا بیوہ کا کوئی ولی یا وصی موجود ہو۔ لیکن اگر موجود نہ ہو اور صرف مان ہی بیوے کی نگران اور محافظہ ہے تو اس کو قبضہ کا حق حاصل ہوگا۔ اس کا قبضہ بیوے کا قبضہ متصور ہوگا (البحرالرائق ابن نحیم، مطبوعہ مصر جلد ۲، صفحہ ۲۸۸)

امام سرخسی کے نزدیک مان کا قبضہ باپ کے درجہ میں ہوگا جیکہ وہ نایابع مان کی زیر پروردش ہو۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو المبسوط مطبوعہ مصر ۵۱۳۲۳، جلد ۱۲، کتاب الہبة۔

(۲۳) ہی ایل ڈی، ۱۹۶۳ع سپریم کورٹ، صفحہ ۱۳۳

کے حق میں ہبہ کرتا ہے تو وہ (نابالغ بھی) اس شے سوہوبہ کا مالک ہو جاتا ہے اور یہی قاعدہ اپنی جگہ درست ہے۔ جب کہ اس نے پرورش کی اور جس کا باپ مل چکا تھا اور جس کا کوئی سرپرست مقرر نہیں اور یہی صورت اس ہبہ کے معاملے میں ہوگی جو کوئی دوسرا شخص جو اس بھی کو ان حالات میں پرورش کر رہا ہے اس بھی کے نام ہبہ کرے۔ اگر ایک نابالغ موہوب لہ کا باپ زندہ ہے تو حقیقی سرپرست کی حیثیت سے اپنے نابالغ لڑکے کی جائیداد کی نگرانی اور انتظام کی ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے اور قبضہ اس کو دیا جانا چاہئے تاکہ ہبہ مکمل ہو سکے۔ لیکن اگر نابالغ کو واہب نے اپنا متبینی بنایا اور وہی اس کی ذات اور جائیداد کی تمام تر نگرانی کرتا ہے تب اصول کا اطلاق اس طرح کیا جائے گا کہ تبینت میں لینے والا باپ واقعی سرپرست کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے جو بھی کی دیکھ بھال کرتا ہے جیسا کہ ایک باپ کے اپنے نابالغ بھی کے حق میں ہبہ میں صورت ہوتی ہے۔^{۲۳}

زیر پرورش موہوب لہ کو قبضہ دہی کی لزومیت:

ایک شوہر اپنی بیوی کے حق میں ہبہ کرتا ہے یا اپنے کسی بیٹے کے حق میں ہبہ کرتا ہے جو ابھی بالغ ہوا ہے اور وہ اس کی زیر پرورش ہے تو اس کا ہبہ کرنا جائز ہوگا، جب کہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہو اور خواہ موہوب لہ نے شے سوہوبہ کا قبضہ نہ لیا ہو۔ اس قول سے این ابی لیلی یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب موہوب لہ واہب کی زیر پرورش ہو تو واہب کا شے سوہوبہ کا قبضہ کرنے میں اختیار اس اختیار کے مانند ہے جو نابالغوں کے ہبہ میں ہوتا ہے لیکن احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ احناف اس قول سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس مرد کے لیے ایک قسم کی ولایت ضروری ہے تاکہ وہ اس ولایت کے سبب شے سوہوبہ کا

(۲۴) بہ ایل ڈی، ۱۹۹۵ع سپریم کورٹ، صفحہ ۲۶۵

قبضہ موهوب لہ کے قبضے کے مانند کر سکے - اور (صورت یہ ہے کہ) بالغ ہو جانے کے بعد اس لڑکے پر اس مرد کی ولایت نہیں ہے اگرچہ وہ اس مرد کے زیر پروردش ہو - ظاہر ہے کہ غنی لوگ بعض مساکین کی پروردش کرتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں پس اگر کوئی غنی ان پر صدقہ کرے تو وہ صدقہ محض اعلان سے مکمل نہیں ہوتا ، تاآن کہ وہ غنی شے موهوبہ کو اس کے قبضے میں نہ دے دے۔^{۲۵}

باب کا بالغ زیر پروردش بیٹھے کے حق میں ہے :

ایک شخص نے اپنے بالغ بیٹھے کو ایک غلام ہبہ کیا اور وہ بالغ بیٹا اس مرد کی زیر پروردش ہے اور اس مرد نے اس غلام کو اپنے لڑکے کے حوالے نہیں کیا یا یہ کہ اس شخص نے اپنی زوجہ کے حق میں ہبہ کیا (جب کہ شے موهوبہ اپنی زوجہ کے حوالے نہ کی) تو ایسا ہبہ جائز نہ ہوگا مگر قاضی این ابی لیلی کے قول کے مطابق ایسا ہبہ جائز ہوگا - ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ بالغ لڑکا اس کے زیر پروردش ہونے کے سبب اس کے زیر اختیار ہے اس لیے اس شخص کا قبضہ اپنے اس بیٹھے کے قائم مقام کی حیثیت سے ہوگا جیسے کہ وہ اپنے نابالغ بیٹھے کے حق میں ہبہ کرتا - اس بارے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ نابالغ جب کسی اجنبی کی زیر پروردش ہو اور وہ اجنبی اس نابالغ کے حق میں ہبہ کرے یا کوئی دوسرا شخص ہبہ کرے اور شے موهوبہ کا قبضہ وہ شخص لے لے جو نابالغ کی پروردش کرتا ہے تو ہبہ کی تکمیل ہو جائے گی - ان دونوں کے درمیان ماسوائے اس کے کہ وہ اجنبی اس نابالغ کی پروردش کرتا ہے کوئی اور حیثیت موجود نہیں ہے - لیکن احتمال کہتے ہیں کہ باب کو اپنے بالغ بیٹھے پر حق ولایت حاصل نہیں اور اسی طرح اس کو ماسوائے حقوق نکاح کے اپنی زوجہ پر حق ولایت حاصل نہیں - ہبہ کا قبضہ حقوق نکاح میں نہیں ہے - اس لیے

(۲۵) البسط ، امام سرخسی ، مطبوعہ مصر ۱۳۴۴ھ ، جلد ۱۲ ، صفحہ ۵۱

وہ (شوہر) اور اجنبی اس معاملے میں برابر ہیں۔ نیز یہ کہ وہ شخص (باب) اپنے بالغ بیٹھے کے ساتھ بالاتفاق احسان کرنے والا ہے اور اس کی حیثیت ایک غنی کی ہے چنانچہ جب وہ (باب بھیشت غنی) بعض مسکینوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے (اس پرورش کرنے کے سبب) صدقے اور ہبہ کی تکمیل کے لیے خود اس کا قبضہ ان مساکین کے قبضے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اور اس کا قبضہ جائز نہیں، بخلاف باب کے جو اپنے نابالغ بیٹھے کے حق میں اس کا ولی ہوتا ہے اور اسی طرح احناف کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی بتیم کی پرورش کرتا ہے تو اس کا قبضہ بجاۓ بتیم کے قابل اعتبار ہوگا، جب کہ بتیم کا کوئی ولی نہ ہو جو اس کی طرف سے قبضہ لینے کا مستحق ہو۔ موهوب لہ (جو بالغ ہو) اپنے نفس کا خود ولی ہوتا ہے اس کو اس کی حاجت نہیں کہ جو شخص اس کی پرورش کرتا ہے وہ اس کی جانب سے (شمی موهوبہ کا) قبضہ لے، جیسا کہ نابالغ کی صورت میں ہے جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی زیر پرورش ہو اور اس کا باب یا دادا موجود ہو۔ پس ایسی صورت میں تکمیل ہبہ کے لیے ایسے شخص کا قبضہ جو اس نابالغ کی پرورش کرتا ہے جائز نہ ہوگا^{۲۶}

نابالغ کے مان کے زیر پرورش ہونے کی صورت میں مان کے قبضے کی نوعیت:

ایک باب نے کل اشیاء اپنے نابالغ بیٹھے کی حق میں ہبہ کیں اور اس ہبہ پر شہادت بھی فائم کی اور وہ اشیا معلوم (متین) ہیں تو ایسا ہبہ جائز ہوگا۔ باب نے (ابنے نابالغ بیٹھے کے حق میں) شمشی موهوبہ پر اعلان ہبہ کے ساتھ قبضہ کر لیا اور اس پر شہادت قائم کی تو اس کے واسطے شہادت شرط ہبہ نہیں ہے بلکہ ہبہ اعلان کے ساتھ (باب کی جانب سے ہونے کے سبب سے) مکمل ہو جاتا ہے۔ شہادت کا ذکر بطور احتیاط کیا تاکہ اس کی موت کے بعد دوسرے ورثاء کے انکار سے محفوظ رہا جا سکے

(۲۶) المبسوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۷ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۶۱

یا لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد خود اس باب کے انکار سے تحفظ ممکن ہو جب کہ دوسرے ورثا امن پر متفق ہوں ، کیونکہ ہبہ بغیر شہادت کے مکمل ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب کہ یہ لڑکا اپنی ماں کے زیر پرورش ہو تو اس کی ماں کو اس لڑکے پر ایک قسم کی ولایت حاصل ہوتی ہے - ظاہر ہے کہ وہ ماں اپنے نابالغ لڑکے کی ذات کا اور مال کا تحفظ کرتی ہے اور یہ امر ولایت میں سے ہبہ کا قبضہ لینے کے واسطے کافی ہوتا ہے ۔

اگر ایک یتیم اپنی ماں کے زیر پرورش ہو اور اس کی ماں اس کے لیے ایک غلام ہبہ کرے اور اس پر گواہ قائم کرے اور اس کا باب مس چکا ہو اور باب کا کوئی وصی بھی نابالغ لڑکے کے واسطے نہ ہو تو اس ماں کا ہبہ جائز ہوگا اور ماں کا قبضہ باب کے درجے کا ہوگا اگر وہ زندہ ہوتا ۔ کیونکہ قبضے کا مطلب احراء ہے ، جو حفاظت کے مانند ہے اور ماں کے واسطے یتیم کے مال کی حفاظت کی ولایت ہے پس وہ ماں شے موهوبہ کے قبضے کے معاملے میں باب کی طرح ہو گئی ۔^{۲۴}

یتیم لڑکے کے چجا کی زیر پرورش ہونے کی صورت میں ہبہ کی تکمیل :

اسی طرح ایک یتیم لڑکا جو اپنے چجا کی زیر پرورش ہو اور چجا اس کے بجائے شے موهوبہ کا قبضہ لے لے درآں حالے کہ اس یتیم کا بھائی یا ماں بھی ہو تو چجا کا اس کے بجائے قبضہ لینا اسی کا قبضہ سمجھا جائے گا ، کیونکہ چجا اس یتیم کے حفظ مال کی ولایت کے حکم میں بھائی کے مساوی ہے اور یہ قبضہ (یتیم) کے واسطے محض منفعت ہوگا ، چونکہ چجا کی یہ قرابت قریبہ بھائی کی قرابت قریبہ کی مانند ہے ۔ پھر چجا کی قربت کی تائید اس بات سے بھی ہو گئی کہ یتیم اس کی زیر پرورش ہے اس لیے چجا کے

(۲۴) البسطو ، امام سرخسی ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۴۰ھ ، جلد ۱۲ ، صفحہ ۶۱
البحرالرائق ، ابن نعیم ، مطبوعہ مصر ، جلد ۲ ، صفحہ ۸۸

قبضہ سے اس کی زیر پرورش ہبہ کی تکمیل ہو گئی۔^{۲۸}
 ایک اجنبی شخص ایک یتیم کو لے کر پرورش کرتا ہے اور وہ اس
 یتیم کا وصی نہیں ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری بھی نہیں
 اور نہ ہی کوئی دوسرا اس یتیم کا امن کے سواستہ وصی ہے تو یتیم کے
 ہبہ کا قبضہ اس اجنبی کے لئے لینا برتائی استحسان جائز ہو گا۔^{۲۹}

جب کہ باب زندہ اور موجود ہو تو نابالغ کی جانب سے اس کے بھائی
 یا دادا کا شے موهوبہ کا قبضہ لینا جائز نہ ہو گا۔^{۳۰}

ظاهریہ کے نزدیک چونکہ قبضہ شرط نہیں ہے اس لیے مذکورہ حالات
 میں ہبہ صحیح ہو گا خواہ لڑکا بالغ ہو یا نابالغ ہو یا اجنبی ہو۔^{۳۱}

۱۶۷- ہر عاقل و بالغ شخص متنابع احکام دفعہ ۱۷۲ مجموعہ هذا الہی
 جالداد مستقولہ و غیرمستقولہ کسی دوسرے شخص کو بذریعہ ہبہ منتقل کرنے
 کا مجاز ہے :

مگر لازم ہو گا کہ وہ شخص جس کے حق میں ہبہ کیا جائے وجود
 میں آچکا ہو :

مزید لازم ہو گا کہ ہبہ بحال مرض الموت یا دائننام کے حق کو متأثر
 کرنے یا فریب دہی کی نیت سے نہ ہو۔

تشریع

ہبہ کرنے کی اہلیت عقل اور بلوغ سے ثابت ہوئی ہے یعنی وابح
 (donor) کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، جب کہ موهوب لہ (donee)

(۲۸) المبسوط ، امام مرخی ، مطبوعہ مصر ۱۳۲۰ھ ، جلد ۱۲ ، صفحہ ۶۱

البعزالزالق ، ابن نجیم ، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ھ ، جلد ۲ ، صفحہ ۲۸۸

(۲۹) المبسوط ، امام مرخی ، مطبوعہ مصر ۱۳۲۰ھ ، جلد ۱۲ ، صفحہ ۶۲

البعزالزالق ، ابن نجیم ، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ھ ، جلد ۲ ، صفحہ ۲۸۸

(۳۰) المبسوط ، امام مرخی ، مطبوعہ مصر ۱۳۲۰ھ ، جلد ۱۲ ، صفحہ ۶۳

(۳۱) السنلی 'ابن حزم' ، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ھ ، جلد ۶ ، صفحہ ۱۴۲

کا عاقل یا بالغ ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ اگر موہوب لہ نابالغ (یا پاکل) ہو تو اس کے ولی کو قبضہ دینے سے ہبہ کی تکمیل ہو جائے گی۔^{۳۲} اگر نابالغ نے خود قبضہ کر لیا ہو تب بھی ہبہ جائز ہے بشرطیکہ عاقل ہو۔^{۳۳} اگر باپ نے اپنے نابالغ بھی کے نام ہبہ کیا تو محض ہبہ سے ملکیت ثابت ہو جائے گی کیوں کہ باپ اپنے نابالغ بھی کی طرف سے قابض ہے۔^{۳۴}

یہ امر لازمی ہے کہ موہوب لہ (donee) زندہ ہو۔ چنانچہ ایسے بھی کے نام ہبہ جو ابھی شکم مادر میں ہو ناجائز ہوگا۔ اسی طرح مرض الموت کی حالت میں یا قرض خواہوں کے حقوق کو متاثر کرنے کی غرض سے یا دوسروں کو فریب دینے کی غرض سے ہبہ کرنا اہلیت ہبہ رکھنے کے باوجود ناجائز ہوگا۔ البتہ مرض الموت کی حالت میں ہبہ کی صورت میں بعض صورتوں میں ہبہ بالوصیت کے احکام متعلق ہو سکتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں دفعات متعلق ہبہ مرض الموت و ہبہ بالوصیت)

ہبہ بغرض دھوکہ دہی :

واہب کا محض قرض دار ہونا اس امر کے ثبوت کے لئے کافی نہیں کہ اس نے ہبہ قرض خواہوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے کیا ہے۔ اس شخص کو جو ایک ہبہ نامے کو اس بناء پر چیلنج کرتا ہے کہ وہ ہبہ قرض خواہان کو دھوکہ دینے کی غرض سے کیا گیا ہے واہب کی بدنیتی ثابت کرنے کے لئے اس امر واقعہ کے علاوہ کہ واہب بوقت ہبہ متروض تھا مزید حقائق ثابت کرنا ہوں گے۔^{۳۵}

(۳۲) المختصر الفدواری ، مطبوعہ قرآن محل ، کراچی ، صفحہ ۱۲۹

البحر الرائق ، ابن نعیم ، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ ، جلد ۷ ، صفحہ ۲۸۸
کنز الدقائق ، مطبوعہ مجتبائی ، صفحہ ۲۵۳

(۳۳) هدایہ ، برهان الدین مرغینانی ، مطبوعہ قرآن محل ، کراچی ، جلد ۱۳ ، صفحہ ۲۸۲
البحر الرائق ، ابن نعیم ، مطبوعہ مصر ، جلد ۷ ، صفحہ ۲۸۸

(۳۴) هدایہ ، مطبوعہ قرآن محل ، کراچی ، جلد ۷ ، صفحہ ۲۸۷
المختصر الفدواری ، مطبوعہ قرآن محل ، کراچی ، صفحہ ۱۲۹

(۳۵) بن ابل ذی ، ۱۹۵۰ع ، پشاور ، صفحہ ۵

۱۶۸ - ہر ایسی شے کا ہے جائز ہو کا جس پر لفظ مال یا قیمتی جائداد کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

تشریح

ہر ایسی شے جس پر مال مقتوم (valuable property) اطلاق ہو سکتا ہو ہے کی جا سکتی ہے۔ ان اشیاء میں مادی اور غیر مادی دونوں اشیاء شامل ہیں۔ چنانچہ قابل نالش دعویٰ (choses in action) دستاویزات قابل بيع و شریٰ (negotiable instruments)، حق مالکانہ، حق زمینداری، جائداد زیر قرق، انفکاک (right of redemption) کا ہے جائز ہے۔ اسی طرح ایسی جائداد کا ہے بھی جائز ہے جس پر ہے کرنے والے کے مقابلے میں دوسرا شخص قبیضة مخالفانہ (adverse possession) رکھتا ہو۔ کسی ایسی جائداد غیر مقولہ کا ہے جو خریدار نیلام بد تعییل ڈگری (auction-purchaser in execution of decree)، نیلام کے وقت کرئے جائز ہے، گو اس وقت تک اس جائداد کی خریداری منظور نہ ہوئی ہو اور نہ ہے کرنے والے کو اس کا قبضہ ملا ہو، بشرطیکہ جس کے نام ہے کیا کیا ہے اسے ہے کرنے والے نے قبضہ کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ خود ہے نامی میں موهوب لہ کو قبضہ کر لینے کا اختیار دیا گیا ہو۔

ایسی شے کا ہے جو فی الحال معدوم ہو ناجائز ہے۔^{۳۶} چنانچہ واہب کا یہ کہنا ”کہ اس کے بھر جو پہل دین، ان کا ہے“ ہے کے وقت موجود نہ ہونے کے سبب جائز نہ ہو گا۔ اسی طرح واہب کا یہ کہنا ”کہ جو کچھ اس کی حاملہ کنیز کے بطن میں ہے یا جو اس کی بھر کے بطن میں ہے

(۳۶) البسطوت، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۳، جلد ۱، صفحہ ۱۱
بدائع الصنائع، امام کاسانی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۸، جلد ۷، صفحہ ۱۱۹
البحر الرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱، جلد ۷، صفحہ ۲۸۷

اس کا ہے ”ایسا ہے بھی باطل ہو گا۔“^{۲۷} یہ مسلک امام ابن حزم کا ہے۔^{۲۸}

۱۶۹- جو ہے حسب شریعت اسلام کیا جائے اس کا تحریری ہونا لازمی نہیں

ہے کا تحریری
ہونا ضروری ہے۔

تشریح

ہے زبانی اور تحریری دونوں طرح جائز ہے۔ اگر ایجاد و قبول اور قبضہ پایا جائے تو شرعاً ہے مکمل متصور ہو گا۔

زبانی ہے :

جسٹس وحید الدین اور جسٹس اے۔ آر خان نے بہ اجلاس متفقہ بقدمہ وزیر بیگم بنام نور جہاں (ب ایل ڈی ۱۹۶۱ع، کراچی صفحہ ۱۶۵) قرار دیا کہ جائداد غیر منقولہ کا زبانی ہے جائز ہے بشرطیکہ اس کا قبضہ بھی موہوب لہ کو دے دیا گیا ہو۔

مشاع کا ہے
۱۷۰- (۱) ایسی جائداد مشاع کا ہے جائز ہے جو ناقابل تقسیم ہو لیکن اگر مشاع قابل تقسیم ہو تو ہے فاسد ہو گا۔

(۲) جائداد مشاع کا ہے، اگرچہ وہ قابل تقسیم ہو، بلا تقسیم ہے سے مفصلہ ذیل صورتوں میں جائز متصور ہو گا :

(الف) جب کہ ہے ایک وارث دوسروے وارث کے حق میں کرے۔

(ب) جب کہ ہے زمینداری یا تعلقداری کے ایک حصے کا ہو۔

(ج) جب کہ ہے ایسی جائداد قابل وراثت کا ہو جو کسی بڑے تجارتی شہر میں واقع ہو۔

تشریح

مشاع کے لفظی معنی (غیر منقسمہ) کے ہیں۔ منقسم حصہ ”مشاع“

(۲۷) السبوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۶ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۲۷
بدائع الصنائع، امام کاسانی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۳ھ، جلد ۷، صفحہ ۱۱۹

(۲۸) البعلی، ابن حزم، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ھ، جلد ۷، صفحہ ۱۳۲
البحر الرائق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر ۱۲۱۱ھ، جلد ۷، صفحہ ۲۸۶

کہلاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں مشاع اس حصہ مشترک کو کہتے ہیں جو کسی شے میں ہو۔

مشاع کا اصول صرف ہبہ سے متصل ہے۔ اس کا تعلق ان انتقالات سے نہیں ہے جو بدل کے ساتھ کثیر جاتے ہیں۔ ان انتقالات میں ہبہ بالعوض کی صورت بھی شامل ہے۔

مشترک شے اگر قابل تقسیم ہے تو اس کا ہبہ جائز نہیں لیکن اگر قابل تقسیم نہیں ہے تو جائز ہے۔^{۳۹} لیکن صحیح یہ ہے کہ مشاع قابل تقسیم کا ہبہ فاسد ہوگا اصلاً ناجائز یا باطل نہیں ہے۔ ”جو شے قابل تقسیم ہو اس کا ہبہ فاسد ہو گا“ کے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ ہبہ جائز ہوگا مگر اس شے میں موهوب لہ کی ملکیت ثابت نہیں ہو گی۔ چنانچہ مشاع کے ہبہ کرنے کی صورت میں ملکیت جب ہی ثابت ہو گی جب کہ تقسیم سے وہ حصہ جس کا ہبہ کیا گیا ہو علیحدہ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک مکان الف و ب کی مشترک ملکیت ہے جو قابل تقسیم ہے الف نے ج کے حق میں اس مکان کا اپنا نصف حصہ ہبہ کر دیا اگرچہ ہبہ منعقد ہو جائے گا لیکن ج کی ملکیت اس وقت تک ثابت نہ ہوگی تاوقیکہ الف اپنا حصہ علیحدہ کر کے ج کے قبضے میں نہ دے دے۔

لیکن اگر وہ شے قابل تقسیم نہ ہو مثلاً گھوڑا تو اس کا نصف ہبہ کرنا جائز ہوگا، کیونکہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ قابل تقسیم سے مراد یہ ہے کہ تقسیم کے بعد موهوب لہ اس حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھانا سکے جس طرح کہ تقسیم سے چلے نمکن تھا۔ چنانچہ اگر فائدہ اٹھانا نمکن نہ ہو تو

(۳۹) قدوری، مطبوعہ قرآن محل کراچی، صفحہ ۱۲۹

فتح القدير مع الهدایہ، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۹ع جلد ۲، صفحہ ۱۲۱

کنز الدقائق، تسفی مطبوعہ مجتبائی دہلی، ۱۳۳۸ھ، صفحہ ۲۵۳

فتح القدير مع الهدایہ، مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ھ، جلد ۲، صفحہ ۱۲۲

هدایہ، برهان الدین مرغینانی، مطبوعہ قرآن محل کراچی، جلد ۳، صفحہ ۲۸۵

وہ شے ناقابل تقسیم قرار پائے گی مثلاً کھوڑا، زینہ، چک وغیرہ۔

لہذا اگر مشاعر قابل تقسیم ہے تو ہبہ فی نفسہ ناجائز نہ ہوگا بلکہ فاسد کھلانے کا جوشے موهوبہ کی تقسیم کے بعد صحیح ہو جائے گا۔^{۲۰} شیعی فقہ کی رو سے ایسی مشاعر جاندار کا ہبہ جائز ہے جو قابل تقسیم ہو۔^{۲۱} لیکن شرائع الاسلام میں مطلقاً مشاعر کا ہبہ جائز لکھا ہے۔

اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنی بھیڑ (غم) بر جو اون ہو ہبہ کرے تو ایسا ہبہ جائز نہ ہو کا یا اس کے تھنوں (مروع) میں جو دودھ ہو اس کو ہبہ کرے تو ایسا ہبہ جائز نہ ہو گا، کیونکہ اون اور دودھ حیوان کے ساتھ ہمیشہ متصل ہیں اور ان کی نوعیت معمود بالذات نہیں ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اون اور دودھ ایک حصہ شائع ہے جو علیحدہ کر کے ہبہ کیا جا سکتا ہے۔^{۲۲}

وارث کے حق میں مشاعر کا ہبہ :

”مشاع“ کی اصطلاح لفظ ”شیوع“ سے نکلی ہے جس کے معنی پراگندگی کے ہیں۔ اگر جاندار کا غیر منقسم حصہ کوئی شریک جاندار کسی اجنبی کے حق میں ہبہ کر دے تو جاندار کے استفادے میں پراگندگی اور پریشانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر ایک شریک جاندار دوسرے شریک جاندار کے نام ہبہ کر دے تو ایسی کوئی پراگندگی یا پریشانی نہیں پیدا ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایسی جاندار مشاع کے وارثوں میں سے جو قابل تقسیم ہو کسی ایک وارث کا اپنا حصہ کسی اجنبی کو ہبہ کر دینا ناجائز ہے

(۲۰) هدایہ، مطبوعہ قرآن محل، کراچی، صفحات ۲۸۸-۲۸۹۔

(۲۱) ڈائیکٹ آف محضن لاء، بیلی، جلد ۲، صفحہ ۲۰۳۔

شرائع الاسلام، نجم الدین ابی جعفر العلی، مطبوعہ بیروت، جلد اول، صفحہ ۲۵۳۔

(۲۲) المبسوط، امام رضا، مطبوعہ مصر ۱۴۲۸ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۱۶۱۔

هدایہ، برهان الدین مرغینانی، مطبوعہ قرآن محل کراچی، جلد ۳، صفحہ ۲۸۷۔

جمع الانہر داماد، آفتندی، مطبوعہ مصر ۱۴۲۸ھ، جلد ۲، صفحہ ۳۵۶۔

مگر جائداد کے شریک کو ہبہ کر دینا جائز ہے ۔

ایسی شے کے ایک جزو کا ہبہ جو قابل تقسیم ہو ناجائز ہے جب تک کہ وہ جزو واحب کی جائداد سے تقسیم ہو کر علیحدہ نہ کر لیا جائے، لیکن ایسی شے کے ایک جزو کا ہبہ جائز ہے جو ناقابل تقسیم ہو۔ امن کا سبب یہ ہے کہ شے کے ناقابل تقسیم ہونے کی وجہ سے کامل قبضہ ناممکن ہے اور اس لئے غیر کامل قبضہ بھی کاف مان لیا جاتا ہے۔ ایسی شے کے متعلق یہی ہو سکتا ہے ۔^{۳۳}

مال مشاع (وہ مال مشترک جس کے اجزا ممتاز نہ ہوں) کا ہبہ جائز ہے اور صورت ہبہ میں مال مشاع پر اسی طرح قبضہ متحقق ہو گا جس طرح کہ بیع میں متحقق ہوتا ہے ۔ اگر کوئی شخص کچھ مال دو شخصوں کو ہبہ کرے اور وہ دونوں قبول کرنے کے بعد مال موبہوب پر قبضہ کر لیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک شخص اسی قدر مال کا مالک ہو گا جس قدر کہ اس کو ہبہ کیا گیا ہے ۔ چنانچہ اگر ان دونوں میں سے ایک شخص قبول کرے اور قابض ہو جائے اور دوسرا انکار کرے تو فقط قابض کے لئے ہبہ صحیح ہو گا ۔^{۳۴}

ظاہریہ فرقہ کا مسلک :

ظاہریہ فرقہ کے نزدیک مشاع کا ہبہ جائز و صحیح ہے خواہ شے قابل تقسیم ہو یا نہ ہو، شریک کے لئے کیا گیا ہو یا غیر شریک کے لئے، غنی کے حق میں کیا گیا ہو یا قبیر کے، عثمان البٹی، معمر، مالک، شانعی، احمد، اسحاق، ابوثور اور ابوسلیمان تمام اسی کے قائل ہیں ۔ یہی

(۳۳) هدایہ، مطبوعہ قرآن محل، کراچی، جلد ۲ صفحہ ۲۸۶

شرح عنایہ بر حاشیہ فتح القدير مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ صفحہ ۱۲۲

مجموع الانہر، داماد آفندی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۸، جلد ۲، صفحہ ۳۵۶

(۳۴) شرائع الاسلام، نجم الدین ابن جعفر العقل، مطبوعہ بیروت القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

قول ابراهیم شخصی کا ہے۔^{۲۵}

عدالتی نقطہ نظر :

مشاع کا اصول معاشرے کی ترقی یافتہ حالت کے لیے بالکل ناقابل عمل (ناقابل اختیار) ہے اور اس کا اطلاق انسانی محدود صورت میں کیا جانا چاہئے۔ مشاع کا قاعدہ ایک شخص کے انتقال جائیداد کی آزادی کے حق پر رکاوٹ کی نوعیت رکھتا ہے اور اس کا اطلاق صرف ان جائیدادوں تک محدود ہونا چاہئے جن کی نسبت ماضی میں اس اصول کا حقیقی معنی میں اطلاق ہوتا رہا ہے۔ عدالتوں کو مشاع کے قاعدے کے اطلاق کے لیے ان جائیدادوں کی نسبت جو تجارتی شہروں میں ہوں انکار کر دینا چاہئے۔^{۲۶}

زمینداری کے غیر منقسم حصے کا ہے :

جسٹس وحید الدین احمد نے بمقدمہ بہادر بنام جان محمد مندرجہ پی ایل ڈی، ۱۹۶۰ع کراچی، صفحہ ۵۷۵ قرار دیا کہ مشاع کا قاعدہ اس صورت میں قابل اطلاق نہ ہو گا جب کہ زمینداری کے حصے کو ہبہ کیا گیا ہو۔

جسٹس چودھری نے بمقدمہ جبار پرمانک بنام نور جہان یوہ مندرجہ ہی ایل ڈی، ۱۹۶۰ع ڈھاکہ، صفحہ ۹ قرار دیا کہ اسلامی قانون میں غیر منقسم جائیداد کا ہبہ، جائز ہو یا ناجائز جب کہ ایسے ہبہ میں قبضہ حقیقت میں دیا اور لیا ہو، جائیداد کو موثر طور پر منتقل کر دیتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے حق میں مشترک ہبہ جو غیر منقسم، غیر منقولہ جائیداد کے ایک حصے پر مشتمل ہو اور جو قابل تقسیم ہو بنفسہ باطل نہیں ہے اور سوہوپ لہ اشخاص کے مابعد تصفیہ کے تحت جائز کیا جا سکتا ہے۔

(۲۵) العلی ان حزم مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ھ، جلد ۶، صفحہ ۱۸۲

(۲۶) جسٹس کاسٹن ثانی اور ظہیر الحسین لاری، بمقدمہ بیگن بنام کاز بانو، ہی ایل ڈی، ۱۹۵۲ع، کراچی صفحہ ۸۸۳

عدالت عالیہ مغربی پاکستان نے بمقدمہ محمد ابراهیم بنام محمد شاہ میں قرار دیا کہ حصہ غیر منقسمہ کا ہبہ ایسی جائزہ داد میں جو قابل تقسیم ہو محض فاسد ہے باطل ہے۔ اگرچہ مشاع کا ہبہ اپنے وجود میں ناجائز ہے لیکن قبضے کی حوالگی سے صحیح کیا جا سکتا ہے۔^{۳۷}

سپریم کورٹ پاکستان نے بمقدمہ شمشاد علی شاہ بنام سید حسن شاہ قرار دیا کہ مشاع کے ہبہ میں قبضہ دینا بیع کی طرح ضروری ہے۔^{۳۸}

جب کہ ایک شخص دوسرے شخص کے حق میں ایک غیر منقسم مکان میں سے ایک مقرر حصہ ہبہ کرے اور اس کو کل مکان کا قبضہ بطور مشاع کے دے دے تو ایسا ہبہ جائز نہ ہوگا یعنی موهوب لہ کے واسطے تقسیم سے پہلے قبضے کے ساتھ احتفاف کے نزدیک ملک ثابت نہ ہوگی البتہ امام شافعی رحمة الله کے نزدیک ملک ثابت ہوگی اور ہبہ مکمل ہو جائے گا۔^{۳۹}

اگر دو شریکوں میں سے ایک شریک نے اپنا غیر منقسم حصہ جو قابل تقسیم نہ ہو دوسرے شریک کے حق میں ہبہ کر دیا تو ایسا ہبہ جائز ہوگا۔^{۴۰}

اگر ایک شخص نے اپنا ایک مکان دو شخصوں کے حق میں ہبہ کیا اور ان کو (مشترک) قبضہ دے دیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایسا ہبہ جائز نہ ہوگا مگر صاحبین کے نزدیک جائز ہوگا۔^{۴۱}

(۳۷) بی ایل ڈی، ۱۹۶۳ع بغداد الجدید، صفحہ ۱

(۳۸) بی ایل ڈی، ۱۹۶۳ع سپریم کورٹ، صفحہ ۱۰۳

(۳۹) المبسوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۹۳۲ء، جلد ۱۲، صفحہ ۶۳
جمع الانہر، داماد آفندی، مطبوعہ مصر ۱۹۳۲ء، جلد ۲، صفحہ ۳۵۶

(۴۰) المبسوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۹۳۲ء، جلد ۱۲، صفحہ ۶۶
البحرالرائق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر ۱۹۳۱ء، جلد ۷، صفحہ ۲۸۲

(۴۱) المبسوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۹۳۲ء، جلد ۱۲، صفحہ ۶۷
هدایہ، برہان الدین مرغینانی، قرآن محل کراچی، جلد ۳، صفحہ ۲۸۸

جمع الانہر، داماد آفندی، مطبوعہ مصر ۱۹۳۲ء، جلد ۷، صفحہ ۲۸۵
البحرالرائق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر ۱۹۳۱ء، جلد ۷، صفحہ ۲۹۰

اگر ایک شخص ایک مکان کو دو آدمیوں کو امن طرح ہے کرے کہ ایک کو دو تھائی اور دوسرا کو ایک تھائی دے اور دونوں کو (مشترک) قبضہ دے دے تو ایسا ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہ ہرگا، لیکن امام محمد کے نزدیک ایسا ہے جائز ہے۔^{۵۲}

اگر ایک مکان بیسی دو شریک ہوں ایک شریک اپنا حصہ ایک اجنبی کو ہے کرے تو ایسا ہے جائز نہ ہوگا۔^{۵۳}

۱۷۱ - قابل تقسیم جالداد کا دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے نام بغیر تقسیم ہے سوائے ان صورتوں کے جن کا ذکر دفعہ ۶۹، (۲) میں کیا گیا ہے فاسد ہوگا۔ اگر ہر ایک موہوب لہ جالداد کے اس حصے پر جو اسے دیا کیا ہے قابض ہو جائے تو وہ ہے صحیح ہوگا۔

دو یا دو سے
زیادہ اشخاص
کے نام ہے

تشریح

اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے نام جانداد قابل تقسیم کا ہے بغیر تقسیم کے جائز ہوگا یا ناجائز، مقدمین کے نقطہ نظر کے مطابق ایسا ہے ناجائز ہے کیونکہ بوقت ہے شے موهوبہ قابل تقسیم ہونے کے باوجود تقسیم نہیں کی گئی اس لیے ہر ایک موہوبہ لہ کا حصہ متعین نہ کئی جانے کے سبب ہے ناجائز ہوگا، کیونکہ جانداد کی تقسیم ہے کے ساتھ ہی ہونی چاہئے۔

متاخرین کے نقطہ نظر کے مطابق ایسا ہمہ باطل نہ ہوگا بلکہ جن افراد کے نام ہے کیا گیا ہے ان میں آہس کی تقسیم کے بعد جائز ہو جائے گا۔^{۵۴}
دوسرًا نقطہ نظر قرین صواب نظر آتا ہے۔

(۵۲) المبسوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۰ھ، جلد ۱، صفحہ ۶۸
هدایہ، برهان الدین مرغینی، مطبوعہ قرآن محل کراچی، جلد ۳، صفحہ ۲۸۸

(۵۳) المبسوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۰ھ، جلد ۱، صفحہ ۶۹

الاختیار، عبد اللہ بن محمد، مطبوعہ مصر، ۱۹۵۱، جلد ۳، صفحہ ۵

(۵۴) هدایہ، برهان الدین مرغینی، مطبوعہ قرآن محل کراچی، جلد ۳، صفحہ ۲۸۸

شیعہ قبھا کے نزدیک دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے حق میں قابل تقسیم جائداد کا ہبہ من ابتدا جائز ہے خواہ ہبہ کے بعد موہوب لہ آپس میں اس کی تقسیم کریں یا نہ کریں ۔^{۵۵}

عدالتی فیصلے :

جسشن کیانی اور جسشن حبیب اللہ خان نے بمقامہ اورنگ زیب بنام داؤد خان مندرجہ ہی ایل ڈی، ۱۹۵۷ء پشاور صفحہ ۸۵ قرار دیا کہ مشترک ہبہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے حق میں جائز ہے ۔ انہوں نے لکھا "یہ وقت ہے کہ اس اصول پر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بردے الہا دیے جائیں جو اس معاملے میں ابو جنیفہ کی علمی لیاقت (اسکالر شپ) کو غیر ترقی یافتہ کہلانے کا باعث ہوا ہے ۔ اس اصول کا اطلاق خیرات اور رفاهی انتقالات کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث ہوا ہے اور ہم کوئی عقل، منطق یا افادت اس میں نہیں دیکھتے کہ ایک ہبہ کو بے کار قرار دیا جائے جب کہ دو مشترک موہوب لہ آپس میں اس پر متفق ہو جائیں خواہ جائداد کی تقسیم پر یا اس سے مشترک طور پر فائدہ الٹھانے پر ۔ بہت سے لوگ اس بے کار قاعدے سے ناواقف ہوں گے اور بھائیوں یا بھنوں کے حق میں مشترک ہبہ میں کوئی نقص نہ دیکھیں گے ۔ اسی بناء پر غالباً برطانوی ہند میں جج صاحبان یہ قرار دیتے ہو آمادہ رہے کہ ایک مشترک ہبہ جائز ہے گو موہوب لہ کے حصے تقسیم شدہ نہ ہوں یا ان کی صراحت نہ کی گئی ہو ۔

ہبہ تقاضی ۱۷۲ - (۱) واحب اس کا مجاز نہ ہوگا کہ اپنی کل یا تھانی سے زالد جائداد و املاک بحالت صحت کسی غیر وارث یا اپنی کسی مخصوص اولاد کے حق میں دوسری اولاد کو ضرر پہنچانے کی لیت ہے ہبہ کرے والا کہ اس کا تفعیلی عمل مصالح شرمی پر مبنی ہو ۔

(۵۵) شرائع الاسلام، نجم الدین ابن جعفر العقلی، مطبوعہ بیروت، جلد ۲، صفحہ ۲۵۳

(۲) ہبہ تفضیلی کسی مصاحت شرعی پر مبنی نہ ہونے کی صورت میں قابل ابطال (voidable) ہوگا اور اولاد محروم بمتابعت احکام مندرجہ دفعہ ۹۷، اُس ہبہ کو بذریعہ عدالت باطل قرار دلانے جانے کی مجاز ہوگی۔

(۳) عدالت اس اطمینان کے بعد کہ واہب کے تفضیل عمل کے لیے کوئی شرعی مصلحت موجود نہ تھی واہب کو بمتابعت احکام مندرجہ دفعہ ۱۰۹ اُس ہبہ سے رجوع کا حکم دے گی۔

(۴) واہب کے فوت ہو جانے کی صورت میں شے موهوبہ بمتابعت احکام مندرجہ دفعہ ۹۷، متوفی کے ترکہ میں شار ہوگی اور بوجب قانون وراثت، عمل درآمد کیا جائے گا۔

(۵) دفعہ هذا سے ہبہ بحال مرض الموت یا ہبہ بالوصیت کے شرعی احکام متأثر نہ ہوں گے۔

تشریح

ہبہ تفضیلی ان ہبہ کو کہتے ہیں کہ واہب (ہبہ کرنے والا) ایک یا ایک سے زائد موهوب لمب کے حق میں اپنی جائیداد و املاک بایں طور ہبہ کرے کہ ایک موهوب لم کے مقابلہ میں دوسرے ورثاء کو یا تو بالکل معروف بکر دے یا ایک کو دوسرے پر اتنی فضیلت دے کہ اُس ایک موهوب لم اور دوسرے ورثاء کے درمیان شے موهوبہ کے ہبہ کی بنا پر عادلانہ تناسب باق نہ رہے۔

قرآنی ہدایت :

ہبہ تفضیلی کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں قرآن پاک میں ظاهر نص موجود نہیں لیکن ایک مسلمان کے اپنی ملک میں تصرف کرنے کے سلسلے میں جو ہدایات ملتی ہیں آن سے بطريق اقتضاء یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کو ان کی الفرادی اور اجتماعی زندگی میں مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں کچھ ہدایات دیتا ہے، جن کی تفسیر احادیث رسول میں

ملتی ہے مثلاً :

- (۱) کلواوشربو اولاً تسرفواء^{۵۷} (کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو)۔
- (۲) وأت ذالقُرْبَى حَقَهُ وَالْمُسْكِنِيْنَ وَابنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا^{۵۸} (اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں اور مسافروں کو (ان کا حق دو) اور فضول خرچی نہ کرو)۔
- (۳) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانُوا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا^{۵۹}۔ (اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو اسraf نہیں کرتے اور (خرچ کرنے میں) کمی نہیں کرتے اور اس میں (خرچ کے معاملے میں) میانہ روی اختیار کرتے ہیں یعنی خرچ میں عدل سے کاملیتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی)۔
- (۴) يَسْلُونَكُمَاذَا يَنْفَعُونَ قُلِ الْعَفْوُ^{۶۰} (اے محمد! لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں ، کہمہ دیجئے ، جو بچ رہے)
- (۵) وَمَارِزُقَهُمْ يَنْفَعُونَ^{۶۱} (اور جو ہم نے ان کو بخشنا ہے (اس میں سے خرچ کرتے ہیں)۔
- (۶) وَأَقِ الْبَالَ عَلَى جَبَهِ ذُوِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ^{۶۲} (اور دیا مال اللہ کی محبت میں ذوی القربی، یتامی، مساکین، مسافر، سائلین اور غلامی سے چھٹکارا چاہئے والوں کو)

ان آیات کے مطابعہ سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک مال کے صحیح طور پر خرچ کرنے پر زور دیتا ہے ، خواہ وہ خود اپنی ذات

(۵۷) سورہ اعراف ، آیت ۲۶

(۵۸) سورہ اعراف ، آیت ۲۱

(۵۹) سورہ فرقان ، آیت ۶۲

(۶۰) سورہ بقرہ ، آیت ۶۱

(۶۱) سورہ بقرہ ، آیت ۱۲۲

(۶۲) سورہ بقرہ ، آیت ۲

بہ کیوں نہ خرج کیا جائے۔ اسی طرح حقوق (مالی و غیر مالی) کی ادائیگی بہ سوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں مال کو دوسروں بہ خرج کرنے کی تلقین کرتا ہے وہاں ذوی القربی کو اولیت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مالک کو اپنے اوہر بھی اسراف سے منع کرتا ہے تو دوسروں بہ اسراف (حد سے گزر جانے کو) کیونکر پسند کر سکتا ہے۔

قرآن پاک کے اس منشاء و مقصد کی روشنی میں جب ہبہ کے مسئلہ کا جائزہ لیا جائے تو اس نتیجہ پر باسانی پہنچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ذوی القربی کے حق میں عطیہ کو پسند فرماتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ خود عادل ہے اس لیے عدل کرنے والوں کو بنظر تعین دیکھتا ہے۔ اس کیلئے کوئی مد نظر رکھتے ہوئے جب ہبہ تفضیل کے مسئلہ پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آجائی ہے کہ ایک باب یا ماں کو اپنی اولاد کے درمیان ہبہ کے معاملہ میں (منجملہ دیگر معاملات کے) عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو احکام خداوندی کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور عدل نہ کرنے والا ظالموں کے زمرہ میں شامل ہو کر ثواب سے محروم اور عذاب کا مستحق ہو گا۔

احادیث رسول و آثار صحابہ و تابعین :

تفضیل ہبہ کے سلسلہ میں جن روایات سے موافق یا مخالف استدلال کیا گیا ہے حسب ذیل ہیں:

- (۱) عاصم کہتے ہیں کہمیں نے نعیان بن بشیر کو منبر پر فرماتے تھے کہ میرے والد (بشیر رض) نے مجھے عطیہ دید۔ پس عمرہ بنت رواحہ نے آنے کے کہا کہ آس وقت تک میں اس پر راضی نہ ہوں گی جب تک تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ کرا دو گے۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے لٹکے کو، جو عمرہ بنت

رواحہ سے پیدا ہوا ہے، عطیہ کیا ہے، اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں
با رسول اللہ اس ہبہ (عطیہ) پر آپ کی گواہی کرا دوں۔ حضور نے دریافت
فرمایا کیا تم نے اپنی باقی تمام اولاد کو اسی طرح عطیہ (ہبہ) کیا ہے؟
بشير رضا نے عرض کیا نہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا: ”خدا سے ڈرو اور اپنی
اولاد کے درمیان عدل اختیار کرو۔“ نعمان رضا نے کہا لہذا انہوں نے رجوع
کر کے اپنا عطیہ واپس لے لیا۔ ۶۳۔

(۲) حضرت سعد ابن وقار سے مروی ہے کہ میں مکہ میں بیمار تھا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف فرمائے۔ سعد
اس امر کو پسند نہ فرماتے تھے کہ وہ آس سرزین میں انتقال کریں جہاں
سے وہ ہجرت کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابن عفرا پر رحم
فرماتے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں
ابنی کل مال کی وصیت کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا
نصف مال کی؟ فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا ایک تھائی کی، فرمایا ایک
تھائی کی۔ مگر ایک تھائی بھی بہت ہے۔ تم ابنی ورثاء کو مالدار چھوڑو،
یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو افلس میں مبتلا کر کے دوسرا لے لوگوں کا
دست نکر بنا دو اور تم جب بھی جو کچھ خرچ کرو گے وہ صدقہ ہو گا۔
یہاں تک کہ وہ لئے بھی جو تم ابنی زوجہ کے منہ میں دو گے۔ ممکن ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طویل عمر دے اور بہت سے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں

(۳) ”عن عاص قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنها وهو على المنبر يقول اعطاني
ابي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لارضى حتى تشهد رسول الله صلی عليه وسلم
فأقى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال أني أعطيت ابني من عمورة بنت رواحة
فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله صلعم قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال
لا قال فاقتسوا الله واعدولوا بين اولادكم قال فرجع فرد عطية“ (بخاري
برحاشیہ فتح الباری ، مطبوعہ مصر ۱۳۲۸ھ ، کتاب السیہ باب الاشہاد ،
جلد ۵ ، صفحہ ۱۳۸)

اور بہت سے نقصان - آس وقت حضرت سعد کی ایک ہی لڑکی تھی۔^{۶۳}

(۳) حضرت جابر سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے غلام مدبر کر دیا (کہ میرے منے کے بعد تو آزاد ہے) اس غلام کے علاوہ اس شخص کا اور کوئی مال نہ تھا۔ پس یہ اطلاع رسول ائمہ صلیهم کو پہنچی، آپ نے فرمایا یہ غلام ہم سے کون خریدتا ہے۔ نعیم ابن النعام (سلم) کی روایت کے مطابق نعیم ابن عبدة نے وہ غلام آئھ سو درهم میں خرید لیا اور قیمت لے کر انحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے وہ رقم اُس شخص (مالک) کو دیتے ہوئے فرمایا اسکی ابتدا اپنی ذات سے کرو اس پر صدقہ کرو۔ اگر اُس سے کچھ باق رہے تو پھر وہ تمہارے اہل و عیال کا حق ہے اگر اس کے بعد باق رہے تو دوسرے اقربا کا حق ہے اس کے بعد کچھ باق رہے تو پھر آگے داہتی بائیں صرف کرتے رہو۔^{۶۴}

(۴) ایوب سختیانی نے حضرت ابن سیرین سے روایت کیا ہے کہ

(۶۳) "عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعذني وأنا بمحنة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر عنها قال برحم الله ابن عمراء قلت يا رسول الله اوصي بمالى كله قال لاقات فالشطر قال لاقات الثالث قال الثالث والثالث كثير انك ان تدع ورثتك اغتياب خير من ان تدعهم عالة يتکفون الناس في ايديهم و انك منها انفقت من تهـ فانها صدقة حتى اللئمة ترفعها الى في امرأتك وعسى الله ان يرتفع فيتها بك ناس ويضر بك آخرؤن ولم يكن له يومئذ الا ابنته" (عمدة القاري شرح صحیح البخاری، امام عینی، کتاب الوصیت جلد ۷، صفحہ ۱۴۸)

(۶۴) "عن جابر رضي الله عنه ان رجالاً من انصار دبر مملوكاً ولم يكن له مال غيره بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النعام بيان مائة درهم متفق عليه في روایة لمسلم فاشتراه نعيم ابن عبدة المدوي بيان مائة درهم فجاء بهالي رسول الله صلیم قد فتحها إليه ثم قال أبدأ بنسك فتصدق عليهم فان فضل شيء" فلا هلك فان فضل عن اهلك فلذى قرباتك فان فضل عن ذى قرباتك شيء فهكذا فيقول بين يديك وعن يمينك و شمالك" (مشکوہ، باب الاعتق، مطبوعہ کارخانہ تبارات کتب نور محمد، جلد ۷، صفحہ ۹۹)

حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنا مال اپنی (موجود) اولاد میں تقسیم کر دیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے یہاں ایک بچہ اور پیدا ہوا۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر کی خدمت میں آگر عرض کرنے لگئے کہ آج شب کو حضرت سعد کے نومولود لڑکے کے تصور سے مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ ان کا تمام مال تقسیم ہو چکا اور اس بچے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا والہ! میری بھی ایسی ہی حالت رہی۔ لہذا آپ اور میں دونوں اس بچے کے بھائی قیس بن سعد کے پاس چلیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لی گئی ان سے اس سلسلہ میں گفتگو کی۔ حضرت قیس نے عرض کیا۔ حضرت سعد جو کچھ کر گئے ہیں اُن کے رد کرنے کی توجیہ طاقت نہیں البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ حضرات کو گواہ بناؤ کر اپنا ذاتی حصہ اس بچے کو دے دوں اور میں نے یہ حصہ اس کو دیدیا۔^{۶۶}

(۵) عبدالرزاق نے اپنی سند سے حضرت قاسم ابن محمد سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا ”میری بھی! میں نے تم کو خیر کے مقام پر مغلستان ہبہ کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس ہبہ میں میں نے تم کو اپنی دیکر اولاد پر فضیلت دی ہے اور تم نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا ہے لہذا تم اس کو دیکر اولاد کی طرف لوٹا دو، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ والد بزرگوار! اگر خیر بھلوں کے ساتھ سونا بن جاتا تب بھی میں

(۶) ”عن ابواب السختیانی عن ابن سیرین ان سعد بن عبادہ قسم مالہ بین بنیہ فی حیاته فولد له بعد ماتمات، فلئی عمر ابی ابکر فقال له: ما ثامت اللیلة من اجل این سعد ، هذ المولود لم یترك له شیء ، فقال ابوبکر : وانا والله ، فانطلق بنا لی قیس بن سعد نکلمہ فی اخیه ، فأتیناه فكلمته ، فقال قیس : اماشی امضاء سعد فلا ارده ابداً ، ولكن اشهد کما ان نصیبی له“ (المحلی) ، این حزم مطبوعہ مصر

ام کو واپس کر دیتی - ۶۴

(۶) محمد بن احمد بن الجهم کی سند سے حضرت معاویہ بن حیدہ سے مروی ہے کہ ان کے والد ابو حیدہ کے ملائقہ پیش نایاب نہ موجود تھے اور ابو حیدہ خاصے مالدار شخص تھے۔ انہوں نے اپنا تمام مال ان میں سے کسی ایک لڑکے کو دے دیا۔ چنانچہ ان کا ایک لڑکا جس کا نام معاویہ تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت عثمان رضی نے ان کے والد کو اختیار دیا کہ یا آپ اپنا مال اپنی ذات کے لیے واپس لے لیں یا تمام اولاد کے درمیان عادلانہ طریقے پر تقسیم کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مال واپس لے لیا اور انتقال کے بعد اس کو متروکہ چھوڑا جب کہ معاویہ کے بھائی بالغ ہو چکے تھے۔^{۶۵}

(۷) اسی مندرجہ بالا سند سے مروی ہے کہ حضرت مجاهد نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے کسی ایک لڑکے کو ہبہ کیا اور دوسروں کو چھوڑ دیا یہ کل مال واهب کے مرنے کے بعد میراث میں شامل کر دیا جائے گا۔^{۶۶}

(۸) عبدالرزاق کی سند سے حضرت عروہ بن زیبر سے مروی ہے، فرمایا جس طرح ایک میت کی وصیت حد سے متجاوز ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا۔

(۶۷) ومن طریق عبدالرزاق عن ابن حیرج الخریج ابن ابی ملیکة ان القاسم بن محمد بن ابی ابکر الصدیق قال لعائشة ام المؤمنین: یا بنتی ای خلتك تخللا من خیر و ای اخاف ان اکون آثرتك على ولدی و ایک لم تکون اخترته فردیه على ولدی، فقلال یا ابته لو کانت لی خیر بیجادها ذمباً لرددتها۔ (المحلی، ابن حزم، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲، جلد ۶، صفحہ ۱۱۷)

(۶۸) ناسا عیل بن ابراهیم۔ ہوا بن علیۃ۔ عن هزی بن حکیم عن ایہ حکیم بن معاویہ عن ایہ معاویۃ بن حیدہ کان له بنوں لعلات اصغر ولدہ و کان له مال کثیر فجعلہ لبئی علة واحدة، فخرج ابته معاویۃ حتی قدم علی عثمان بن عفان فاخیرہ بذلك فخیر عثمان الشیعیین ان برداله مالہ و بین بوزعہ بینہم، قارتمالہ، فیلات ترکہ الا کابر لاستوتھم۔ (المحلی، ابن حزم، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲، جلد ۶، صفحہ ۱۱۷)

(۶۹) ”وبه الى ابرهیم العربی ناموسی بن اسماعیل ناجماد۔ ہوا بن مسلم۔ عن حمید عن الحسن بن مسلم عن مجاهد قال: من فعل ولدآ عخلافون بنتی فاتھ فہو میراث“ (المحلی، ابن حزم، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲، جلد ۶، صفحہ ۱۱۵)

ہے، اس طرح اگر ایک صحت مند زندہ شخص ایسا ہبہ کرے گا تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔^{۱۰}

(۹) عبدالرزاق ہی نے حضرت زہیر بن نافع سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عطاء ابن ابی ریاح سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں عطیہ (ہبہ) میں اپنی بعض اولاد کو دوسروں پر فضیلت دے دوں۔ انہوں نے سختی کے ساتھ اس سے انکار کرتے ہوئے فرمایا ان سب کو درجہ میں برابر رکھو۔^{۱۱}

(۱۰) عبدالرزاق ہی کے واسطہ سے حضرت ابن جریح سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عطاء سے کہا کہ کیا اولاد اور باب و زوجہ کے درمیان ہبہ میں یکساں اختیار کی جائے، فرمایا مجھے کو صرف یعنی کے حق میں رسول اللہ سے حدیث پہنچی ہے۔^{۱۲}

(۱۱) ابن وهب نے اپنی سند سے بواسطہ نافع روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر نے ہبہ میں اپنی بعض اولاد کو دوسروں پر ترجیح دی تھی، اس طرح کہ آن میں سے کسی ایک کوتین یا چار غلام دے دئے تھے۔ حضرت بکیر نے قاسم بن عبدالرحمن سے نقل کیا ہے کہ فرمایا میں ابن عمر کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے ایک انصاری شخص سے زین خریدی اور فرمایا کہ یہ زمین

(۱۳) ”وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرزَّاقِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوْةِ بْنِ الزَّيْرِ قَالَ : بِرَدْمَنْ حِيفَ التَّاجِلِ الْعَيْ مَا يَرِدُ مِنْ حِيفَ الْمَيْتِ مِنْ وَصِيَّةٍ“ (المحلی، ابن حزم مطبوعہ مصر ۱۳۵۲، جلد ۷، صفحہ ۱۴۵)

(۱۴) ”وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرزَّاقِ عَنْ زَهِيرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : سَأَلَتْ عَطَاءَ بْنَ أبِي رِيَاحَ قَلْتَ أَرِدْتُ أَنْ أَفْضِلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي بَعْضِ الْعَمَلِ ، فَقَالَ لَا ، وَأَبِي إِبْرَاهِيمَ شَدِيدًا وَقَالَ سَوَيْنِهِمْ“ (المحلی، ابن حزم، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲، جلد ۷، صفحہ ۱۴۵)

(۱۵) ”وَبِإِلَى عَبْدِ الرزَّاقِ عَنْ أَنْ جَرِيجَ قَلْتَ لِعَطَاءَ : يَنْعَلُ وَلَدٌ أَيْسَوِي بَنَهُمْ وَبَنَهُمْ أَبٌ وَزَوْجَةٌ؟ قَالَ : لَمْ يَذْكُرِ الْأَبُولُدُ لَمْ اسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ“ (المحلی، ابن حزم، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲، جلد ۷، صفحہ ۱۴۵)

بڑے لڑکے واقد کی ہے۔ کوئنکہ وہ مسکین ہے چنانچہ یہ زمین دیگر اولاد کے مقابلہ میں صرف ایک لڑکے کو بھے کر دی گئی۔

(۱۲) اسی طرح ابن وهب نے این دینار کے واسطے سے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جو کھام کلثوم بنت عقبہ این معیط کے بطن سے تھیں چار ہزار درهم ہبہ کر دئے تھے حالانکہ دوسرا ازواج سے ان کی دوسری اولاد موجود تھی۔ نیز این وهب ہی کے ذریعہ ایک روایت حضرت محمد بن منکدر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کل ذی مال احق بالله“ یعنی ہر صاحب مال اپنے مال کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔

سطوریا میں جو احادیث تفضیلی ہے کہ جواز یا عدم جواز میں روایت کی گئی ہیں آن میں سے نعان بن بشیر کی حدیث سے موافق و مخالف دونوں طرح استدلال کیا گیا ہے۔ چنانچہ دونوں فریق ان احادیث سے اپنا اپنا مسلک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی جو تفضیلی ہے کہ جواز کے قائل ہیں اور وہ بھی جو اس کے باطل ہونے کے مدعی ہیں۔ ان احادیث و آثار پر تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہوں فتح الباری جلد ۶، عمدة القاری جلد ۶، السنن یہی جلد ۶، المحتلی جلد ۶

(۱۳) ومن طریق ابن وهب عن ابن لهيعة عن بکیر بن الاشعی ان ابن عمرقطع ثلاثة ارؤس او اربعة لبعض ولده دون بعض؟ قال بکیر و حدثی القاسم عبد الرحمن الانصاری انه كان له مع ابن عمر اذاشترى ارضامن وجل من الانصار ثم قال له ابن عمر : هذا الارض لابنى واقد فانه مسکین ، نحله ایا هادون ولدہ (المحتلی ابن حزم ، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ء ، جلد ۶ ، صفحہ ۱۷۵)

(۱۴) قال ابن وهب : ويبلغني عن عمرو بن دينار ان عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اربعة لآلاف درهم ولدہ من غیرہا۔ وذکروا ماروینا من طریق ابن وهب عن سعید بن ابی ایوب عن بشیر بن ابی سعید عن محمد بن المنکدر ان رسول اللہ علیہ وسلم قال ”کل ذی مال احق بالله“ (المحتلی ، ابن حزم ، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ء ، جلد ۶ ، صفحہ ۱۷۶)

دو فریق :

وہ فریق جو تفضیل ہے کے جواز کا قائل ہے ان میں امام نوری ، لیث بن سعد ، قاسم بن عبدالرحمن ، محمد بن منکدر ، امام ابو حنیفہ ، امام ابو یوسف ، امام محمد ابن الحسن الشیعی ، امام شافعی اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ شامل ہیں ۔ ان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں اپنی بعض اولاد کو دوسری اولاد پر ترجیح وفضیلت دے کر عطیہ (ہے) کرے تو اگرچہ یہ فعل ہے دیانتاً (ما بین خدا و بنده) مکروہ ہے لیکن قضاء درست ہو گا یعنی قانوناً اس کو جائز و نافذ قرار دیا جائے گا ۔ آن کے نزدیک حدیث کی عبارتیں حکم اور فیصلے کی نوعیت نہیں رکھتیں بلکہ نصیحت و امر بالمعروف کی حیثیت رکھتی ہیں ۔

امن سلسلہ میں دوسرے فریق میں حضرت طاؤس ، عطاء ابن ابی ریاح ، مجاهد ، عروه ، ابن جریج ، نعمی ، شعبی ، ابن شبرہ اور برداشت مرجع ابن حنبل و اسحق بن راهویہ اور امام ابو محمد ابن حزم شامل ہیں ۔ ان اصحاب کے نزدیک ایسا ہے قضاۓ بھی جائز نہ ہو گا کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے اور عدالتیں ظلم کو نافذ نہیں کیا کرتیں ۔ چنانچہ ایسا ہے باطل اور واجب الرد ہو گا ۔

مختلف فقہی مذہب کی آراء

حنفیہ و بعض مالکیہ اور شافعیہ و شیعہ مکتب نکر کے نزدیک ایک مسلمان (مرد یا عورت) اس امر کا مجاز ہے کہ وہ اپنی زناگی میں بحال صحت جسی کسی شخص کو چاہے اور جب چاہے اپنی کل جانداد و املاک یا اس کا کوئی حصہ ہے کر سکتا ہے ۔ یہ ہے آس وصیتی ہے سے مختلف ہے جس میں کوئی مسلمان جانداد و املاک کے ایک تھان سے زیادہ حصہ ہے کرنے

کا مجاز نہیں۔ البتہ کسی شخص کا اپنی اولاد کے حق میں اس طرح ہبہ کرنا کہ ایک اولاد کو دوسری پر ترجیح دی جائے گناہ ہے۔ بالفاظ دیگر ایک مسلمان اپنی کل جائیداد سے تمام وارثوں کو محروم کر کے اپنی زندگی میں بحال صحت کسی بھی اجنبی کو ہبہ کر سکتا ہے مگر اس کا یہ فعل دیانتاً (امن کے اور اللہ کے درمیان) غیر مستحسن ہوگا، گو قانوناً ایسا کرنا جائز ہوگا۔

حنفیہ :

امام کاسانی نے حنفی فقہ پر اپنی مشہور کتبہ بداع الصنائع میں لکھا ہے کہ سب (اولاد) کے درمیان برابری رکھنا تالیف قلوب کا سبب ہوگا اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے سے آن کے درمیان وحشت پیدا ہوگی اس لیے سماوات اولیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بعض اولاد کو دے کر دوسری کو محروم کر دے خواہ جس کو محروم کیا گیا ہو وہ فقیہ و متقی ہو یا جاہل و فاسق ہو، تو حکماً یہ جائز ہوگا کیونکہ وہ اپنی خالص ملک میں تصرف کرتا ہے جس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں، البتہ یہ ہوگا کہ اولاد کے درمیان عدل نہ ہوگا۔ یہ مقدمین کا قول ہے^{۵۵}۔

امام محمد اور امام ابویوسف اگرچہ اصول طور پر امام ابوحنیفہ سے منافق ہیں لیکن ایک روایت منقول ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر والد نے اپنی تفضیلی عمل سے دوسری اولاد کو ضرر پہنچانے کی نیت ہے ہبہ کیا ہو تو ایسا ہبہ واجب الرد ہوگا۔^{۵۶}

امام شعرانی شافعی نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں لکھا ہے کہ احمد ثلانہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی)^{۵۷} کا قول ہے کہ باب (اور اس

(۵۵) بداع الصنائع، مطبوعہ مصر ۱۹۱۰ع، جلد ۶، صفحہ ۱۳۷۔

(۵۶) فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، مطبوعہ مصر ۱۹۵۹ھ، جلد ۵، صفحہ ۱۳۳

عدة القارئ، امام عینی، مطبوعہ مصر، جلد ۶، صفحہ ۲۴۲

شرح موطأ، الزرقانی مطبوعہ مصر ۱۳۸۲ھجری، جلد ۲، صفحہ ۲۲۲

ہے اوپر کے درجہ میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو) کے لئے مستحب ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان بہہ میں مساوات برتے۔ اس میں امام احمد بن حنبل بھی ائمہ ثلثہ کے ساتھ ہیں۔ امام محمد ابن الحسن الشیعی کے نزدیک باب کے لئے جائز ہے کہ وہ ذکور اور اٹاث میں بطريق و رائفت فضیلت دے۔ (سوال یہ ہے کہ) اگر باب نے اولاد کے درمیان کسی کو فضیلت دی تو کیا اس پر شتمے مفاضله سے رجوع کرنا لازم ہے۔ ہر سہ ائمہ کے نزدیک اس پر رجوع کرنا لازم نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک رجوع کرنا لازم ہے۔“^{۲۴۴}

مالکیہ :

مالکی مذہب کی مستند کتاب سوطاء امام مالک میں لکھا ہے کہ نہمان بن بشیر والی حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو اولاد کے حق میں کچھ گنجے حصہ میں تعديل و تسویہ (مساوات) کے وجوب کے قائل ہیں جیسے کہ طاؤس ، سفیان ثوری ، احمد بن حنبل ، اسحاق بن راهویہ ، امام بخاری اور بعض مالکیہ۔ ان حضرات کے بہترین قول یہ ہیں کہ ایسا ہے (تفضیلی) باطل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک روایت یہ ہے کہ صحیح ہوگا۔ ان ہی سے ایک روایت ہے کہ اگر یہ تفضیل کسی خاص سبب کی بنا پر ہو تو یہ ہبہ جائز ہوگا مثلاً وہ لڑکا اپاہج ہو یا مقروض ہو یا اس کے مثل اور کوئی سبب ہو۔ امام ابو یوسف رحمہ فرمایا ہے کہ اگر واحب نے (ابنی بعض اولاد کو) نقصان پہنچانے کی غرض سے ایسا کیا ہو تو اس پر تعديل واجب ہوگی۔ لیز ہبہ کو باطل قرار دینے والے حضرات یہ دلیل پر بنائے قیاس پیش کرتے ہیں کہ قطع رحمی اور عقوق دونوں حرام ہیں۔ ان دونوں سے اجتناب واجب ہے لہذا تعديل و تسویہ نہ کرنا حرام کے ارتکاب کا سبب ہوتا ہے اور جو اس کسی حرام کے ارتکاب کا

(۲۴۴) میزان الکبریٰ ، شعرانی ، مطبوعہ مصر ، جلد ۲ ، صفحہ ۱۰۰
رحمۃ الامۃ فی اختلاف الامم ، مطبوعہ مصر ، جلد ۲ ، صفحہ ۳

سبب ہو وہ خود حرام ہوتا ہے۔ اس طرح تعديل ادائی واجب کا مقدمہ قرار پاتی ہے اور جو امر واجب کے استثنائی کا مقدمہ ہو اور وہ امر واجب ہوا کرتا ہے، چنانچہ تعديل واجب اور عدم تعديل حرام ہے۔^۸

شافعیہ :

شافعی مذہب کی کتاب مختصر المزنی میں نعمن بن بشیر والی حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں ہم بھی اس حدیث کو لیتے ہیں اور اس حدیث میں چند امور پر دلیل ہے۔ ایک یہ کہ حسن ادب یہ ہے کہ اولاد کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دے تاکہ مفضول کے دل میں کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جو اس کو نیکی سے باز رکھئے کیونکہ قرابت بعض سے بعض کے تعلق کا نام ہے نہ کہ عداوت یا زیادتی کرنے کا۔ دوسرے یہ کہ بعض اولاد کو ہبہ کرنا جائز ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کرنے کا حکم نہ فرماتے تیسرا یہ کہ باب کے لیے اپنی اولاد کے ہبہ (عطیہ) میں رجوع کرنا جائز ہے (نیز) حضرت ابویکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے ہبہ (عطیہ) میں ان کو فضیلت دی تھی اور حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عامر کو فضیلت دی توہی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ام کلثوم کی اولاد کو فضیلت دی تھی۔^۹

فقہ شافعی کی ایک اور مشہور کتاب المذهب میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ مفضول کے دل میں اس فعل سے ایسا جذبہ پیدا ہوگا جو اس کو بھلانی کرنے سے روک دے گا نیز بعض اقارب دوسرے اقارب سے جو مسرت محسوس کریں گے وہ اس زیادتی سے حاصل نہ ہو سکے گی۔

(۸) شرح الموطاء، ررقانی، مطبوعہ مصر، ۱۳۸۲ھجری جلد ۴، صفحہ ۴۴۴

(۹) المختصر المزنی، آخر جلد کتاب الام، مطبوعہ مصر ۱۳۸۱ھجری، صفحہ ۱۳۸

لیکن اگر بعض کو بعض پر فضیلت دے دی گئی تو عطیہ درست ہوگا کیونکہ حضرت نعan بن بشیر کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اس ہبہ پر میرے علاوہ کسی اور شخص کو گواہ بنا لو تو اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو آنحضرت کسی دوسرے کو گواہ بنانے کے لئے نہ فرماتے۔^{۸۰}

حنبلیہ :

حنبلی فقہ کی کتاب المحرر فی الفقہ میں لکھا ہے کہ اولاد کے عطیہ میں تعديل (برابری) واجب ہے اور اسی طرح دوسرے اقارب کے عطیات میں ان کی وراثت کے حساب سے (مساویات واجب ہے)۔ چنانچہ اگر بعض کو فضیلت دے کر مخصوص کر دیا اور وابہ اسی حالت میں انتقال کر گیا تو کیا باقی اقرباء کو اس کے فسخ کا حق حاصل ہوگا یا نہیں۔ اس صورت میں (امام احمد بن حنبل سے) دو روایتیں ہیں۔^{۸۱}

حنبلی فقہ کی ایک اور کتاب الاقناع میں لکھا ہے کہ ماں باپ وغیرہ پر واجب ہے کہ جو لوگ قرابت کی بناء پر وارث ہوتے ہیں ان کے عطیہ میں برابر اختیار کریں لیکن ایک حقیر شرے میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تعديل ان لوگوں کی وراثت کے حصوں کے مطابق ہوگی لیکن اگر نفقہ یا لباس وغیرہ کا عطیہ ہو تو اس میں کفایت کا لحاظ کیا جائے گا اور آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ دیکر ورثاء کی اجازت سے ایسا کر دے، اگرچہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ہو تاکہ تمام لوگ مساوی ہو جائیں حتیٰ کہ اگر ایک شخص نے اپنی صحت کی حالت میں اپنے دو بیٹوں میں سے ایک کی شادی کر دی اور اپنی طرف سے اس کا سہر ادا کر دیا اس

(۸۰) السنب، ابراہیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی (۵۷۶ھ) مطبوعہ مصر،

۱۹۵۹ع جلد اول، صفحہ ۳۵۳

(۸۱) المحرر فی الفقہ، مجدد الدین ابن تیمیہ، مصر ۱۳۶۹ھ، جلد اول، صفحہ ۲۸۷

کے بعد باب مرض الموت میں مبتلا ہو گیا تو باب کو اس حالت میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ دوسرے بیٹے کو اتنا دیدے جتنا پہلے کو دیا ہو۔ اس حالت میں ثلث ماں کے اندازہ کرنے کا حکم نہ ہو گا کیونکہ یہ ایک واجب امر کا تدارک ہو گا جو دین (قرض) ادا کرنے کے مشابہ ہو گا اور اگر مساوات سے پہلے انتقال کر گیا تو وہ اسی کا ہو گا بشرطیکہ عطیہ مرض الموت میں نہ کیا گیا ہو (کیونکہ اس حالت میں وصیت کے حکم میں ہو گا)۔^{۸۲}

شیعیہ :

شیعی فقہ کی مشہور کتاب شرائع الاسلام میں لکھا ہے کہ اہل قرابت کے لئے ہبہ کرنا مستحب ہے اور خصوصاً اولاد اور والدین کے لیے مستحب مونکد ہے۔ اسی طرح ہبہ بین الولاد کے درمیان برابری کرنا (ان کے حصوں کو مساوی قرار دینا لڑکے ہوں یا لڑکیاں یا متفرق) بھی مستحب ہے۔ لیکن کسی ماں کے حصہ کرنے میں ایک اولاد کو دوسری پر ترجیح دینا جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے۔^{۸۳}

ظاهریہ :

شیخ ابن حزم الظاهری کے نزدیک ایسا ہبہ یا صدقہ جس میں چند اولادوں میں کسی ایک اولاد کو دوسری پر ترجیح اور فضیلت دی گئی ہو حرام اور باطل ہے۔ اگر ایسا کیا گیا ہو تو حاکم وقت اس کو باطل قرار دے کر صحیح طریقہ پر اولاد میں تقسیم کر دے گا۔

عبدالرازاق کی مند سے حضرت عروة بن زیبر سے مروی ہے فرمایا! جس طرح ایک میت کی وصیت (حد سے متباہز ہو تو اس) کو رد کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر ایک صحت مند زندہ شخص ایسا ہبہ کرے گا تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔

(۸۲) الاقناع ، مطبوعہ مصر جلد ۳ ، صفحہ ۳۲۲

(۸۳) شرائع الاسلام، نجم الدین ابی جعفر الحلی، مطبوعہ بیروت، القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

عبدالرزاق ہی کے واسطہ سے حضرت ابن جرج سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عطا سے کہا کہ کیا اولاد اور باب اور زوجہ کے درمیان ہبہ میں یکسانیت اختیار کی جائے، فرمایا مجھ کو صرف یہی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پہونچی ہے۔

علامہ ابن حزم نے احادیث و آثار (محولہ بالا) بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و قیس ابن سعد و عائشہ أم المؤمنین کا صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے عمل ظاهر ہے۔ دیگر صحابہ میں سے کسی کی خلافت اس کے متعلق ثابت نہیں، نیز حضرات مجاهد و طاؤس اور عطا و عروفة و ابن جرج جیسے تابعین ہیں (جو اس کے قائل ہیں)۔ یہی قول حضرت نعمی و شعبی و شرع و عبداللہ بن شداد و ابن الہاد و ابن شبرمه و سفیان ثوری و احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و ابو سلیمان اور ہمارے دیگر اصحاب کا ہے۔

البتہ شرع اور احمد و اسحاق کا اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ عدل کس طرح اختیار کیا جائے۔ ان حضرات کا قول ہے کہ (للذ کر مثل حظاً لآئین) کا طریقہ اختیار کیا جائے یعنی یہی کے مقابلے میں دوگنا دیا جائے دوسرے حضرات کے نزدیک بالکل مساوی طریقے پر تقسیم کیا جائے۔

علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ ”هم کو ایسی روایتیں بھی پہنچی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا جائز ہے۔“ جیسا کہ حضرت قاسم بن محمد اور ریمعہ وغیرہ سے مقول ہے اور اس کے قائل حضرات ابوحنیفہ و مالک و شافعی ہیں۔ لیکن ابوحنیفہ نے (جواز کے ماتھے) مکروہ کہا ہے اور مالک نے بھی بعض اولاد پر کل مال کے ہبہ کو مکروہ کہا ہے۔ ان حضرات نے اس کی دلیل میں حضرات ابوبکر و عمر و عائشہ رضی اللہ عنہم کے واقعات کو پیش کیا ہے۔“

شیخ ابن حزم کہتے ہیں کہ ”ان روایات کے ماسوا ہم کو ان لوگوں کے استدلالات میں اور کچھ نہ مل سکا۔ لیکن جو لوگ ہمارے مسلک کے قائل نہیں وہ اپنے استدلال میں وہ روایات پیش کرتے ہیں جن کو سلم نے اپنی صحیح میں متعدد سندوں سے روایت کیا ہے، یہ حضرت نعیان بن بشیر کی روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کے والد ان کو اپنے ہمراہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے! اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بھی کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو اسی طرح ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا بس تو اس ہبہ سے رجوع کر لو۔ دوسری روایتوں میں ہے، حضور نے اس کو رد کر دیا یا فرمایا واپس کر لو بخاری کے طبقے میں یہ الفاظ مروی ہیں ”حضرور نے فرمایا : ”فانتقوا اللہ و اعدلو بین اولادکم“ خدا سے خوف کرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو۔ اس روایت میں نعیان نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے والد نے ہبہ میں رجوع کر لیا تھا۔

سلم کی ایک اور روایت میں آنحضرت صلعم کے یہ الفاظ مروی ہیں : ”فلا اشهد على جور“ بس میں ظلم پر گواہ نہ بنوں گا۔

چنانچہ یہ تمام کے تمام ائمہ جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس امر پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے اس صدقہ و عطیہ کو فسخ کرنے اور واپس کر لینے کا حکم دیا تھا اور بعض نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ یہ واپس لے لیا گیا تھا۔ پھر حضور نے اس عمل کو جور قرار دیا اور جو عمل اللہ تعالیٰ کے دین میں جور قرار دیا گیا ہو اس کا نافذ قرار دینا حلال نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو جائز قرار دیا جائے تو پھر ہر ظلم کر جائز قرار دیا جا سکے گا اور پھر علی الاعلان اسلام کی عارثت کو منہدم کرنے کے متراوٹ عمل ہو گا۔“

امام ابن حزم کہتے ہیں کہ ”هم نے اپنے مخالفین کو ان روایات میں طرح طرح کی علتیں بیان کرتے پایا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نعمان کے والد نے اپنا کل مال ہبہ کر دیا تھا۔ ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ حدیث میں نصا موجود ہے کہ اپنا بعض مال ہبہ کیا تھا اور بعض صحیح روایات میں یہ الفاظ ہیں : ”بعض الموهوبة من ماله“ ایک جماعت نے کہا ہے کہ داؤد بن ابی هند نے شعی سے روایت کرنے میں آنحضرت کے کلام کو اس طرح نقل کیا ہے کہ حضور انور نے بشیر سے اس طرح فرمایا تھا: ”اشهد علی هذا غيري، ایسرک ان یکونوا اولٹک فی البر سواها ، قال بلی قال فلاذآ“ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ کلام تو تمہارے مقابلے میں (ہاری) حجت ہے (نه کہ تمہاری دلیل) ، کیونکہ حضور نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے ”فلا اذآ“ یعنی اب جائز نہیں جس سے ممانعت ایک عقلمند کے لئے کافی ہے اور آنحضرت کا یہ فرمانا ”اشهد علی هذا غيري“ اس عقد پر میرے بجائے کسی دوسرے کو گواہ بنالو۔ اگر حدیث میں (اول جملہ نہ بھی آتا) صرف یہی کلام منقول ہوتا تب بھی آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ کیونکہ ان الفاظ کے روایت کرنے والے روایوں سے زیادہ عظیم المرتب راویوں نے آنحضرت صلم کے وہ کلام روایت کئے ہیں جن میں آنحضرت نے اس ہبہ و عطیہ کے واپس لینے کا حکم صادر فرمایا ہے اور اس عمل کو ظلم و جور قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ”اشهد علی هذا غيري“ یہ دراصل ایک خوف دلانے والا کلام ہے جس کو اصطلاح میں وعید کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”فَإِنْ شَهَدُوا أَفْلَأْ تَشَهَّدُ مَعْهُمْ“ اس سے ظلم پر شہادت کی اباحت ثابت نہیں ہوئی ، بلکہ اس کلام کا منشاء یہ ہو گا جو اس آیت کا ہے: ”فَعَنْ شَاهِ فَلَيْقُونِ وَمِنْ شَاهِ فَلَيْكُفَرْ“ یعنی جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے اور اس آیت کا ہے: ”اَعْلَمُوا مَا شَتَّمْ“ جو تمہارا دل چاہے کرو۔ اور ”کَلَا وَتَمْتَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ“ کھاف

فائده الہاؤ تھوڑے عرصے تک بھر حال تم محروم ہو۔ نبی علیہ السلام سے کسی طرح یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ جس امر کو آئنے جور قرار دیا ہو اس پر کسی بھی دوسرے کو گواہ بنانے کا حکم فرمادیں گے۔“

”اس مقام پر ہمارے تزدیک یہی دو صورتیں نکل سکتی ہیں کہ اس ہبہ و عطیہ کو یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ حق و جائز ہے یا یہ کہ باطل اور ناجائز ہے۔ ان کے مساوا کوئی تیسرا صورت نہیں۔“

”اگر یہ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں تو یہر یہ بھی کہنا ہو گا کہ آنحضرت صلعم نے ایک جائز امر پر شہادت سے انکار کر کے کتاب اللہ کے اس حکم کا ”ولا یأی الشہداء اذا مادعوا“ خلاف کیا اور اس کا بھی ”ولا یضار کاتب ولا شہید“ اور اگر یہ کہیں کہ یہ ہبہ و عطیہ و صدقہ باطل ہے لیکن اس کے باوجود اس ظلم و جور کے نفاذ کا حکم دیا گیا ہے تو یہ ایک عظیم بہتان ہو گا کہ کہا جائے رسول اللہ نے باطل و غیر جائز حکم دیا ہے کیونکہ باطل اور ظلم کے نافذ کرنے کا حکم دینا اور اس پر شہادت کے قیام کو صحیح قرار دینا لازم آئے گا اور ان دونوں صورتوں کا قائل ہونا کفر ہے۔“

امام ابن حزم آنگے چل کر لکھتے ہیں کہ ”ہر ایک جماعت نے ان روایات کا مطلب بیان کرنے میں ایک عجیب گمراہ کن راستہ اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم اس ارشاد کا ”اشهد علی هذا غيری“ یہ مطلب ہے کہ میں چونکہ امام الوقت (حاکم اعلیٰ) ہوں اور امام کا کام شاهد بنتا نہیں ہوتا (یہ لکھ فیصلہ دینا ہوتا ہے)۔ تو اس قول کے بموجب دو بہتان کا ارتکاب لازم آئے گا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ایسا منشاء بیان کرنا جو درحقیقت آپ کا منشاء نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص کو اپنا مقام جہنم میں بنا لینا چاہئے۔ دوسرا یہ کہ

امام شاہد نہیں ہو سکتا بلکہ امام شاہد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں وہ دیگر مسلمین مخاطبین کے ساتھ شامل ہے، جن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ شہادت سے انکار نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی منشاء ہے ”کُنُوْ ا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شَهِدَ اللَّهُ وَلَوْ عَلَى النَّفْسِكُمْ اَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ“ یہ حکم بلا شک و شبہ امراء کو دیا گیا ہے، حالانکہ اس قائل کا اپنا قول اور مذهب یہ بھی ہے کہ اگر حاکم اعلیٰ اپنے حکام میں سے کسی حاکم کے سامنے شاہد کے طور پر شہادت دے گا تو اس کی یہ شہادت مقبول ہوگی لہذا اگر وہ شاہد نہ ہو سکتا تو اس کی شہادت کس طرح قابل قبول ہوگی۔

پھر بعض لوگوں نے ان روایات کے متعلق ایسا قول اختیار کیا ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے آن کا خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا۔ کہما گیا ہے کہ شاید نعمان بالغ تھے اور ہبہ پر قبضہ نہ کیا تھا۔ لیکن انسوس یہ ہے کہ قائل نے یہ نہیں دیکھا کہ نعمان کا نابالغ ہونا اظہر من الشمس ہے اور وہ بالاتفاق هجرت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ابو حیان نے شعبی کی روایت میں حضرت نعمان بن بشیر سے خود ان کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ: ”میں اس وقت کمنس پچھے تھا۔“

اور ایک فریق نے کہا ہے کہ نعمان کے والد نے ہبہ نہیں کیا تھا بلکہ آخرت (صلعم) سے اس کے متعلق مشورہ لینے حاضر ہوئے تھے امام زہری کی روایت جو کہ حضرت نعمان سے مروی ہے اس میں ملمع سازی کی ہے۔ اس میں ان کے والد کے یہ الفاظ روایت کئے ہیں: ”انی خلت اینی هذا غلاماً فان اذنت لی اني اجیزه اجزته“ یعنی میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہبہ کر دیا ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس کو نافذ کر دوں۔“

ابو محمد (ابن حزم) کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ

ہیں کہ اس روایت کی ابتداء کی طرف غور نہیں کرتے اور نہ درمیان الفاظ پر توجہ دیتے ہیں۔ ابتداء میں مذکور ہے ”خلنی غلاما“ مجھے کو غلام عطا کیا تھا اور وسط میں مذکور ہے : ”یا رسول اللہ نحلت انی هذا غلاما“ اور بھر کہتے ہیں کہ ہبہ مکمل نہ ہوا تھا۔ باقی رہا آن کا یہ کہنا کہ اگر آپ اس کی اجازت دیں تو میں اس کو برقرار رکھوں اور نہ دیں تو باطل کر دوں یہ کہنا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ صرف اس عمل پر استقامت کرے جو اللہ کا رسول اس کے لئے مباح قرار دے دے، جس کی اباحت اتنی واضح ہو کہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

ہاں اگر رسول اللہ (صلعم) بشیر کے لیے ان کے عمل کو مباح جائز قرار دے دیتے تو بشیر اس پر عمل کرتے اور نہ دیتے تو نہ کرتے اور یہی ہوا کہ ہبہ باطل کر دیا گیا۔

اس فریق نے ابن عون کے واسطے سے ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے جس کے متین میں آنحضرت کے یہ فرمائے ”فانی لا اشهد“ کے بعد یہ جملہ بھی موجود ہے ”قاربوا بین اینائكم“

علی نے کہا ہے کہ یہ جملہ تو (ہاری) ایک بڑی حجت ہے، اس لئے کہ (عدم مقاریت) باطل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر شاهد نہیں ہو سکتے تھے۔

باقی رہی وہ روایت کہ (جن کو ہمارے فریق مخالف نے اپنی دلیل میں اس مضامون سے روایت کیا ہے) ”کل ذی مال احق بماله“ یعنی ہر صاحب حق اپنے مال کا زیادہ حق رکھتا ہے، یہ مضامون اپنے مقام پر بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْ أَنْ تَكُونَ لِهِمُ الْخَيْرَ مِنْ أَمْرِهِمْ“ یعنی کسی مومن مرد اور عورت کے یہ شایان نہیں کہ جب ان کے حق میں اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ

فرما دے تو پھر آس امر میں ان کو اختیار رہے ۔ اور فرمایا ہے : ”التبی اولی بالمؤمنین من انفسهم“ یعنی نبی مُؤمنین کی نفسوں کے ان کی ذات سے زیادہ حقدار ہیں“ ۔ لہذا جس ذات نے زکات واجب کی، فاحشہ عورت کی اجرت حرام قرار دی، کاہن کے نذرانے کو شراب کے فروخت کرنے کو اور آم الولد کی بیع کو حرام قرار دیا آسی ذات نے صدقہ اور عطیہ بصورت فضیلت و ترجیح کے رد کرنے اور باطل کرنے کا حکم دیا ۔“

علامہ ابن حزم نے فرمایا ہے کہ ان مخالفین نے صحابہ کے جن آثار سے استدلال کیا اور ملمع سازی سے کام لیا ہے اس کے متعلق یہی کاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کا عمل حجت نہیں ہوتا ۔ اس کے ماسوا حضرت ابویوبکر کی حدیث جس کو ہم خود نقل کر چکے ہیں اس روایت کے خلاف ہے جس کو یہ لوگ روایت کرتے ہیں، باقی رہا حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا یہ قول : ”من محل ولدہ خجالا“ جس شخص نے اپنی اولاد کو عطیہ (ہبہ) دیا ۔ تو ہم ہبہ کرنے کو منوع نہیں قرار دیتے بلکہ ہم ان کے درمیان تقاضل (ایک دوسرے پر فضیلت) کو منع کرتے ہیں اور ان حضرات کے اس کلام میں اولاد کے درمیان تقاضل کی اجازت کا کوئی کامہ موجود نہیں ہے، جس طرح کہ ان کے کلام میں شراب اور خنزیر کی بیع کی اباحت کا کوئی ذکر نہیں ہے ۔ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ پھر جیکہ ان حضرات سے صحیح طریقہ پر ممانعت ثابت ہو چکی ہو جیسا کہ ہم نے روایت کر دیا ہے ۔

اور حضرت ابن عمر کی روایت میں واقد کو ہبہ کرتے وقت اس کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ انہوں نے واقد کے ہبہ سے قبل دوسری اولاد کو کچھ ہبہ نہ کیا تھا یا کہ اس کے بعد بھی ہبہ نہ کیا ۔ ان کا یہ فرمانا کہ میرا یہ لڑکا مسکین ہے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ واقد سے قبل اس کے دوسرے بھائیوں کو آپ پہلے دے چکے ہوں اور

یہ آخری درجہ میں رہ گیا ہو تو اپنے ترجم کے الفاظ سے اس کا اظہار کیا ہو اس کے علاوہ اس روایت کی سند میں ابن لہبیعہ ہیں جو ساقطین راویوں میں سے ہیں۔ اسی طرح عبدالرحمن کی روایت بھی منقطع ہے۔ چنانچہ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے تمام استدلالات باطل ہو گئے چنانچہ ایسا ہیہ باطل ہو گا۔^{۸۳}

حافظ این قیم کا مسلک :

ابن قیم نے اپنی کتاب زادالمعاد میں لکھا ہے کہ ”امام احمد سے نص ملتی ہے کہ جو شخص اپنا تمام مال صدقہ کرنے کی نذر مانے اس کے لیے تھائی کی اجازت ہے۔ ان کے اصحاب نے حضرت کعب کے اس واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول ! اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سیری توبہ کا تقاضا ہے کہ میں اپنا تمام مال اے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دے ڈالوں۔

آپ نے فرمایا ”نہیں“

انہوں نے عرض کیا ”پھر کیا نصف مال دے ڈالوں؟“

آپ نے فرمایا : ”نہیں یہ بھی نہیں۔“

کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا : ”اچھا ایک تھائی تو دے ڈالوں۔“

آپ نے فرمایا : ”ہاں، اتنے میں مضائقہ نہیں۔“

کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا : ”اچھا پھر میں اپنا خیر کا حصہ

روک لیتا ہوں۔“^{۸۴}

(۸۳) المعلقی ، ابن حزم ، مطبوعہ مصر ، ۵۱۳۵۲ ، جلد ۴ ، صفحات ۸۱-۸۳

(۸۴) زاد المعاد (اردو ترجمہ) مطبوعہ نقیس آکیڈمی کراچی ، جلد ۳ ، صفحہ ۸۰

حافظ ابن قیم کے مسلک پر احناف کا رد :

احناف کے مسلک کے مطابق حافظ ابن قیم کا مذکورہ بالا روایت ہے
یہ استدلال کہ ہبہ ایک تھائی سے زائد نہ ہونا چاہیے، قانوناً ایک تھائی سے
زائد کے عدم نفاذ یا ناجوازی کی دلیل نہیں بن سکتا - حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا حضرت کعب سے یہ فرمانا کہ ایک تھائی میں کوئی مضائقہ نہیں
اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ کوئی شخص اگر اپنا سب کچھ اللہ اور
اس کے رسول کی خاطر دے ڈالی تو ایسا ہیہ ناجائز متصور ہوگا - یہی
اصول غیرالله کو ہبہ کرنے کے سلسلے میں بھی ہے - علاوہ ازین حضرت
ابویکر اور حضرت عمر رضیٰ کے اپنے اٹائے کی ایک تھائی سے زائد فی سبیل اللہ
دینے کی روایتیں بھی متلتی ہیں جو اس امر کا بین ثبوت فراہم کرتی ہیں
کہ اگر کسی شخص کا ایک تھائی سے زائد ہبہ کرتا یا صدقہ دینا جائز نہ
ہوتا تو حضور (صلعم) ایک تھائی سے زائد اٹائے کو قبول نہ فرماتے۔

حافظ ابن قیم کے اس خیال میں کہ ہبہ ایک تھائی سے زائد نہ ہونا
چاہیے درپرده ورثاء کے حقوق کے تحفظ کا نظریہ کار فرما نظر آتا ہے۔ جمہور
فقہاء کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ ورثاء کا حق متوفی کی جائیداد میں اس
کے مرنے کے بعد ہی قائم ہوتا ہے نہ کہ اس سے پہلے - بنا برین واہب
کی زندگی میں ایک تھائی کی پابندی صرف واہب کے اپنی ملکیت میں تصرف
کرنے کے حق پر تحدید کے مترادف ہے بلکہ قانون میراث کے اس اصول
سے بھی متصادم ہے کہ ورثاء کا حق سورث کی موت کے بعد ہی ترکہ سے
قائم ہوتا ہے -

احناف کے اعتراض کا جواب :

لیکن اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضیٰ سے کوئی ایسا
واقعہ سروی نہیں جس میں کل مال صرف کرنے کا ذکر ہو - البته بعض

روایتوں میں حضرت ابویکر رضیٰ سے ایسا منقول ہے، لیکن شخصی خصوصیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حضرت کعب بھی صحابی ہیں۔ ان کے ماسوا حضرت سعد بھی صحابی تھے جن انصاری نے اپنے تمام غلام جو ان کا کل سرمایہ تھا آزاد کر دیے تھے وہ بھی صحابی تھے لیکن ان حضرات کے کل مال صرف کرنے کو حضور نے قبول نہ فرمایا تھا۔ ان کے افعال پر پابندی عائد کر دی تھی اور یہ سب صحت کی حالت میں ایسا کرنے والے تھے۔ (یسٹاؤنک ماڈا ینفیون قل العفو) عفو حاجت سے فاضل مال کو کہتے ہیں اور ورثاء جب کہ صاحب حاجت ہوں یا آئندہ حاجت مند ہونے کا احتمال ہو تو انسان کے مال پر ان کے حقوق اسی طرح عائد متصور ہوتے ہیں جس طرع حالت مرض میں۔ حق کے تعلق اور ثبوت میں فرق ہے، نیز جب انسان کا مال اپنی اور اپنی زیر پرورش عیال سے زائد ہو اور دیگر اقرباء اس زائد کے حاجت مند ہوں تو یہ مال حاجت میں شامل ہوگا۔

ایک اور فرق :

جو ہبہ زندگی میں منعقد ہوتا ہے اور قبضہ دہی کے بعد مکمل صورت اختیار کر لیتا ہے وہ اسی ہبہ سے کلینا میز اور مختلف ہے جو ایک شخص از روئے وصیت کسی دوسرے شخص کے نام ہبہ کرے۔ پہلی صورت ہبہ محض کی ہے جب کہ دوسری صورت میں اسے وصیتی ہبہ کہا جاتا ہے اور اس سے وصیت کے احکام متعلق ہو جاتے ہیں نہ کہ ہبہ کے۔ چنانچہ وہ ہبہ جو وصیتی ہبہ سے میز اور مختلف ہے حنفیہ کے نزدیک کل جائیداد کے متعلق ہو سکتا ہے۔ اس میں وارث اور غیر وارث اور قرابت دار یا اجنبی کی کوئی تخصیص نہیں۔ دراصل شریعت اسلام کا منشاء اور مقصود یہ ہے کہ وصیت کنندہ اپنے فعل سے اپنی جائیداد سے متعلق ورثاء کے حقوق کو صرف ایک تھائی کی حد تک متاثر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ وصیت کنندہ کے اس فعل کا

اثر اس کی وفات کے بعد سرتب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت یعنی وفات کے بعد فوراً ہی ورثاء کا حق متوفی کے ترکے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایک مسلمان اپنی زندگی میں بلاحدید (without restriction) بہ کر سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض صورتوں میں اس کا یہ فعل دیانتاً غیر مستحسن یا مکروہ قرار دیا جائے یا شریعت نے اس کے فعل کو برا کھا ہو لیکن قضاء اس کا فعل بہ جائز متصور ہو گا ائمہ ثلاثہ کے نظریہ کے بموجب عدالتیں محفوظ اس بناء پر اس بہے کو رد کرنے کی مجاز نہ ہو گی کہ وہ بہ ایک تہائی سے زائد یا بوری جائیداد کا ہے یا کسی اجنبی کے نام ہے یا کسی وارث کے نام ہے یا یہ کہ کسی ایک بیٹے کو دوسرے ورثاء کے مقابلے میں زیادہ یا کل جائیداد بہ کر دی گئی ہے۔

تجزیہ :

تفضیلی بہ مقدمین قفہاء کے نزدیک کلیتاً جائز ہے البته امام ابو یوسف سے ایک روایت اس کے واجب الرد ہونے کی اس صورت میں منقول ہے جب کہ والد نے اپنے تفضیلی عمل سے دوسری اولاد کو ضرر پہنچانے کی نیت سے بہ کیا ہو۔ اسی طرح متاخرین کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں کہ فاسق و فاجر (اولاد) کو محروم کر دے اور ایک سید و عالم کو بہے کر دے۔^{۸۶} یہ بھی صحیح ہے کہ ایسا بہ مکروہ تحریمی کے درجہ میں ہے۔^{۸۷}

درactual اولاد کو بہ کرنے کے سلسلے میں متعدد صورتیں وجود میں آ سکتی ہیں، ضروری ہے کہ ان ممکنہ صورتوں اور ہر صورت ممکنہ کے ساتھ اس کے حکم کی وضاحت کر دی جائے۔

(۸۶) بدانع الصنائع، امام کاشانی، مطبوعہ مصر ۱۳۲۸ھ، جلد ۷ صفحہ ۱۲۲

(۸۷) البحر الرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ھ، جلد ۲، کتاب الہبہ

۱ - یہ کہ واهب اپنے کل مال سے اس کچھ حصہ جو ایک تہائی یا اس سے کم مقدار میں ہو اپنی صحت و تدرستی کی حالت میں اپنی بعض اولاد کو یہ نیت رکھتے ہوئے کہ دیگر اولاد کو آئندہ اسی طرح ہبہ کرے گا، ہبہ کر دے، اور مسحوب لہ کا بلا واسطہ یا بالواسطہ اس پر قبضہ ہو جائے، حتیٰ کہ واهب مرض موت میں مبتلا ہو جائے اور دیگر اولاد کو ہبہ نہ کر سکے۔

۲ - یہ کہ واهب اپنی ایک یا بعض اولاد کو ان کی کسی خاص صفت (علم و فضل، خوش خوف، حسن خلق و عمل) وغیرہ کی بناء پر اپنے کل مال سے مذکورہ مقدار میں ہبہ کر کے دوسری بعض اولاد پر ترجیح دے، اور مسحوبہ پر مسحوب لہ کا اصلناً یا ولایتاً قبضہ ہو جائے۔

۳ - یہ کہ واهب اپنے بعض اقرباً و رشتہ داران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے مال کی مذکورہ مقدار کا ہبہ کر دے اور ساتھ ہی یہ نیت بھی ہو کہ آئندہ زمانے میں موقع پا کر دوسری کو بھی ہبہ کرے گا اور مسحوب لہ کا قبضہ ہو گیا ہو یا یہ کہ نیت کا وجود نہ ہو۔
ان تمام مذکورہ بالا صورتوں میں ہبہ مکمل و تام اور ناقابل رجعت ہوگا۔

۴ - یہ کہ واهب کی بعض اولاد کی اپنی چالائی سے مذکورہ مقدار کا ہبہ کرالیے اور اس پر قبضہ کر لے حتیٰ کہ اسی حالت پر واهب کی موت واقع ہو جائے، اس صورت میں واهب کے لئے علم اور قدرت حاصل ہونے پر مستحب یہ تھا کہ اپنے ہبہ سے رجوع کر لیتا، بصورت ثانیہ ہبہ تام ناقابل رجعت ہو جائے گا۔

۵ - یہ کہ مذکورہ بالا تمام صورتوں میں اپنے مال کا نصف یا اس سے کچھ زیادہ حصہ ہبہ کیا گیا ہو، ایسی حالت میں بھی واهب کے لئے

رجوع کر لینا مناسب ہوگا، لیکن اگر نہ کیا اور موت کا وقت آگیا تو ہبہ تام و مکمل ہوگا۔

۶ - یہ کہ واہب اپنی صحت و تندرسی کی حالت میں اپنی کسی اولاد کی چالاکی و جبر کی بناء پر اپنے کل مال کا ہبہ کر دے تو واہب کے انتقال کے بعد موہوبہ متروکہ متصور ہوگا، کیونکہ یہ اکراہ کی صورت ہوگی۔

۷ - یہ کہ واہب برضاء و رغبت یا اپنے رشته دار وغیرہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے تمام مال کا ہبہ کسی کے نام کر دے اور موہوبہ کا قبضہ بھی ہو جائے اور واہب اسی حالت میں مرض موت میں مبتلا ہو جائے، اور موہوبہ بحالہ موجود ہو۔

۸ - یہ کہ مستہلہ (۷) ہی ہو لیکن موہوب لہ کا قبضہ موہوبہ پر نہ ہوا ہو۔

ان دونوں صورتوں میں ہبہ قابل ابطال و قابل رد ہوگا۔ حاکم وقت کا فرض ہوگا کہ ہبہ کو باطل قرار دے کر میت کا متروکہ قرار دے دے۔ چنانچہ اس وقت مذکورہ متصوروہ صورتوں میں سے جو صورتیں زیر بحث ہیں وہ صرف آخری دو صورتیں (۷) اور (۸) ہیں۔ جہاں تک ہماری عقل و فہم کا تعلق ہے ان ہی دونوں صورتوں میں ائمہ سلف کا وہ اختلاف ہے جس کو ہم نے مذکورہ بالا صفحات میں تفصیلاً بیان کیا ہے اور یہی وہ دو صورتیں ہیں جن سے دیگر مستحق اولاد کا مکمل طور پر حق متاثر ہوتا ہے اگرچہ بظاہر انسان اپنے حق انفرادی و ملکیت شخصی کے لحاظ سے اپنی صحت و تندرسی میں ہر قسم کے تصرفات کا حقدار متصورو ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ اپنا مملوکہ مال کسی کنوئی یا سمندر میں یا برس را بھینک دے، لیکن حقیقت شرعیہ امن کے خلاف ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کی شخصی ملکیت کو تسلیم ضرور کیا ہے لیکن اس حد تک آزادی

نہیں دی ہے کہ وہ صحیح معنی میں آزادی کی حدود سے بھی تجاوز کر جائے اور اس شخصی ملکیت کے تصور سے آزادی کی حدود سے آگے بڑھ کر ظلم کی حد میں داخل ہو جائے یا ایک عاقل و بالغ انسان کی حد سے تجاوز کر کے ایک مجنون بلکہ ایک چوبیائے کی حد میں داخل ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ایسی مروی ہے جس سے انسان کی ملکیت شخصیہ کا واضح ثبوت موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے!

”کل ذی مال احق بمالہ“ ایک رسول حدیث کا متن ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب مال اپنے مال میں تصرف کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا چاہے تصرف کرے تو پھر اس حدیث کے عموم کی بناء پر وہ تمام تصرفات جائز قرار دئے جائیں گے جو شرعاً منوع کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہو گا کہ جن تصرفات کو شرعاً منوع قرار دیا گیا ہے (خواہ یہ ممانعت کتاب اللہ سے کی گئی ہو یا سنت ہے) اور اس حدیث کے عموم میں داخل نہیں بلکہ مستثنی ہیں۔ ان منوعات کو چھوڑ کر انسان اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا حق رکھتا ہے۔ لہذا ان منوعہ امور میں سے ایک اس قسم کا ہبہ بھی ہے جس سے دوسرے اقرباء کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقدار بنا دئے گئے ہوں، حق متاثر ہوتا ہو اور بوجود مستحق ہونے کے غیر مستحق قرار دئے جاتے ہوں۔ بدین وجہ جمہور صحابہ و ائمہ مجتہدین سوانح ابراهیم غنی و ابن سیرین و ابوحنینہؓ کے اس امر کے قائل ہیں کہ اگر کوئی عاقل بالغ شخص اپنے تصرفات میں اسراف و تبذیر اختیار کرتا ہو تو امام اس کو محجور کر دے یعنی اس کے تصرفات لین دین پر پابندی عائد کر دے اور اس حکم میں امام ابوحنینہؓ کے ہر دو شاگرد امام ابویوسف و امام محمد نے جمہور فقہاء کی موافقت کی ہے۔ ان کے تزدیک ایک مسروف و مبدز کے ناجائز تصرفات پر پابندی عائد کر دینا جائز ہے۔ چنانچہ علامہ ابن

حجر عسقلانی نے ان حضرات و دیگر صحابہ و ائمہ کا مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا ہے : ”قال الطبری بعد ان حکم اقوال المفسرین فی المراد بالسفهاء الصواب عندها انها عامة فی حق کل سفیہ ، صغيراً کان اوکيراً ذکراً کان او انشی والسفیہ هو الذی یضیع المال و یفسدہ ، بسو تدبیره“ یعنی ”ولاذتوا السفهاء اموالکم“ کی تفسیر میں علامہ طبری نے مفسرین کے اقوال نقل کر کے فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک صحیح و صواب یہ کہ یہ آیت ہر سفیہ کے حق میں عام حکم دیتی ہے کہ ان کو تصرفات میں پابند رکھا جائے خواہ وہ نابالغ ہو یا بالغ ہو مرد ہو یا عورت ہو ، سفیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مال کو ضائع کرے یا اس کو فساد کا ذریعہ بنائے اور صحیح تدبیر کے ساتھ تصرف نہ کر سکے ۔

امام بخاری رحم نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس سلسلہ میں ایک باب مقرر کرتے ہوئے فرمایا ہے : ”باب ما ینہی عن اضاعة المال و قول الله تبارک و تعالیٰ والله لا یحب الفساد ، ولا یصلح عمل المفسدين و قال في قوله تعالیٰ أصلوتك تامرک ان تترك ما یبعد آباؤنا اوان ن فعل في اموالنا ما نشاء قال تعالى ولا تؤدوا السفهاء اموالکم ولحرفي ذلك وما ینہی عن الخداع“ ۔ امن باب کی تشرعی میں علامہ ابن حجر نے تحریر فرمایا ہے : ”قوله اصلوتك تامرک الى قوله ما نشاء قال المفسرون كان ینہی هم عن افسادها فقاولو ذلك ان شتناحفتنا هاون شناطر حناها“ یعنی امام بخاری نے : ”اصلوتك تامرک الآیہ“ والی جو آیت پیش کی ہے یعنی اے شعیب“ کیا تہماری نماز ہم کو یہ حکم دیتی ہے کہ جن معبدوں کی عبادت ہمارے آباء کرتے چلی آرہے تھے ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں اور اپنے شخصی مملوکہ مال میں جو کچھ کرنا چاہیں وہ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں ۔ مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت شعیب مال میں فاسد طریقہ اختیار کرنے سے ان کو منع فرمائے تھے اس لئے ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا دل جائے گا

تو محفوظ رکھیں گے اور صحیح طریقے پر صرف کریں گے اور اگر دل چاہے گا تو پہنچ دیں گے (تم ہم پر پابندی لگانے والے کون ہوتے ہو)۔

اس کے بعد ابن حجر نے مذکورہ باب کے اس جملے کی: ”والحجر في ذلك“ کی تفسیر میں لکھا ہے ”والحجر في اللغة المنع وفي الشرع : المنع من التصرف في الال فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه و تارة لحق غير المحجور عليه . والجمهور على جواز الحجر على الكبير ، و خالف ابو حنفیه وبعض الظاهریه و وافق ابو يوسف و محمد . قال الطحاوی لم ارى احد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولو لاعن التابعين الا عن ابراهیم التخنی و ابن سیرین“ یعنی حجر کے معنی لغت میں منع کر دینا اور شریعت میں مال میں تصرف کرنے سے روک دینا ہے لہذا یہ عمل کبھی تو محجور علیہ کے حق کی حفاظت کی بنا پر کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے غیر کے حق کی حفاظت کی بنا پر کیا جاتا ہے - جمهور فقهاء کا مسلک یہ ہے کہ بالغ پر حجر (پابندی) کا عمل جائز ہے اور ابو حنفیہ و بعض ظاهریہ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور ابو یوسف راجہ اور امام محمد رضا نے جمهور کی موافقت کی ہے (کہ پابندی لگانا جائز ہے) - امام طحاوی نے فرمایا کہ صحابہ میں سے مجھے کسی کی ایسی روایت معلوم نہ ہو سکی جس سے یہ معلوم ہوتا کہ ان کے نزدیک ایک بالغ شخص پر پابندی لگانا جائز نہیں اور نہ تابعین میں سے سوائے ابراهیم تھی اور ابن سیرین کے کسی کا قول مل سکا ۔

امام بخاری نے مذکورہ بالا باب کے تحت حضرت مسیحہ بن شعبدرضا کی ایک یہ حدیث روایت کی ہے : ”قال النبي صلعم ان الله حرم عليكم عقوبة الامهات ، ووأدالبنات ، ومنع وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثيرة السوال ، واضاعة الال“ یعنی نبی (صلعم) نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماوہ کو عاق کر دینا ، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا دوسرے کو نہ دینا ، اور خود اس سے مانگ لینا حرام فرمایا ہے اور (اسی طرح) تمہارے حق میں یہ

برا سمجھا ہے کہ قیل و قال کرو ، سوال میں زیادتی کرو اور مال کو ضائع کرو ۔

اس حدیت کے تحت علامہ ابن حجر نے فرمایا ہے: ”والقصد من ایراد هذا الحديث هنا قوله فيه : اضاعة الہل ، وقد قال الجمهور ان المراد به السرف في اتفاقه وعن سعید بن جعفر الفاقه في العرام“ یعنی اس باب میں اس حدیت کے لانے سے یہ مقصود ہے کہ باب کے عنوان میں بخاری مال کے ضائع کرنے کا ذکر فرما چکے ہیں ، جمہور علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے خروج کرنے میں اسراف کرنا مراد ہے ۔ اور حضرت سعید بن جعفر سے مروی ہے کہ حرام طریقے پر صرف کرنا مراد ہے ۔^{۸۸}

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مذکورہ حدیث کو کتاب الادب میں بھی روایت کیا ہے ۔ اس مقام پر علامہ ابن حجر نے ”اضاعة الہل“ کے تحت خاصی تفصیل سے گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ ان الفاظ سے ادا ہو جاتا ہے: ”والاقوی انه ما اتفق في غير وجه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينية او دنيوية فمنع منه لأن الله تعالى جعل الہل قياماً لمصالح العباد وفي تبذرها تقويت تلك المصالح“ یعنی قوی تریہ معنی ہیں کہ مال کو ایسے امور میں صرف نہ کیا جائے جس کی شریعت نے اجازت نہ ذی ہو خواہ یہ ضرورت دینی ہو یا دنیاوی ، ایسے تصرف سے انسان کو روک دیا جائے گا ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنے بندوں کے قیام مصالح کا ذریعہ مقرر فرمایا ہے اور یہجا صرف کرنے سے یہ مقصود فوت ہو جاتا ہے ۔^{۸۹}

صاحب تفسیر کشاف نے ”ولا تبذیر تبذیراً“ آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے: ”تبذیر ، تفرقی الہل فیالا یتبذی و اتفاقہ علی وجه الاسراف“ ۔ اس عبارت کی ایک سطر کے بعد لکھا ہے: ”وعن عبد الله: هو اتفاق الہل

(۸۸) فتح الباری ابن حجر عسقلانی، مطبوعہ مصر ۱۹۵۹ع، جلدہ، صفحہ ۳۶۵-۶۶

(۸۹) فتح الباری ابن حجر عسقلانی، مطبوعہ مصر ۱۹۵۹ع، جلدہ، صفحہ ۱۳

فی غیر حقه و عن مجاهد : لو انفق مداً فی باطل کان تبذرًا ، وقد نفق بعضهم نفقة فی خیر فاکثر فقال له صاحبه لا خير في السرف فقال لاسرف في الخير ، - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد وهو يتوضأ قال ما هذا السرف يا سعد قال اوفى الوضوء سرف ؟ قال نعم و ان كنت على نهر جار ” يعني تبذير مال کو متفرق کر دینے کا نام ہے - ایسے طریقہ پر جو غیر مناسب ہو - اور جس کو اسراف کہا جاتا ہو - حضرت عبد الله سے مروی ہے ، غیر حق میں مال کو صرف کر دینا تبذیر ہے ، حضرت مجاهد سے منقول ہے اگر کسی شخص نے ایک مل باطل میں خرج کیا تو یہ بھی تبذیر ہوگی ، ایک شخص نے کسی عمل خیر پر بہت زیادہ مال صرف کر دیا ، اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ اسراف کے طریقہ پر صرف کرنے میں خیر نہیں ہے - خرج کرنے والے نے جواب دیا عمل خیر پر صرف کرنے میں اسراف نہیں ہوتا اور عبد الله بن عمر سے مروی ہے فرمایا ، کہ حضرت سعد رضي الله عنه وضو کر رہے تھے اتنے میں حضور رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اس طرف سے گزر ہوا - آپ نے ان کے وضو کرنے کو ملاحظہ فرمائے ارشاد فرمایا : ”اے سعد یہ اسراف کیسا ؟ ” حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول الله کیا وضو (عمل خیر) میں بھی اسراف ہو سکتا ہے ، حضور نے فرمایا ہاں اگر تم جاری نہ کے کنارے پر بھی ہو ۔^{۹۰}

بھی مضمون علماء یضاوی نے اپنی تفسیر کے صفحہ ۲۷۹ میں بیان کیا ہے ”بلکہ (لاتو) توا السفهاء اموالکم“ والی آیت کی تفسیر میں علماء یضاوی نے فرمایا ہے ، ”وقيل نبی لکل احдан يعمدال ماخوله الله تعالى من البال فيعطي امراته وأولاده ثم ينظر الى ايديهم واتماما لهم سفهاء استخفافاً بعقلهم واستهجاناً لجعلهم قواماً على انفسهم وهوافق لقوله تعالى (الى جعل الله لكم قياماً) ای تقومون بها وتنتشرون“ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے

(۹۰) تفسیر کشاف ، مطبوعہ بیروت ، جلد ۴ ، صفحہ ۶۶۱

هر شخص کو منع کیا گیا ہے جو اللہ کی عطاے کی ہوئی نعمت غیر مترقبہ مال کو اپنی بیوی یا اولاد کو (کلام) دے ڈالتا ہے اور پھر خود ان کا دست نگر ہو جاتا ہے ان کو ان کی عقل کی خفت اور اس مال کو جو ان کی زندگی کے قیام کا سبب ہے، حقیر سمجھ لینے کی وجہ سے ان کو سفیہ فرمایا گیا ہے۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے آئندہ ارشاد ”اللّٰهُ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا“ کے زیادہ موافق ہے، یعنی مال پر ان کی زندگی کا مدار ہے اسی کے ذریعہ معاش حاصل ہوتی ہے ۹۱۔

تفسیر المغاریب علامہ عبدہ نے آیت ”مَنْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَسْرَفُونَ“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے : (والاسراف مجازة الحد في العمل اي حد الحق والمصلحة ، ويعرف ذلك بالشرع في الامور الشرعية وبالعقل و العرف في غير ذلك وفي القوم الذين ليس لهم شرع ، كل ما يتجاوز فيه الحد يفسد ، والاصل في معنى الاسراف الافساد فهو من السرفة وهي (بالضم) الدودة التي تأكل الشجر و الخشب ، اذا كان الاسراف في فعل الخير يجعله شرآ كالنفقة الواجبة والمستجدة التي تذهب بالمال كله فتفسد على صاحبها امر معاشه فما بالك بالاسراف في الشر“ یعنی کسی عمل میں حد سے تجاوز کر جانے کو اسراف کہتے ہیں۔ گویا جب حق اور مصلحت کی حد سے تجاوز کیا جائے، جنچہ امور شرعیہ میں یہ تجاوز کرنا شریعت کے ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور غیر شرعی امور میں یا ایسی قوم کے معاملات میں جن کے پاس کوئی شریعت نہ ہو، ان کے عرف و عقل سے سمجھ لیا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو حد سے تجاوز کر جائے فساد پیدا کر دیتی ہے، اور اسراف کا اصلی معنی فساد پیدا کرنا ہی ہے۔ چنانچہ یہ لفظ ”سرفة“ سے مشتق ہے، اور سرفہ اس کہیتے کو کہتے ہیں جو درخت اور لکڑی کو کھا جاتا ہے، جب کسی فعل خیر میں اسراف اختیار کیا جائے گا اس فعل کو یہ اسراف

(۹۱) تفسیر بیضاوی ، مطبوعہ مصر ، جلد اول ، صفحہ ۱۴۷

شر بنا دے گا۔ جس طرح کہ نفقہ واجبہ یا مستحبہ میں تمام مال کو صرف کر دیا جائے، تو انسان کے معاشی امور میں فساد کا باعث ہو جائے گا۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ جب اسراف کا عمل کسی فعل شر کے سلسلہ میں ہوگا تو اس کا کیا درجہ ہوگا۔ ۹۲

اقوال ائمہ سلف اور مندرجہ بالا مباحثت کے مطابق سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ جمہور ائمہ اعمال خیر میں حد سے تجاوز کر جانے کو مذموم اور اس حد تک ناجائز تصور کیا ہے کہ ایسے شخص کو مجبور تک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیز سنت سے ایسے متعدد واقعات ثابت ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے تجاوز کرنے والے شخص کے عمل کو رد فرما دیا ہے حالانکہ اس کا وہ عمل تقرب الی اللہ کے حصول کا ذریعہ تھا۔ مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہوئے یہ کیا ہے کہ بنی عذرہ کے ایک شخص نے اپنا ایک غلام مدبر کر دیا (یعنی آمن سے کہہ دیا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوگا۔ حضور (صلعم) نے اس شخص سے فرمایا، کیا اس غلام کے ماسوا تمہارے پاس اور مال بھی ہے؟ امن شخص نے عرض کیا نہیں۔ حضور نے اس غلام کو فروخت (نیلام) کر دیا اور نعیم بن عبد اللہ بن خام نے آنہ سو درهم میں اس کو خرید لیا۔ یہ رقم آنحضرت (صلعم) نے اس شخص کو دے کر فرمایا: ”امن رقم سے اولاً اپنی ذات پر صرف کرو اس کے بعد جو باقی رہے وہ اپنے اہل برخچ کرو اگر آن سے کچھ باقی رہے تو دوسرا رشتہ داروں پر خرج کرو پھر اگر آن سے بھی بچ رہے تو ادھر ادھر صدقہ کرو۔“ ۹۳

حضرت محمود این لبید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اللہ کے

(۹۲) تفسیر المنار، مطبوعہ مصر، جلد ۳، صفحہ ۳۵۱

سورة مائدہ، صفحہ ۳۶

(۹۳) مسلم، مطبوعہ مصر ۱۹۲۷ع، جلد ۲، صفحہ ۸۳

برابر سونا لے کر حاضر ہوا ، عرض کیا رسول اللہ یہ میرا کل مال ہے جس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں میں اسے کو صدقہ کرتا ہوں۔ آنحضرت (صلعم) نے اس کو دست مبارک میں لے کر اتنی زور سے دور پہنیا کہ اگر ان شخص کے لگ جاتا تو بڑی چوٹ آتی۔ فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنا تمام مال لے کر چلا آتا ہے ، اور (اس کو صدقہ کرنے کے بعد) دوسروں کے لیے اپنے آپ کو بوجہ بنا دیتا ہے۔^{۹۳}

خلاصہ یہ ہے کہ جب صحابہ و تابعین وما بعد کے آئندہ و قلمباء نے حدیسے متجاوز عمل میں ایک عاقل بالغ مسرف شخص کے تصرفات پر پابندی عائد کر دینا جائز اور شریعت اسلامیہ کا عین منشا تصور کیا ہے تو عمارے موجودہ مسئلہ میں تو صرف اس کے ایک خصوص فعل کا رد یا باطل کرنا پیش نظر ہے نہ کہ تمام تصرفات پر پابندی عائد کر دینا۔ انسان کی اپنی شخصی ملکیت کی اثر اندازی اس حد تک صحیح ہوگی جس حد تک خود انسان کی اپنی اور اپنے اقرباء کی زندگی یا معاشی حالات کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس سے متجاوز ہو کر ناقابل قبول ہوگی۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی زندگی و صحت کی حالت میں اپنی کسی ایک اولاد کو اپنے کل مال یا مال کا اتنا زائد حصہ ہبہ کر دیتا ہے جو عام نظر میں ظلم قرار پاتا ہے ، اور اس ہبہ کے تھوڑے عرصہ بعد ہی داعی اجل کو لیکر کمہ دینا ہے، جبکہ موهوبہ اپنی اصلی حالت پر باقی موجود ہوتی ہے ، کیوں کہ موهوبہ کو متروکہ قرار دینے کا کوئی مانع موجود نہیں ہوتا، یا قبل موت رجوع کرنے کا کوئی مانع موجود نہیں ہوتا اور اس کی دیگر مستحق اولاد کو اسی ہبہ سے ضرر پہونچنا یقینی ہوتا ہے ، یا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واہب کی نیت ہی نیک نہ تھی یا اس کی مثل دیگر صورتوں میں ہبہ قابل ابطال کرا لیا تھا تو ایسی یا اس کی مثل دیگر صورتوں میں ہبہ قابل ابطال

(۹۳) المعلی ، ابن حزم ، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ھ ، جلد ۶ ، صفحہ ۱۶۸

ہوگا۔ اوز حاکم وقت کو ایسے ہبہ کو باطل کر کے متروکہ میں شامل کر دینے کا اختیار حاصل ہوگا۔

البتہ اگر ہبہ کر دینے کے بعد واہب اتنا عرصہ زندہ رہا کہ آس کو اپنے ذرائع معاش سے مزید دولت حاصل کرنے کا موقع ملتا رہا اور مسوہب نہ نے مسوہبہ میں مالکانہ تصرفات کر ڈالیے حتیٰ کہ ہبہ اور مسوہبہ کا تصور ہی غائب ہو چکا تو ایسی حالت میں متروکہ قرار دینے یا رجوع کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اگر اس نوعیت کے تصرفات کو باطل اور رد کرنے کا عمومی حکم لگا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ انسان کے مالکانہ حقوق کلیہ سلب ہو جائیں گے اور ہر تصرف معرض خطر میں ہوگا، بلکہ ایسے موقع پر حاکم مجاز کو واہب کے تمام فطری اوصاف و خاندانی و خانگی و معاشری حالات پیش نظر رکھ کر جائزہ لینا ہوگا جس طرح کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے بعض مواقع میں جائز رکھا اور بعض مواقع و حالات میں باطل قرار دیا۔

علامہ شلتوت کا فتویٰ:

متعدد عرب جمہوریہ (مصر) کے علامہ محمود الشلتوت نے بھی ہبہ تفضیل کے مسئلہ میں نہایت سخت الفاظ میں ہبہ تفضیل کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے اپنی کتاب فتاویٰ الشلتوت (صفحات ۳۳۸-۳۳۹) میں لکھا ہے کہ: ”قانون حجر علی السفیہ یعنی وہ کم عقل جو اپنے مال کو ضائع کرتا ہو یا ایسے موضع پر صرف کرتا ہو جو صرف کا محل نہ ہو تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے باز رکھا جائے۔ اسی طرح ایک مقروض کو دائنین کے حقوق کی حفاظت کے لیے مالی تصرف سے روک دینا جائز ہے۔ لہذا میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایسے آباً اجداد جو اپنی اولاد کو فتنوں میں بیتلہ کر دین اور

خالدانی حالات کو اپنے کر دین اور بعض کو محروم کر کے ان کی طبعی اجتماع کی عمارت کو گرا دین ، یا بغیر معقول سبب کے بعض کو بعض پر فضیلت دین ، ان کو (بیرے عقیدے میں) محجور کر دینا (روک دینا) اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے ۔

علامہ شلتوت نے عام مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے اور اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لینے کی نصیحت کرتے ہوئے آخر میں قانون سازوں (افراد یا اداروں) سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ :

”اے قانون بنانے والو ! تم آمت کی حفاظت کے لیے مقرر کیسے گئے ہو - اپنی آمت کی حفاظت کرو اور ایسے قوانین مقرر کرو جو عادلانہ حکمت پر مبنی ہوں ، جو مفسدین اور تحریب کرنے والوں کی دست و بردا سے پاک ہوں - ہم اللہ سے ایسی توفیق کے طالب ہیں جس سے آمت کی حیات ، طبعی تقاضوں کی حفاظت اور عزت کی سلامتی حاصل ہو سکے ۔“

عدالتی نقطہ نظر :

جسٹس کیکاؤس اور جسٹس اخلاق حسین نے بمقدمہ شفیق اللہ بنام جبار مندرجہ پر ایل ڈی ۱۹۵۵ع لاہور صفحہ ۱، قرار دیا کہ اسلامی قانون کے تحت مسلمان پر اس کی جائیداد کے انتقال کے سلسلے میں جو واحد تحدید (بندش) عائد کی گئی ہے وہ وصیت اور ہبہ بحالت مرض الموت سے متعلق ہے - دوسری صورتوں میں مسلمان کا اپنی جائیداد کو منتقل کرنے کا اختیار غیر مقید ہے - چنانچہ ایک مسلمان کا بعض ورثا کے حق میں ہبہ کرنا جس میں کہ دوسرے ورثاء کو نظر انداز کیا گیا ہو جائز ہو گا اس کا یہ فعل کہ وہ اپنے کچھ یا سب بیووں کو محروم کر دے اور اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بذریعہ ہبہ منتقل کر دے ، غیر مستحسن ہو گا ۔

لیکن قرآن پاک میں اسیہ ہبہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا الیہ کہ وہ شخص مرض الموت میں مبتلا ہو۔ اس فیصلے میں فاضل ججان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے (بمقدمہ سردار احمد بنام شہرت خان مندرجہ پی ایل ذی ۱۹۵۰ع، پشاور، صفحہ ۵۸۵^{۹۳}) سے اختلاف کیا جس میں اسیہ ہبہ کو ناجائز کہا گیا تھا۔

نتیجہ فکر :

مندرجہ بالا مباحثت کا دقت نظری کے ساتھ جائزہ لینے کے بعدم اس نتیجہ برپہنچتے ہیں کہ ہبہ تفضیلی کو قابل ابطال (voidable) قرار دیا جائے، الیہ کہ اس کی بنیاد مصلحت شرعی پر ہو مثلاً باپ فاسق و فاجر اولاد کو محروم کر دے اور ایک سعید و صالح اولاد کو ہبہ کر دے۔ ہبہ تفضیلی کی صورت میں اولاد محروم کو یہ حق ہو گا کہ وہ اس ہبہ کو بذریعہ عدالت باطل قرار دلائے اور اگر عدالت واہب کے فعل کو لازم قرار دینے کے لیے کوئی شرعی مصلحت نہ پائے تو اسے اختیار ہو گا کہ واہب کو اپنے ہبہ سے رجوع کرنے کا حکم دے۔ عدم تعییل کی صورت میں ہبہ کو غیر نافذ قرار دے دے کیونکہ عدالت اس امر کی مجاز ہے کہ فریق مقدمہ پر کسی امر کو جو اس کے ذمہ واجب ہے انکار کی صورت میں شیئے موهوبہ کو حسب قانون وراثت ورثاء میں تقسیم کر دے۔ البته اس ضمن میں ”ہبہ کے رجوع“ کے احکام مندرجہ دفعہ ۱۷۹ کا لحاظ رکھنا ضروری ہو گا۔

ہبہ تا حین حیات ۱۷۳ - (۱) ہبہ حین حیات جائز ہے

(۲) جو شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی شیئے تا حین حیات

ہبہ کرے تو وہ شیئے موهوبہ لہے کے لیے اس کی حیات تک ہو گی اور اس

(۹۳) سردار احمد خان بنام شہرت خان، پی ایل ذی ۱۹۵۰ع صفحہ ۵۸۵

کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی قرار ہانے گی اور تاحین حیات کی شرط باطل قرار ہانے گی ۔

تفسیر

”عمری“ اور ”عطیہ“ کے الفاظ ہبہ کے درجہ میں ہیں ، کیونکہ یہ سب الفاظ ایک معنی سے عبارت ہیں اور وہ ہے ہبہ کے طریقے پر مالک بنانا۔ فقہی اصطلاح میں حین حیات ہبہ کو ”عمری“ کہا جاتا ہے ۔ از روث شرع حین حیات ہبہ جائز ہے ۔^{۹۵}

حین حیاتی ہبہ ، جس کو فقه اسلام میں ”ہبہ عمری“ کہا جاتا ہے ، یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شئی کو اس شرط کے ساتھ ہبہ کرتا ہے کہ شخص موہوب لہے اس شئی کا تاحیات مالک رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد وہ شئی ہبہ کرنے والی کو لوث جائے گی ۔ از روث شرع اسلام ایسا ہبہ جائز ہو گا ، لیکن شخص موہوب لہے کی وفات کے بعد اس شئی کی ملکیت ہبہ کرنے والی کو نہیں لوث سکتی بلکہ موہوب لہے کے وارت اس کے مستحق ہوں گے ۔

اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس شرط پر ہبہ کرے کہ جب وہ مرسے تو وہ شئی واہب کو واپس ہو جائے گی ، ایسی صورت میں ہبہ جائز ہو گا مگر شرط باطل ہو گی ۔^{۹۶} اس کی بنیاد وہ حدیث ہے جو حضور (صلعم) سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے عمری کو جائز اور شرط کو باطل

(۹۵) المختصر القدوری ، مطبوعہ قرآن محل کراچی ، صفحہ ۱۳۰

الاختیار لتعلیل المختار ، عبداللہ بن محمود بن مودود (۵۶۸۳) مطبوعہ مصر ۱۹۵۱ ، جلد ۳ ، صفحہ ۵۳

(۹۶) هدایہ ، برهان الدین مرغیانی (۵۹۳) مطبوعہ سعیدی قرآن محل ، جلد ۳ ، صفحہ ۲۹۲

الاختیار لتعلیل المختار عبداللہ بن محمود بن مودود (۵۶۸۳) مطبوعہ مصر ۱۹۵۱ ، جلد ۳ ، صفحہ ۵۳

جمع الانہر داماد آفندی (۱۰۰) مطبوعہ مصر ۱۳۲۸ھ جلد ۳ ، صفحہ ۳۶۶

قرار دیا ہے۔ یعنی موهوب لہ کی موت کے بعد شئے موهوبہ کا وابہ کی طرف لوٹ جانے کی شرط کو باطل فرمایا۔

بر ابتدائی استحسان اس کی بنیاد اس اصول پر قائم ہے کہ موهوب لہ کو شئے موهوبہ کا کامل حق اور اختیار حاصل ہو جائے اور کوئی شرط جو اس کے حق کی تکمیل یا اختیار استعمال (بسمول فروخت وغیرہ) میں رکاوٹ کا موجب ہو باطل قرار دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہبہ کا قانونی اثر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے حق میں حین حیاتی ہبہ کیا جاتا ہے وہ اس شئے کا قطعی مالک ہو جاتا ہے۔

احادیث سے استناد :

تا زندگی کسی شئے کے ہبہ کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ (صلعم) سے متعدد روایتیں ملتی ہیں، جن کو امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں بیان کیا ہے چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ (صلعم) نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص عمری کرے تو وہ اسی کا ہو جائے گا جسے عمری دیا گیا اور دینے والی کی طرف نہیں لوئے گا۔“

حضرت جابر سے ایک اور روایت بھی امام مسلم نے بیان کی ہے کہ: ” مدینہ منورہ میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو عمری کے طور پر ایک باغ دیا، بعد ازاں وہ بیٹا مر گیا اور پھر وہ عورت بھی مر گئی۔ اس عورت نے اولاد اور بھائی چھوڑے، عورت کی اولاد نے کہا کہ باغ ہماری طرف آگیا اور لڑکے کی اولاد نے کہا کہ باغ ہمارے والد کا تھا اس کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی۔ چنانچہ دونوں نے حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام طارق کے سامنے اپنا قضیہ پیش کیا۔ انہوں نے حضرت جابر کو بلایا۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلعم کے ارشاد پر گواہی دی۔ چنانچہ طارق نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔“

اس کے بعد طارق نے عبدالملک بن مروان کو لکھا اور حضرت جابر کی گواہی کا تذکرہ بھی کیا۔ عبدالملک نے کہا حضرت جابر نے سچ کہا ہے۔ پھر طارق نے حکم جاری کر دیا اور وہ باغ آج تک اس لڑکے کی اولاد کے پاس ہے۔^{۹۴}

شیعی نقطہ نظر :

علامہ نجم الدین ابی جعفر الجلی نے شیعی فقہ پر اپنی مشہور تصنیف شرائع الاسلام کی کتاب السکن و العبس میں لکھا ہے کہ سکنی (کسی کو سکونت کے لیے مکان بخش دینا) وہ عقد ہے جو ایجاد و قبول اور تبضہ کی احتیاج رکھتا ہے اور اس سے کسی کو استیفاء منعٹ پر سع بقاء مالک مسلط کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کے اسے اختلاف نسبت کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں پس جب کہ عمر کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اسی کو عمری کہتے ہیں اور جب کہ اسکان (مکان میں رہنے کی اباحت کرنے) سے متصل کیا جاتا ہے تو سکنی کہلاتا ہے اور جب کسی مدت کے ساتھ متصل ہو تو سکنی اور رقبی کہتے ہیں۔ ”رقبی“ ”ارتقب“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”انتظار“ کے ہیں۔ چونکہ اس معاہدہ میں مدت معینہ کا انتظار کیا جاتا ہے اس لیے اس کو ”رقبی“ کہا گیا اور یا ”رقبہ“ ملک سے ماخوذ ہے، جس سے اعطاء رقبہ ملک مراد ہے۔ چونکہ مالک مکان اس کے رقبہ کو نفع حاصل کرنے کے لیے تامدت معینہ عطا کر دیتا ہے اس لیے اس کو رقبی کہنا صحیح ہوا اس عقد کی عبارت ”اسکنٹک یا اعمیر تک یا رقبتک“ ہے الدار یا هذه الارض یا هذه المسكن عمرک یا عمری یا مدة معینه“ یعنی میں نے تجوہ کو یہ مکان یا یہ زمین یا یہ مسکن یعنوان عمری یا یعنوان رقبی تیری عمر یا فلاں مدت تک دے دیا ہے۔ اور علاوہ اس کے جو عبارت اس

(۹۴) صحیح مسلم، امام مسلم، مطبوعہ مصر، جلد ۱۱
کتاب الہبات، صفحات ۶۹-۷۲

مطلوب کو مفید ہو گی وہی کاف ہو گی اور یہ عقد قبضہ دینے سے لازم ہو جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اگر قصد قربت کا ہو گا تو لازم ہو گا ورنہ نہیں، لیکن قول اول زیادہ مشہور اور مختار ہے اور اگر ”لک سکنی“ ہے الدار ما بقیت یا حیثت“ یعنی تجھے کو اس مکان میں اپنی عمر بھر سکونت کرنے کا اختیار ہے کہیے گا تب بھی جائز ہو گا اور حق سکنی (منفعت سکونت) ساکن (سکونت کرنے والا) کی وفات کے بعد علی الاشہہ مسکن (سکنی کا دینے والا) کی طرف عود کریے گا (لوٹ جائے گا) لیکن اگر ”لک سکنی“ ہذا الدار مابقیت فاذامت رجعت الی“ یعنی تجھے کو اس مکان میں اپنی عمر بھر سکونت کرنے کا اختیار ہے لیکن تیرے مرنے کے بعد مجھے واپس مل جائے گی کہیے گا تو قطعاً عود کریے گا اور اگر ”اعمر تک ہذا الدار لک و لعقبک“ یعنی میں نے اس مکان میں تجھے کو اور تیری نسل کو بعنوان عمری کھہا تو عمری ہو گا جب تک ساکن کی نسل باقی رہے گی اس کو سکونت کا حق حاصل رہے گا۔ اولاد کے بینقضی ہونے کے بعد اصل مالک (عمر) کی طرف واپس ہو جائے گا^{۹۸} اور جب کہ سکنی کو کسی مدت تک معین کر دے تو قبضہ دینے سے لازم ہو جاتا ہے اور سکونت کا حق دینے والے کو قبل انقضیاء مدت معینہ اس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اور اگر حق سکنی تا حیات مالک دیا جائے تو موت عمر (جس کے لیے سکونت کا اختیار دیا گیا ہے) کے بعد مالک کی طرف عود نہ کریے گا بلکہ مالک کی حیات تک اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گا اور اگر سکنی کو عمر عمر کے ساتھ مقرر کریے اور وہ مر جائے تو ملکیت اس کے وارث کی طرف منتقل نہ ہو گی، بلکہ مالک کی طرف عود کریے گی اور اگر سکنی کے لیے کوئی مدت معین ہو تو مالک کو ہر وقت اس کے فسخ

^{۹۸} الامتنصار، جعفر بن الحسن الطوسي (۴۰۰ھ)، مطبوعہ خف، جلد ۲، صفحہ ۱۰۳

کرنے کا اختیار حاصل ہو گا اور جس چیز کا وقف کرنا صحیح ہے اس کا بعنوان عمری دینا بھی صحیح ہے جیسے مکان اور ملوك اور اثاث (اسباب) وغیرہ اور بیع سے عقد عمری باطل نہیں ہوتا بلکہ مالک کو اس شرط پر وفا کرنا واجب ہے جو سکان کے لیے ہو چکی ہے (پس صورت بیع میں مالک کو تامد معینہ مشتری سے ساکن کے لیے منفعت سکونت پر وفا کرنے کی شرط کرنا لازم ہو گا) اور اطلاق سکنی فقط ساکن اور اس کے اہل و عیال کی سکونت کرنے کو مقتضی ہے اور ساکن کو علاوہ اپنے اہل و عیال کے کسی اور کا سکونت کرنا جائز نہ ہو گا۔ الا یہ کہ ایسی کوئی شرط موجود ہو تو اور اسی طرح ساکن کو سکنی غیر کا شریک کرنا جائز نہیں ہے جس طرح کہ بلا اجازت مسکن کسی غیر کا شریک کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے کو فسبیل اللہ یا اپنے غلام کو خانہ کعبہ یا مسجد کے لیے وقف کرے تو لازم ہو گا اور تا بقاء عین اس کا متغیر کرنا جائز نہ ہو گا، لیکن اگر کسی شخص پر بلا تعین مدت جس کی جائے تو وہ شے وفات حابس کے بعد میراث ہو جائے گی اور اسی طرح اگر مدت معین ہو اور وہ گذر جائے تو بھی ورثہ حابس کے لیے میراث ہو گی ۹۹

ہبہ رقبی

۱۷۲ - ہبہ رقبی ناجائز ہے -

تشریع

لفظ ”رقبی“ ”مراقبت“ سے مشتق ہے۔ ”ہبہ رقبی“ کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ کر اگر میں تجھ سے پہلے مرا تو یہ چیز تیرے لیے ہے اور تو مجھ سے پہلے مرا تو یہ چیز میرے واسطے ہے۔ اس صورت میں ان دونوں میں ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے۔

(۹۹) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر العلوي (٥٣٤٢)، مطبوعہ بیروت، القسم الرابع،

امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہے رقبی ناجائز ہے اور اس کا حکم عاریت کا ہوگا۔ لیکن امام ابویوسف کے نزدیک ہے رقبی جائز ہے ۱۰۰۔ لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے چنانچہ ایسا ہے ناجائز ہو گا۔

ظاهریہ کے نزدیک ہبہ عمری اور ہبہ رقبی دونوں ہبہ صحیح و تام ہیں اور بعمر یا رقبی کرنے والے کی تمام شرطیں باطل ہوں گی جس کے لیے ہبہ عمری یا ہبہ رقبی کیا گیا ہے۔ اشیاء اس کی ملکیت ہوں گی اور اس کی میرات میں شامل ہو جائیں گی ۱۰۱۔ شیعی نقطہ نظر دفعہ ۱۷۳ کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔

۱۷۵۔ جب کوئی ہبہ معاوضہ کے ساتھ کیا جائے تو وہ ہبہ بالعوض کھلانے گا جو حصول عوض کے بعد نافذ متصور ہو گا۔

ہبہ بالعوض

قشریح

اگر ہبہ بالعوض ہو تو دونوں عوضوں پر قبضہ شرط ہے اور قبضہ کے بعد ہی ہبہ درست ہو گا۔ ہبہ بالعوض کا حکم یعنی کام چنانچہ عیب یا خیار رویت کی بناء پر رد کیا جا سکتا ہے ۱۰۲۔

ہبہ بالعوض وہ ہبہ ہے جو بدل کے معاوضے میں کیا جائے۔ فی الحقيقة یہ ایک قسم کی یعنی (فروخت) ہے اور اس میں معاهده یعنی کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے اس میں تکمیل کے لیے قبضہ دہی کی شرط نہیں ہوئی، جیسا کہ سادہ ہبہ میں لازم ہے۔ مزید برآں اس کے ذریعے سے مشاع جائداد (جائداد کے غیر منقسم حصہ) کا قابل تقسیم حصہ بھی منتقل ہو

(۱۰۰) المختصر القدوری، مطبوعہ قرآن محل، کراچی، صفحہ ۱۳۰۔

(۱۰۱) المختصر القدوری، مطبوعہ قرآن محل، کراچی، صفحہ ۱۳۰۔

(۱۰۲) هدایہ، برهان الدین سر غینانی (۵۹۳)، مطبوعہ قرآن محل، کراچی، جلد ۳، صفحہ ۲۹۱۔

الجر الرائق مع کنز عربی، مطبوعہ مصر، جلد ۴، صفحہ ۲۹۵
المحلی، ابن حزم (۵۳۵۶)، مطبوعہ مصر ۵۱۳۵۴، جلد ۶، صفحہ ۱۰۴

مکتا ہے، لیکن ہبہ بالعوض کے جواز اور تکمیل کے لیے حسب ذیل دو شرطوں کا موجود ہونا ضروری ہے:-

(۱) موهوب لہبہ کی طرف سے حقیقی طور سے عوض کا ادا کیا جانا۔

(۲) واهب کا نیک نیتی کے ساتھ ف الفور جائز موهوبہ کی ملکیت سے دست بردار ہو جانے اور اسے موهوب لہبہ کو دے دینے کا اظہار۔

عوض کا کاف ہونا لازم نہیں ہے اس کی مقدار خواہ کچھ ہو، مگر اس کا حقیقی طور سے اور نیک نیتی کے ساتھ ادا کیا جانا ضروری ہے۔

ایک شخص نے دوسرے شخص کو پانچ درهم اور کچڑا ہبہ کیا اور موهوب لہبہ نے ان دونوں پر قبضہ لیا، پھر موهوب لہبہ نے اس مجموعی ہبہ سے کچڑا یا درهم ہبہ کئی تو یہ عوض نہ ہوگا۔^{۱۰۳}

اگر ایک نشست (مجلس) یا دو نشستوں (مجلسوں) میں دو مختلف معاهدے ہوں اور ایک نے دوسرے کو عوض دیا ہو تو یہ ازوٹی قیاس عوض کھلانے گا۔^{۱۰۴}

موهوب لہبہ نے واهب کو کوئی شے ہبہ کی اور یہ نہ کہا کہ یہ شے واهب کے ہبہ کا عوض ہے (تو یہ ہبہ بالعوض نہ ہوگا) اور واهب اپنے ہبہ میں رجوع کرنے کا مجاز ہوگا۔

عدالتی نقطہ نظر :

بمقدمہ شمس النساء بی بنام عبدالغفور^{۱۰۵} اڈھاکہ هائی کورٹ نے قرار دیا کہ اسلامی قانون کے تحت ہبہ کے جائز ہونے کے لیے خواہ وہ ہبہ بالعوض

(۱۰۳) المسیوط، امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر ۱۳۲۷ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۸۱

البعزالائق، ابن نجیم (۵۹۰)، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ھ، جلد ۲، صفحہ ۲۹۲

(۱۰۴) المسیوط، امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر ۱۳۲۷ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۸۱

(۱۰۵) بی ایل ڈی، ۱۹۶۳، ڈھاکہ، صفحہ ۳۵۱

هو یا بالعوض یا بشرط العوض ان میں حسب ذیل لازمی اجزاء کا پایا جانا ضروری ہے :-

(۱) واهب کا موهوب لہے کے حق میں شئے موهوبہ کی منتقلی کا اظہار یا اعلان ۔

(۲) موهوب لہے یا اس کی جانب سے ہبہ کی قبولیت ۔

(۳) شئے موهوبہ واهب کی جانب سے موهوب لہے کے حق میں قبضہ کی حوالگی ۔

ہبہ کی قبولیت صریحی یا معنوی ہو سکتی ہے نیز قبضہ کی حوالگی بھی حالات کے تحت حقیقی یا تعییری درست ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی معاملہ جو ان لازم اجزا کے بغیر ہوگا یا ان میں تغیر کے ساتھ ہوگا اسلامی قانون کے تحت ہبہ تصور نہیں کیا جا سکتا ۔

فاضل ججوں نے مذکورہ بالامقدمہ میں یہ قرار دیا کہ ہبہ بالعوض پاکستان میں شرع اسلام کے قواعد کے تابع نہیں ہے بلکہ عام ملکی قوانین کا تابع ہے ۔

ایک ایسا ہبہ جو بیوی کے حق میں بالعوض مهر کیا گیا ہو اس میں قبضہ دہی شرط نہ ہوگی ۔^{۱۰۶}

جشن کیکاؤس نے بمقدمہ فضل احمد بنام رکھی مندرجہ پی ایل ڈی ۱۹۵۸، لاہور، صفحہ ۲۱۸ یہ قرار دیا کہ ہبہ بالعوض میں قبضہ کی حوالگی ضروری ہے۔ انہوں نے قرار دیا کہ مسلم قانون میں ہبہ بالعوض دو ہبون پر مشتمل ہے، جن میں ایک ہبہ دوسرے ہبہ کا عوض ہوتا ہے۔ ہبہ بالعوض میں دوسرا ہبہ جس وقت کہ پہلا ہبہ کیا جاتا ہے تصور میں نہیں ہوتا یعنی پہلے ہبہ سے کوئی شرط متعلق نہیں ہوتی کہ دوسرا

(۱۰۶) بی ایل ڈی، ۱۹۵۵ء، ڈھا کہ، صفحہ ۳۹

ہبہ کیا جانا ضروری ہے۔ دوسرا واحب اس امر کے لیے آزاد ہے کہ وہ ہبہ کرے یا نہ کرے اس لیے پہلا ہبہ قبضے کی حوالگی سے مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا ہبہ بھی ایک عام اور سادہ ہبہ ہے محض اس فرق کے ساتھ کہ پہلا ہبہ اس دوسرے ہبہ کے لیے سبب فراہم کرتا ہے۔ حقیقت میں ہبہ بالعوض کو ایک علیحدہ درجے میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ جب ایک بار موهوب لہے نے بھی اس کے معاوضے میں ہبہ کر دیا ہو اور پہلے واحب نے دوسرے ہبہ کو قبول کر لیا ہو تو ہبہ میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ہبہ کو تسلیم کرنے کے بعد وہ یعنی پہلا واحب اپنے ہبہ کو رد نہیں کر سکتا جب وہ اس امر کا پابند ہے تو دوسرا واحب بھی اسی بناء پر اس کا پابند ہے۔ ہبہ بالعوض میں پہلا معاملہ ایک بلا معاوضہ انتقال ہے اور کوئی ذمہ داری پیدا نہیں کرتا۔

جب کہ ایک دستاویز عوض کے نہ ہونے کے سبب ہبہ بالعوض کی حیثیت سے قائم نہیں رہ سکتی تو اگر واحب کی نیت پائی جائے اور جائز ہبہ کی شرائط ہبہ نامے میں موجود ہوں اس کو سادہ ہبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔^{۱۰۷}

ہبہ بالعوض کی صورت میں عوض نہ ہونے کی بناء پر ہبہ ناجائز ہو گا۔^{۱۰۸}

ہبہ بہ عوض خدمت :

اگر وہ خدمات جو موهوب لہ نے انجام دی ہیں ایک رقمی مالیت رکھتی ہیں اور ایسی خدمات کے بدلے میں ایک ہبہ کیا جاتا ہے تو وہ معاملہ ہبہ بالعوض ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ ایک مبادله جائزداد ہے جائزداد ہے۔ لیکن جب ایسی خدمات جو کوئی رقمی مالیت نہ رکھتی ہوں تو دستاویز ہبہ میں خدمت کا اظہار محض ہبہ کرنے کی ایک غرض (موئیو)

(۱۰۷) بی اہل ذی ، ۱۹۶۰ء ، ڈھاکہ ، صفحہ ۱۲۰

(۱۰۸) بی اہل ذی ، ۱۹۵۸ء ، ڈھاکہ ، صفحہ ۱۹۸

ہو سکتی ہے۔ یہ ہبہ کا معاوضہ نہیں ہے اور ایسی صورت میں ہبہ ایک سادہ ہبہ ہو گا نہ کہ ہبہ بالعوض۔ دفعہ ۵ قانون معاہدہ کی توضیح ایسی صورت میں پوری طرح منطبق ہوتی ہے اور ہبہ مکمل طور پر جائز ہو گا اگرچہ اس کے لیے بدل نہ ہو۔

چنانچہ جسٹس وحید الدین احمد نے بمقامہ بھادر بنام جان محمد مندرجہ پی ایل ڈی ۱۹۶۰ کراجی، صفحہ ۳۲۷ قرار دیا کہ خدمات کے معاوضے میں جو موہوب للہ نے انجام دی ہوں کسی شے کا ہبہ کرتا ہبہ بالعوض یا ہبہ بشرط العوض نہ ہو گا، کیونکہ واہب اور موہوب لہے کے درمیان کسی جائزداد کا تبادلہ نہیں ہوا۔ محض اس بناء پر کہ جو موہوب للہ نے واہب کی خدمات انجام دی ہیں ان کو مالیت میں منتقل کیا جا سکتا ہے یہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ موہوب للہ نے ان خدمات کو واہب کو تبادلے میں دیا ہے۔ خدمات یا تو ماضی میں کی جاتی ہیں یا زمانہ مستقبل میں، لہذا ایسی صورت میں موہوب لہے کی جانب سے واہب کو کسی بھی جائزداد کا فوری تبادلہ نہیں کیا جا سکتا۔

ہند و پاکستان میں ہبہ بالعوض کی توعیت:

جسٹس چنگیز نے بمقامہ بھگنی بنام منظور حسین شاہ مندرجہ پی ایل ڈی ۱۹۵۴ لاہور، صفحہ ۵۲۸، قرار دیا کہ حقیقی ہبہ بالعوض میں دو نمایاں اور آزاد افعال ہوتے ہیں۔ پہلا اصلی ہے اور دوسرا جوابی ہبہ ہے جو پہلا موہوب لہے کرتا ہے حقیقی ہبہ بالعوض کھلاتا ہے۔ لیکن برصغیر ہند و پاکستان میں معروف ہبہ بالعوض صرف ایک فعل ہے جو عوض یا سبادلہ ہبہ کے معاہدے میں شامل ہونے کے سبب اس کا براہ راست بدل ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ صحیح طور پر ہبہ بالعوض نہیں بلکہ ایک بیع یا تبادلہ

ہے ہر کیف اس کی جیسی بھی صورت ہو یہ معاہدات کے تمام لوازمات رکھتا ہے۔

ہبہ بالعوض میں رجوع :

جب موہوب لہے نے وابہ کے ہبہ کا عوض دے دیا ہو اور وابہ نے اس عوض پر قبضہ کر لیا ہو تو وابہ کے لیے جائز نہ ہو گا کہ وہ اپنے ہبہ میں رجوع کرے اور نہ ہی عوض دینے والے (موہوب لہے) کے لیے جائز ہو گا کہ وہ اپنے عوض میں رجوع کرے۔^{۱۰۹}

یہ امر یکسان نویعت کا حامل ہے کہ جو شریعہ کے عوض میں دی جائے وہ تھوڑی ہے یا بہت اور شریعہ موہوبہ کی قسم سے ہے یا غیر قسم سے، لیکن اگر ہبہ ایک هزار درهم ہو اور معاوضہ ان درهموں میں سے ایک درهم ہو تو یہ اس ہبہ کا معاوضہ ہو گا اور وابہ اپنے ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک نصرانی نے ایک مسلمان کے حق میں ہبہ کیا اور مسلمانوں نے اس کے معاوضے میں شراب یا خنزیر دیا تو وہ عوض نہ کھلانے گا، نیز ایک نابالغ کے مال میں سے اس کے باپ نے کوئی چیز ہبہ کی اور موہوب لہے نے اس کا عوض دیا تو یہ تعویض عن الہبہ باطل ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے ہبہ کیا اور باپ نے نابالغ کے مال میں سے اس کا معاوضہ دیا تو یہ جائز نہ ہو گا۔^{۱۱۰}

اگر دو مختلف عقد ایک مجلس یا دو مجلسوں میں ہوں اور ان میں سے ایک عقد دوسرے عقد کا معاوضہ ہو تو احناف کے نزدیک برینائی قیاس ہے عوض کھلانے گا۔ بشر کی روایت ہے امام ابو یوسف کے نزدیک یہ

(۱۰۹) المسوط، امام سرخسی (۵۳۸۲)، مطبوعہ مصر (۱۳۲۰ھ، جلد ۱، صفحہ ۷۵)

البعرالائق، ابن نعیم (۵۹۷۰)، مطبوعہ مصر (۱۳۱۱ھ، جلد ۱، صفحہ ۲۹۲)

(۱۱۰) المسوط، امام سرخسی (۵۳۸۲)، مطبوعہ مصر (۱۳۲۰ھ، جلد ۱، صفحہ ۷۸)

البعرالائق، ابن نعیم (۵۹۷۰)، مطبوعہ مصر (۱۳۱۱ھ، جلد ۱، صفحہ ۲۹۲)

جب کہ موهوب لہے نے واحب کے حق میں کوئی چیز ہبہ کی اور
یہ نہ کہا کہ یہ تمہارے ہبہ کا معاوضہ ہے تو واحب کو اپنے ہی میں
رجوع کا حق ہوگا۔^{۱۱۲}

۱۷۶ - جب کوئی ہبہ معاوضے کی شرط کے ساتھ کیا جائے تو وہ "ہبہ"
بشرط عوض، کہلانے کا۔ ایسا ہبہ شرط عوض کی تکمیل پر نافذ ہوگا۔

ہبہ بشرط عوض

ہبہ بشرط عوض کی صورت میں عوض بطور ایک شرط کے فریقین پر
لازم ہوتا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں اس کی نوعیت ہبہ کی ہوئی ہے لیکن جب
شے موهوبہ پر موهوب لہے کا اور عوض پر واحب کا قبضہ ہو جاتا ہے
تو اس کی حیثیت بیع کی ہو جاتی ہے۔

ہبہ بشرط عوض میں بھی سادہ ہبہ کی طرح قبضہ دہی لازم ہے اور
وہ منسخ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب موهوب کو عوض دے دے تو
اس کے بعد وہ ہبہ ناقابل تنفسیح ہو جاتا ہے۔

برصغیر ہند و پاکستان میں ہبہ بشرط عوض کا رواج نہیں ہے بلکہ
ہبہ بالعوض ہی کی یشتر مثالیں متی ہیں۔ ہبہ بالعوض اور بشرط عوض
میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہبہ بالعوض میں موهوب لہے جو عوض دیتا
ہے اپنی خوشی سے دیتا ہے جب کہ ہبہ بشرط عوض کی صورت میں
عوض دینے کا تشریع کے ساتھ فریقین میں اقرار ہو جاتا ہے۔

(۱۱۱) المسسوط، امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر (۱۳۲۲ھ)، جلد ۱، صفحہ ۸۱
البعزالرائق، ابن نجیم (۵۹۰۰)، مطبوعہ مصر (۱۳۱۱ھ)، جلد ۲، صفحہ ۲۹۲

(۱۱۲) المسسوط، امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر (۱۳۲۲ھ)، جلد ۱، صفحہ ۸۲
البعزالرائق، ابن نجیم (۵۹۰۰)، مطبوعہ مصر (۱۳۱۱ھ)، جلد ۲، صفحہ ۲۹۲
جمع الانہر، داماد آنندی (۱۴۰۷ھ)، مطبوعہ مصر (۱۳۲۸ھ)، جلد ۲، صفحہ ۳۶۲
الاختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمد بن مودود (۵۹۸۳)، مطبوعہ مصر
۱۹۵۱، جلد ۲، صفحہ ۵۳

ہبہ بشرط العوض اور ہبہ بالعوض میں فرق :

مندرجہ بالا فرق کے پیش نظر ہبہ بالعوض کی حسب ذیل دو قسمیں ہیں :

(۱) پہلی قسم وہ ہے جس میں معاوضہ بطور شرط کے ہوتا ہے اس کو ہبہ بشرط العوض کہا جاتا ہے ۔

(۲) دوسری قسم وہ ہے جس میں معاوضہ مشروط نہیں ہوتا بلکہ موهوب لہے اپنی مرضی سے بغیر کسی شرط کے اپنے واہب کے حق میں ہبہ کر دیتا ہے ۔ یہ قسم ہبہ بالعوض کہلاتی ہے ہبہ بشرط العوض اور بیع میں ایک صوری فرق ہے ۔ جہاں تک ہبہ بشرط العوض کا تعلق ہے یہ تانکیمیل ایک ہبہ ہے ۔ تکمیل پر یہ بیع ہو جاتا ہے ۔ اس لیے اسلامی قانون ، ہبہ بشرط العوض پر اس وقت لا گوہوگا جب کہ وہ مکمل ہو جائے یعنی بعد تکمیل اس بیع کے احکام مرتب ہوں گے ۔

شیعی نقطہ نظر :

علامہ محقق العلی نے شیعی فقہ کی اپنی مشہور کتاب شرائع الاسلام میں لکھا ہے کہ ”جب کوئی شخص کسی کو کچھ مال ہبہ کرے اور اس کو کسی قید کے ساتھ مقید نہ کرے تو یہ ہبہ مشروط ہے ثواب (عوض دینا) نہ ہوگا چنانچہ اگر موهوب لہے کوئی شیئ عوض ہبہ واہب کے حوالہ کرے اور وہ اس کو قبول کر لے تو واہب کو ہبہ میں رجوع کرنا صحیح نہ ہوگا اس لیے کہ قبول عوض کے بعد عقد ہبہ لازم ہو جاتا ہے (یعنی واہب کو اختیار رجوع باق نہیں رہتا) اور اگر واہب ہبہ کو مشروط ہے ثواب (عوض) کرے گا تو وہ شرط صحیح ہوگی خواہ اس کو معین کرے یا نہ کرے اور واہب کو اپنے ہبہ میں اس وقت تک رجوع کرنے کا

[دفعہ ۱۷۷]

اختیار ہوگا جب تک کہ عوض شرط (جس کی شرط کی گئی ہے) اس کے حوالے نہ کر دیا جائے اور جب کہ واهب مقدار عوض کو معین نہ کرے تو موهوب لہہ کو اختیار ہے جو مقدار چاہے اس کے حوالے کرے اگرچہ قلیل ہو اور واهب کو اس عوض پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے ہبہ میں رجوع کرنا صحیح نہ ہوگا اور موهوب لہہ عوض شرط کے دفعہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا بلکہ اس کو مال موهوب اور عوض مشروط میں سے ایک کے دفعہ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر اس حالت میں مال موهوب اس کے پاس تلف ہو جائے تو موهوب لہہ اس کا ضامن نہ ہوگا اس لیے کہ یہ تلف (یا عیب) اس کی ملک میں حادث ہوا ہے (اور اس میں تردید ہے) ۱۱۳۔

ظاہریہ کا مسلک :

ظاہریہ کے نزدیک ہبہ بالعوض یا بشرط عوض باطل ہے ہر دو صورتوں میں ہبہ کرنے والا اپنے ہبہ کو واپس لے گا۔^{۱۱۴}

۱۔ ایسا ہبہ ناجائز ہوگا جس کا نفاذ کسی آئندہ وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہو۔

جیہہ موقوف

تشریح

ہبہ کسی امر کے وقوع پر موقوف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسا ہبہ جو کسی دوسرے امر کے وقوع پر موقوف ہو، کالعدم ہے۔

ہبہ اس وقت تک جائز نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ قبضہ بھی نہ دیا گیا ہو، چنانچہ ہبہ کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہبہ زمانہ مستقبل میں نافذ ہوگا۔^{۱۱۵}

(۱۱۳) شرائع الإسلام، نجم الدين ابن جعفر الحلبي، مطبوعة بيروت، القسم الرابع، صفحه ۲۵۶۔

(۱۱۴) المحتلي، ابن حزم (۶۵۶ھ)، مطبوعة مصر ۱۹۳۵ء، جلد ۵، صفحہ ۱۳۳۔

(۱۱۵) بی ابل ذی، ۱۹۶۰ء، ڈھاکہ، صفحہ ۳

۱۷۸ - جب بہہ کے ساتھ کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جو اس کی تکمیل میں نقص پیدا کرنے ہو تو یہ شرط کالعدم ہے اور بہہ کا نفاذ اس طرح ہو گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں لکھن گئی ۔

قشویع

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ ہمارے (احناف) کے تمام علماء اس امر پر متفق ہیں کہ جب کوئی شخص بہہ کرے اور اس کے ساتھ کوئی فاسد شرط لگا دے تو بہہ جائز اور شرط کالعدم ہوتی ہے ۔

جب کہ بہہ کسی ایسی شرط کا پابند ہو جو اس کی تکمیل سے متصادم ہو تو وہ شرط باطل ہوگی اور بہہ اس طرح موثر ہو گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرط متعلق نہ تھی ۔ ۱۱۶

بمقدمہ غلام قادر بنام غلام حسین عدالت عالیہ مغربی پاکستان، لاہور نے قرار دیا کہ اگر بہہ کے ساتھ کوئی ناجائز شرط متعلق کی گئی ہو تو بہہ بلا شرط متصور ہو گا ۔

اس مقدمے میں بہہ کے ساتھ واہب نے یہ شرط عائد کی تھی کہ بہہ کردہ زمین کے عوض سوہوب لہے اپنی بہن کا نکاح واہب سے کرے گا ۔ یہ شرط مصلحت عامہ اور حسن نیت کے خلاف ہونے کے سبب ناقابل قبول قرار دی گئی اور بہہ بلا لحاظ اس شرط کے جائز قرار دیا گیا ،

۱۷۹ - جو بہہ بحالت صرف الموت کیا جائے گا اس سے احکام وصیت متعلق ہوں گے، بشرطیکہ واہب کی جانب سے جالداد سوہوبہ کا فوری اور ناقابل تنسیخ التقال ظاہر ہوتا ہو ۔

بہہ بحالت
صرف الموت

(۱۱۶) پی ایل ذی '۱۹۶۰'ع، 'کراچی'، صفحہ ۲۷۵
ہدایہ، برهان الدین مرغیانی (۵۹۳) مطبوعہ، قرآن حمل کراچی، جلد ۳،
صفحہ ۲۹۱

تصریح

مریض کا ہبہ یا صدقہ کرنا جائز نہیں الا یہ کہ اس کا قبضہ دے دیا گیا ہو، چنانچہ اگر موهوب لہمہ نے اس کا قبضہ لے لیا تو ایسا ہبہ جائز ہوگا۔

امام ابوحنیفہ کے ہم عصر، قاضی ابن ابی لیلی نے کہا کہ بغیر قبضے کے بھی مریض کا ہبہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ مریض کا ہبہ وصیت ہے۔ البتہ مریض کے ہبہ میں ایک تھائی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وصیت موصی کی موت سے متأکد و لازم ہو جاتی ہے خواہ قبضہ لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ چنانچہ اسی طرح ہبہ بحالت مرض باطل نہ ہوگا (خواہ قبضہ لیا ہو یا نہ لیا ہو) کیونکہ موت کا سبب مرض ہے اور مریض کے افعال اپنے حکم میں مانند اس حکم کے ہیں جو اس کی موت کے بعد ثابت ہوں۔ چنانچہ اگر ایک شوہر نے بحالت مرض اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دیں تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی، جیسا کہ ان کے درمیان فرقہ بذریعہ موت واقع ہوئی۔ پس یہ صورت بھی اس کے مانند ہے۔^{۱۱۴}

لیکن احناف کہتے ہیں کہ جائز نہ ہونے کی علت یہاں بھی موجود ہے وہ یہ کہ ہبہ اور صدقہ ایک تندروست شخص کے حق میں بدون قبضے کے جائز نہیں ہوتا اور یہ شرط مریض کے حق میں بھی موجود ہے۔ اس کا تصرف ایک تندروست شخص کے مقابلے میں زیادہ ضعیف ہے اور اس ہبہ میں ایک تھائی کا معتبر ہونا اس کی دلیل نہیں ہوتا کہ فی الحال ہبہ ثابت نہ ہوا۔ مریض کا ہبہ وصیت کے خلاف ہے، کیونکہ وصیت میں ملک بعد موت ہے اور ہبہ عقد تملیک ہے، اس لیے اگر موت سے پہلے قبضہ نہ دیا تو وہ ہبہ باطل ہو جائے گا اس کی مثال یہ موقوف کی سی ہے۔^{۱۱۵}

(۱۱۷) (المسوط) امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر ۱۳۲۳ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۱۲۷۔

(۱۱۸) (المسوط) امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر ۱۳۲۳ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۱۰۲۔

اگر واہب حالت مرض الموت بھیا مثایع جائزہ کا جو کابل تعمیم ہو ہبہ کرے تو ایسا ہبہ کلیتاً باطل نہ ہوگا بلکہ اگر سوہنوب نہیں قبضہ کر لیا ہو تو واہب کی موت کے بعد اس سے احکام وصیت متعلق ہوں گے اور ایک ثلث میں ہبہ کا حکم نافذ ہوگا مابقی ورثاء کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ موہوب لہہ کے علاوہ واہب کا اور کوف مال موجود نہ ہو۔ لیکن اگر یہ مال موہوبیہ دیکر کل مال کی ایک تھائی ہوتا ہو تو ہبہ کی ہوئی پورے مال میں نافذ ہوگا ۱۱۹۔

ایک سریض مرض الموت کی حالت میں موہوب لہہ کو اپنے کل بال کی تھائی ہبہ کرتا ہے اور اس کا قبضہ بھی دے دیتا ہے پھر موہوب لہہ واہب کو اس کے مرض الموت کی حالت میں قتل کر دیتا ہے تو یہ ہبہ ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا کیونکہ مرض الموت کی حالت میں ہبہ اپنے نفاذ میں وصیت کے حکم میں ہے اور اسی واسطے وصیت قرض کی ادائی کے بعد ایک تھائی کی حد تک نافذ ہوئے ہیں۔ چونکہ قاتل کے واسطے بلا اجازت ورثاء وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، اسی طرح مرض الموت میں ہبہ (جب کہ موہوب لہہ واہب کو قتل کر دے) بغیر ورثاء کی اجازت کے نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو امر وصیت کو باطل کر دیتا ہے وہ ہبہ بحال مرض الموت کو بھی باطل کر دے گا ۱۲۰۔

جب کہ واہب اپنے ہبہ میں رجوع کرے اور موہوب لہہ حالت مرض میں ہو درآں حالیہ کہ ہبہ حالت صحت میں کیا گیا تھا تو قاضی کے حکم سے رجوع جائز ہوگا اور موہوب لہہ کی موت کے بعد اس کے ورثاء یا قرض خواهان کو کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ واہب کا سبق ان کے

(۱۱۹) (البسوت، امام سرخسی ۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر ۱۳۴۴ھ، جلد ۶۲، صفحہ ۲۰۷۔
 (۱۲۰) (البسوت، امام سرخسی ۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر ۱۳۴۴ھ، جلد ۶۲، صفحہ ۲۰۸۔
 صفحات ۱۰۳-۱۰۴۔

حقوق سے پہلے ہے۔ لیکن اگر بغیر قاضی کے حکم کے مرض (موہوب لہم) نے واهب کی طلب پر موہوبہ مال واپس کر دیا تو یہ مرض (موہوب لہم) کی طرف سے ایک نیا ہبہ شاہر ہو گا اور ایسی صورت میں ایک تھائی کی حد تک جائز ہو گا، اگر اس (مرض موہوب لہم) پر قرض نہ ہو، اور اگر اس (مرض موہوب لہم) پر قرض ہو اور ایسا قرض ہو جو اس کے تمام مال پر حاوی ہو تو واپس کرنا تاجائز ہو گا اور ہبہ میت کے ترکہ کی طرف لوٹ جائے گا اور اس سے احکام و راثت متعلق ہوں گے۔^{۱۲۱}

شیعی نقطہ نظر :

شیعہ فقہا کے نزدیک بھی جب کہ کوئی شخص اپنے مرض غوف میں (وہ بیماری جس میں انسان غالباً ہلاک ہوتا ہو جیسے دق یا جام میں ہلاک ہو جائے خواہ غالباً مہلک ہو یا نہ ہو ”علی الاختلاف القولین“) ہبہ کرے اور پھر اس مرض سے بری (صحیح) ہو جائے تو ہبہ صحیح ہو گا اور اگر اسی مرض میں ہلاک ہو جائے اور ورثہ اجازت نہ دیں تو وہ ہبہ ظاہر مذہب کی بنا پر اس کے ثلث متروکہ میں نافذ ہو گا۔^{۱۲۲}

عدالتی نقطہ نظر :

ہماری عدالتون کی مستقہ رائے یہ ہے کہ جو ہبہ بحال مرض الموت کیا جائے اس پر وصیت کے احکام کا اطلاق کیا جائے گا۔^{۱۲۳}

پشارو اور لاہور کی عدالت ہائی عالیہ نے مقدمات مفصلہ ذیل میں قرار دیا ہے کہ جو ہبہ مرض الموت کی حالت میں کیا جائے وہ وصیت خیال کیا جائے گا۔ یعنی جب کہ واهب بوقت ہبہ ایک ایسے مرض میں

(۱۲۱) البیسطو، امام سرخسی (۵۲۸۲)، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳، هجری، جلد ۱۲، صفحہ ۱۰۵

(۱۲۲) شرائع الاسلام، نجم الدین ابن جعفر العلی (۵۳۴۲)، مطبوعہ بیروت، القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

(۱۲۳) بمقتضیہ مشناد علی شاہ بنام حسن شاہ، پی ایل ڈی، ۱۹۶۰، لاہور، صفحہ ۳۰۰

سبتلا تھا جو اس کی موت کا فوری سبب ہوا ۔

مرض الموت کے تعین کے لیے حسب ذیل امور کا لحاظ ضروری ہوگا :

(۱) یہ کہ مرض ایسی نویعت کا تھا جس سے مريض کے دل میں
یہ یقین پیدا ہوا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے ۔

(۲) یہ کہ بیماری اس شدت کی تھی کہ جس نے اس کو روزمرہ
کے کاموں کی ادائی کے ناقابل بنا دیا تھا ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص
کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے قادر ہو تو مسلم فقهاء کی رائے
میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ شخص روزمرہ کے کاموں کو انجم
دینے سے قادر ہے ۔

(۳) یہ کہ مرض گو پرانا ہو لیکن ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا ہو
کہ جب وہ بڑھے تو مريض کو موت کا خدشہ لاحق ہو جائے
ایسی صورتوں میں جو ہبہ کیا جائے گا وہ وصیت شاہر ہوگا ۔^{۱۴۸}

سپریم کورٹ، پاکستان نے ہمقدمہ شمشاد علی شاہ بنام سید حسن شاہ
قرار دیا کہ مرض الموت کی حالت میں ایک ناجائز ہبہ نامہ وصیت قرار
نہیں دیا جا سکتا جب کہ ہبہ نامہ کی مندرجہ شرائط سے جانداد موهوبہ
کا فوری اور ناقابل تسلیخ انتقال ظاہر نہ ہوتا ہو ۔

ہبہ بحال مرض الموت کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے مذکورہ بالا
مقدمہ میں قرار دیا ہے کہ مرض الموت کے یقین کے لیے عدالت کو یہ دیکھنا
ہو گا کہ کیا ہبہ موت کے فوری خطرے کے احساس کے دباؤ کے تحت کیا
کیا ہے ۔ چنانچہ اس امر کو طے کرنے کے لیے کہ کیا ایک بیمار شخص کے
ہبہ ہر مرض الموت کے اصول کا اطلاق ہو سکتا ہے عدالت کو حسب ذیل

(۱۴۸) پی ایل ڈی، ۱۹۵۶، پشاور، صفحہ ۵
پی ایل ڈی، ۱۹۵۱، لاہور، صفحہ ۷۳۳

حقائق پر غور کرنا چاہیے :

(۱) کیا مرض کی حالت اور نوعیت ایسی تھی کہ جو بیمار شخص کے ذہن میں اس یقین کو تقویت پہنچانے والی تھی کہ اس مرض سے موت واقع ہو جائے گی یا موت کے خوف کو پیدا کرتی تھی؟

(۲) کیا واہب ہبہ کے وقت ایک ایسے مرض میں مبتلا تھا جو اس کی موت کا فوری سبب ہوا؟

(۳) کیا بیماری ایسی تھی جو اس کو حسب معمول مشاغل کی ادائی سے ناقابل بنانے والی تھی۔ ایک ایسی صورت حال جو بیمار کے ذہن میں موت کا خوف پیدا کر سکتی تھی۔

(۴) کیا وہ بیماری اتنے عرصے تک جاری رہی کہ اس کے ختم ہونے یا فوری ہلاکت کے خوف کو کم کرنے والی تھی یا یہ کہ بیمار کو اس مصیبت کا خوگر بنانے والی تھی۔

جب کہ واہب ہبہ کرتے وقت ایک ایسے مرض میں مبتلا تھا جس میں اس نے یہ یقین پیدا کر دیا تھا کہ اس مرض سے موت واقع ہو جائے گی اور حقیقت میں دستاویز کی رجسٹری کے چند گھنٹے بعد اس مرض نے فی الحقيقة اس کی جان لی لی، سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ہبہ مرض الموت میں کیا گیا تھا۔ ۱۲۵

ہبہ بحالت مرض الموت کے وصیت قرار دئے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہبہ تکمیل شدہ ہو (یعنی واہب نے اپنی زندگی میں جانداد موهوب کا موهوب لہہ کو قبضہ دے دیا ہو)

جسشن کیکاؤس نے مندرجہ بالا مقدمہ شمشاد علی شاہ بنام حسن شاہ میں لکھا کہ بعض شرحوں اور فیصلوں میں ہبہ بحالت مرض الموت کے

(۱۲۵) پی ایل ڈی، ۱۹۶۳، سپریم کورٹ، صفحہ ۱۳۳

سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ مرض الموت کے اصول کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ موت حقیقت میں مرض کے سبب ہوئی ہو۔ فاضل جمع نے لکھا کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اگر ایک شخص سریع تپ دق میں (galloping tuberculosis) بیتلہ ہو اور اس لیے جب اس نے ہبہ کیا تو موت کے خوف میں بیتلہ تھا لیکن وہ شخص کسی دوسرے کے ہاتھ گولی سے مارا جائے یا کسی حادثہ میں مر جائے یا ہیضے یا کسی (دیگر) ویانی مرض میں ہبہ کے تھوڑے ہی عرصے بعد مر جائے تو میں ایسی کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ ایسی صورت میں مرض الموت کے اصول کا اطلاق نہ کیا جائے۔ درحقیقت یہ امر واقعہ کہ ایک شخص زندہ رہتا ہے اور نہیں مرتا اس ہبہ کو جو موت کے خوف کے تحت لکھا گیا ہو جائز نہیں کرتا۔

ہبہ کا جواز ان حالات کے تعلق سے متعین کیا جائے گا، جو ہبہ کے وقت موجود ہوں۔ ہبہ کے بعد نہ مرتا موثر ہے ماضی (retrospective) نہیں ہو سکتا کہ ایک ناجائز معاملہ جائز ہو جائے۔ ہبہ کے ناجائز ہونے کا حقیقی سبب واحب کی کیفیت ذہنی ہے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے۔ اور چونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اس لیے وہ مایبن (inter vivos) کسی منتقلی کی نیت نہیں رکھتا۔ اس کی واحد نیت ایک ایسی منتقلی کی ہوئی ہے جو اس کی موت کے بعد موثر ہو سکے۔ ایک انتقال (جائداد) انتقال کننده کی نیت کے مطابق موثر ہوتا ہے۔ اگر انتقال کننده دوران حیات کوئی ہبہ کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو ایسا ہبہ متحقق نہ ہوگا۔ ایک ہبہ جو مرض الموت میں کیا جائے ایک وصیت کی حیثیت سے نافذ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ہبہ کے ذریعہ م Hispan وصیتی انتقال ملکیت کی نیت ہوئی ہے۔ یہ اصول صرف شرع اسلام ہی کا نہیں ہے بلکہ قانون دو ماں میں بھی اس اصول کو ہبہ بحالت مرض الموت کہا جاتا ہے اور ہمارے (ملک پاکستان) قانون جانشینی ایکٹ مجریہ ۱۹۲۵ع

کی دفعہ ۱۹۱ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔^{۱۲۶} (مرض الموت کی تعریفات کے لئے ملاحظہ ہو جمیعہ هذا جلد دوم صفحہ ۳۲۵-۳۷)

تسیخ ہے
۱۷۹ - (۱) واہب مجاز ہے کہ شے موهوبہ کا قبضہ دینے سے پہلے جس وقت چاہے ہبہ کو منسوخ کر دے۔

توضیح : اگر واہب عقد ہبہ کے بعد مگر قبضہ سے پہلے مرنے تو مال موهوبہ واہب کی میراث میں داخل ہوگا۔

(۲) واہب مجاز ہے کہ شے موهوبہ کا قبضہ دینے کے بعد بھی ہبہ کو منسوخ کر دے، الیہ کہ :

(الف) واہب شوہر ہو اور موهوب لہہ زوجہ یا اس کے بر عکس

(ب) موهوب لہہ ذی رحم حرم ہو۔

(ج) موهوب لہہ فوت ہو گیا ہو۔

(د) شے موهوبہ موهوب لہہ کی ملک اور قبضے سے بذریعہ فروخت یا ہبہ یا کسی اور طریقے سے نکل گئی ہو۔

(۵) شے موهوبہ گم یا خالع ہو گئی ہو۔

(۶) شے موهوبہ کی هیئت بدل گئی ہو۔

(ز) کوئی اور شے، شے موهوبہ میں شامل ہو گئی ہو۔ جس کا جدا کرنا ممکن نہ ہو۔

(ح) ہبہ بالعوض ہو۔

مگر لازم ہے کہ قبضہ دے دینے کے بعد بجز حکم عدالت ہبہ منسوخ نہیں کیا جا سکے گا۔

(۳) بمتابع احکام مندرجہ بالا واہب کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء ہبہ تفضیل کو بموجب احکام مندرجہ دفعہ ۲، بذریعہ عدالت منسوخ کرانے کے مجاز ہوں گے۔

(۱۲۶) پی ایل ذی، ۱۹۶۳ء، سیریم کورٹ، صفحہ ۱۳۳

تفسیر

تفسیح ہبہ کو حضور (صلعم) نے انتہائی تاپسند فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جو شخص ہبہ میں رجوع کرتا ہے وہ اس کرتے کی طرح ہے جو قتے کر کے بھر اسے چاث لینا ہے۔^{۱۲۷}

صحیح مسلم کے مشہور شارح امام نووی نے لکھا ہے مذکورہ بالا حدیث میں جو کراحت یا ان کی گئی ہے تنزیہی ہے، تحریکی نہیں ہے۔^{۱۲۸}

اممہ ثلاثہ و جمہور علماء کے نزدیک قبضہ کے بعد ہبہ میں رجوع کرنا حرام ہے، یعنی اگر موهوب لہے نے شے موهوبہ کا قبضہ لیا تو وابہ اس ہبہ کو فیض نہیں کر سکتا، لیکن احناف کے نزدیک قبضہ کے بعد بھی رجوع جائز ہے بشرط کہ موهوب ذی رحم محروم نہ ہو، ہبہ بالعوض نہ ہیو یا کوئی اور شے، شے موهوبہ میں شامل نہ ہوئی ہو یا شے موهوبہ موهوب لہے کی ملک سے خارج نہ ہوئی ہو۔^{۱۲۹}

ہبہ بلا عوض میں احناف کے نزدیک رجوع جائز ہے مگر عوض مل جانے کے بعد رجوع جائز نہ ہو گا۔^{۱۳۰}

اجنبی سے مراد وہ شخص ہے جس سے قربات محروم نہ ہو۔ اگرچہ غیر محروم قربات ہو مثلاً چچا زاد بھائی وغیرہ یا قربات نہ ہو مگر محروم ہو، جیسے رضاعی بھائی ہیں۔

(۱۲۷) صحیح مسلم، امام مسلم مطبوعہ مصر، 'كتاب الہبات' صفحہ ۶۸

(۱۲۸) صحیح مسلم، مع شرح نووی، امام نووی، مطبوعہ مصر، جلد ۱، 'كتاب الہبات' صفحہ ۶۲

(۱۲۹) هدایہ، برهان الدین، مرغیانی (۵۹۳)، مطبوعہ قرآن محل کراچی، صفحہ ۲۸۹-۹۰

(۱۳۰) هدایہ، برهان الدین، مرغیانی (۵۹۳)، مطبوعہ قرآن محل کراچی، صفحہ ۲۸۹-۹۰

بدایۃ المجتهد، ابن رشد (۵۹۵)، مطبوعہ مصر، جلد ۲، صفحہ ۲۲۲

مجموع الانہر، داماد آفندی (۱۴۲۸)، مطبوعہ مصر، جلد ۲، صفحہ ۳۵۹

ذی رحم عمر کے هبہ سے رجوع کی مانعت :

هبہ اور صدقہ کبھی اجنیبوں کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی رشتہ داروں کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے ہبہ افضل ہے کیونکہ اس میں ہبہ صلہ رحمی کے سبب سے ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ”سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو ذی رحم رشتہ دار کو کیا جائے“ - ابراہیم نخعی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا : ”جس شخص نے ہبہ کیا واسطے ذی رحم حرم کے اور اس ذی رحم حرم نے شے موهوبہ پر قبضہ کر لیا تو واہب کے لیے اس ہبہ سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے“ - ”نیز عطاء و مجاهد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا:“ کہ جس شخص نے ذی رحم حرم کے واسطے کوئی ہبہ کیا اور اس ذی رحم حرم نے شے موهوبہ پر قبضہ کر لیا تو واہب کے لیے اس ہبہ میں رجوع جائز نہیں ہے اور جس شخص نے غیر ذی رحم کے حق میں ہبہ کیا اس کے لیے اس ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے جب تک کہ اس شے موهوبہ کا عوض نہ ملا ہو“ -

حضرت عمر کے قول میں ذی رحم حرم سے کیا مراد ہے اس کا بعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے - ذی رحم حرم میں دائمی حرمت کے ساتھ قرابت فرض کی گئی ہے نہ کہ ایسی قرابت جس میں محرومیت نہ ہو (یعنی حضرت عمر کے قول میں ذی رحم حرم کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد ایسا صلہ قرابت ہے جس میں کہ قرابت داری دوامی ہو اور محرومیت کے ساتھ ہو یعنی رشتہ دار حرم ہو جیسے ماں اور بیٹا، ایسی قرابت مراد نہیں ہے جو غیر حرم کے ساتھ ہو) جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : کہ ”تقطعوا ارحامکم اولٹک الذین لعنهم اللہ“ یعنی قطع کرتے ہیں اپنے ارحام کو ان پر اللہ کی لعنت ہے - یہاں رحم سے مراد دوامی

طور پر محروم ہونا ہے ۔ ۱۳۱

مذکورہ بالا حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ ہبہ بلا قبضہ تمام نہیں ہوتا کیونکہ قبضے کا اعتبار اس بناء پر کیا گیا کہ وہ رجوع سے باز رکھتا ہے اور اس بارے میں ہماری (احناف کی) دلیل یہ ہے کہ باب جب اپنے بیٹے کے لیے ہبہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس ہبہ میں رجوع کرنا جائز نہیں ۔ جس طرح کہ بیٹا جب اپنے باب کو ہبہ کرے تو اس کے لیے اس ہبہ میں رجوع جائز نہیں اور یہ حکم اس لیے ہے کہ رجوع سے باز رکھنا ایک مخصوص مقصد کے حصول کی غرض سے ہے اور وہ مقصد صلة رحمی ہے ۔ کیونکہ رجوع میں خصوصت اور دشمنی ہے جس سے قطع رحمی ہوتی ہے اور اس ضمن میں اولاد محرومیت والی دائمی قرابت میں سب سے زیادہ قوی قرابت والی ہے ۔ ۱۳۲

اس حدیث میں اس امر کی بھی دلیل ہے کہ وہ شخص جو اجنبی کے حق میں ہبہ کرے اس کو حق ہے کہ وہ اس ہبہ میں رجوع کر لے جب تک کہ اس کو عوض نہ ملا ہو، کیونکہ حضور (صلعم) کے قول "بالم شب" میں ثواب سے مراد عوض ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں مستلتوں میں ہمارے (احناف کے) امام ہیں ۔ ۱۳۳

ابراهیم نجعی سے روایت ہے کہ شوہر اور زوجہ ذی رحم محروم کے درجے میں ہیں چنانچہ ان میں سے کوئی ایک جب دوسرے کو ہبہ کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس ہبہ میں رجوع کرے ۔ اس قول سے ہم (احناف) یہ اخذ کرتے ہیں کہ شوہر اور زوجہ میں بذریعہ زوجیت قرابت قریبہ موجود ہے اور اسی سبب سے دونوں طرف بغیر حجب کے وراثت

(۱۳۱) البسطو، امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۰ء، جلد ۱۱، صفحہ ۴۹

(۱۳۲) البسطو، امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۰ء، جلد ۱۱، صفحہ ۴۹

(۱۳۳) البسطو، امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۰ء، جلد ۱۱، صفحہ ۴۹

متعلق ہوتی ہے اور اسی زوجیت کے سبب کی بناء پر ایک دوسرے کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں قبول کرنا منع ہے۔ ہبہ سے جو مقصود حاصل ہوتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان سکون اور ازدواج ہے اور رجوع میں ان دونوں کے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنا ہے اور زوجیت الفت و مودت کے معنی میں ہے پس دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی ایک ایسے فعل کا اقدام، جو الفت اور مودت کی ضد ہو، منع ہے۔ چنانچہ اسی سبب سے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے درمیان رجوع کرنا منع ہے۔^{۱۳۳}

شوہر کی طرف سے زوجہ کے ہبہ میں رجوع :

اگر کسی مرد نے اپنی زوجہ کے حق میں ہبہ کیا اور پھر وہ عورت اس سے بالائی (جدا) ہو گئی تو مرد اس ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ ہبہ قیام زوجیت کے دوران کیا تھا اور یہ بات ظاهر ہے کہ اس وقت مرد کا مقصود عوض نہیں ہو سکتا تھا لہذا ایسے ہبہ میں مرد رجوع نہیں کر سکتا۔^{۱۳۴}

شیعہ امامیہ :

شیعی فقہاء کے نزدیک زوجہ کو ہبہ شوہر میں اور شوہر کو ہبہ زوجہ میں رجوع کرنا مکروہ ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ زوج و زوجہ اس باب میں اهل قرابت کا حکم رکھتے ہیں۔ قول اول اشیہ اور قواعد و اصول کے موافق ہے۔^{۱۳۵}

(۱۳۳) *البسوط*، امام سرخی، (۵۷۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۲م، جلد ۱۲، صفحہ ۵۱

(۱۳۴) *البسوط*، امام سرخی، (۵۷۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۲م، جلد ۱۲، صفحہ ۶۱

جمع الانہر، داماد آنندی، (۱۷۸)، (۱۷۹) جلد ۲، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ھ/۱۹۰۹م، صفحہ ۳۶۶

البحر الرائق، ابن نجیم، (۱۹۰) مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۰م، جلد ۱، صفحہ ۲۹۲

(۱۳۵) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر العلوي (۵۷۷۷م)، مطبوعہ بيروت، القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

جب زوجہ شوہر کی طرف سے جبر مدعی ہو :

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا : ”کہ جب عورت اپنے شوہر کو ہبہ کرے تو وہ اگر چاہے تو اس میں رجوع کر سکتی ہے جب کہ وہ اس امر کی مدعی ہو کہ اس کے شوہر نے اس پر جبر کیا تھا اور اگر شوہر نے زوجہ کے حق میں ہبہ کیا تو شوہر کے واسطے جائز نہیں ہے کہ وہ ہبہ میں رجوع کرے۔“ حضرت علی کے قول سے صاد زوجت کے حکم کے سبب رجوع میں شوہر اور زوجہ کے درمیان فرق کرنا نہیں بلکہ ان کی صاد یہ ہے کہ اگر عورت اس امر کی مدعی ہو کہ اس پر جبر کیا گیا ہے تو اس کا دعویٰ قبل سماحت ہو گا اور شوہر کی جانب سے اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیون کہ ظاہر یہ ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کے اوپر جبر کرنے پر قادر ہے ، جب کہ عورت اپنے شوہر پر جبر کرنے پر قادر نہیں ہے نیز ظاہر ہے کہ عورت اپنی ذات کے سبب شوہر کی جانب سے ڈرپ ہے جس سے اکراه (جبر) بذریعہ ماریٹ اور قید ثابت ہو گا اور شوہر کو اپنی زوجہ کی جانب سے اس قسم کا کوئی خوف دریش نہیں ہوتا۔ اس قول میں یہ دلیل ہے کہ جس شخص پر جبر کیا گیا ہو اس کا ہبہ جائز نہیں ، کیون کہ ہبہ کی صحت کی شرط مکمل رضامندی کا ہونا ہے ، اور جبر رضامندی کو معدوم کر دیتا ہے۔^{۱۳۴}

جو کوئی شخص تقسیم شدہ شے کا ہبہ ذی رحم محروم کو کرے اور اس کا قبضہ موهوب لہے ، کو دے دے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس ہبہ میں رجوع کرے اور اگر اس شخص نے اس نئی مفہومہ کا

(۱۳۴) البسطوط، امام سرخسی، (۵۷۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ھ جزءی، جلد ۱۲،

صفحہ ۵۲

البحراتی، ابن نجیم، (۵۹۷۰) مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ جزءی، جلد ۲،

صفحہ ۲۹۳

ہبہ کسی اجنبی کے حق میں کیا یا کسی ذی رحم غیر محروم کے حق میں کیا تو اس کا رجوع کرنا ہبہ ہیں جائز ہو گا۔

حنفیہ اور شافعیہ میں اختلاف :

اجنبی کو ہبہ کرنے کی صورت میں رجوع کے سلسلے میں ہمارے (احناف) کے نزدیک رجوع کا حق اس وقت تک ہے جب تک کہ واهب کوشے موهوبہ کا عوض موهوب سے نہ ملا ہو، اگرچہ ایسا کرنا بطریق دیانت اس کے لیے مستحسن نہیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک واهب کے لیے اجنبی کوشے موهوبہ ہبہ کرنے کی صورت میں ہبہ میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اپنے قول کی تائید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں کہ: ”واہب ہبہ میں نہ رجوع کرے مگر جب کہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں ہبہ کرے۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا: ”نہیں ہے حلال کہ واهب ہبہ میں رجوع کرے والا یہ کہ باپ نے انہی بیٹے کو ہبہ کیا ہو۔“ چنانچہ امام شافعی کے نزدیک حضور (صلعم) نے رجوع سے منع فرمایا یا اسے حرام قرار دیا اور شرعاً حرام کے ارتکاب کا اقدام کرنا ناجائز ہے۔ نیز حضور (صلعم) نے فرمایا: کہ ”ہبہ میں لوٹانے والا اس لوٹانے والے کی طرح ہے جو قری کرتا ہے اور پھر اس قری کو چاٹ لیتا ہے۔“ ایک روایت میں ہے کہ ”اس کترے کی طرح ہے جو قری کرے اور پھر اپنی قری کو چاٹ لے۔“ امام شافعی کے نزدیک قری کو نکل لینا حرام ہے۔ پس اس طرح ہبہ میں رجوع بھی حرام ہے۔ اور اس کی علت یہ ہے کہ ہبہ عقد تمیلک ہے یعنی مالک بننا دینے والا عقد ہے۔ پس عقد تمیلک متعلق ہونے کے اعتبار سے رجوع کو نہیں چاہتا جیسا کہ یہ میں ہے اور یہ بھی کہ رجوع مقصود کی ضد ہے اور مقصد مالک بنانا ہے اور عقد اپنے مستضاد معنی کو اپنے ضمن میں نہیں رکھتا۔

احناف کے دلائل :

احناف کی دلیل حضرت علی کے قول کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت علی کی حدیث موقوف ہے (یعنی اس کی نسبت یا اسناد حضور تک نہیں پہنچتیں) اور رسول اللہ (صلعم) کی ایک مرفوع حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا : کہ ”ہبہ کرنے والا اپنے ہبہ کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ اسے شرے موہوبہ کا عوض نہ ملا ہو“۔ اس حدیث میں حضور کی مراد قبضے کے بعد واهب کا حق رجوع ثابت کرنا ہے کیونکہ قبضے سے پہلے ہبہ مکمل نہیں ہوتا ۔ حضور کے قول میں حق رجوع کے سلسلے میں واهب کی طرف اس کی نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ شرے موہوبہ پہلے اس کی ملکیت تھی جیسا کہ ایک آدمی کہیں کہ ہم نے فلاں نان بائی کی روٹی کھائی اگرچہ اس نے وہ روٹی اس سے خرید لی تھی ہاں حق عوض کے حصول کا جو اس شرے میں ہے وہ قبضے کے بعد حق رجوع ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”پیشکش کرو اُس سے بہتر یا اُسی جیسی ۔“^{۱۳۸}

ابو ہریرہ کی حدیث میں رسول (صلعم) سے مروی ہے کہ: ”جس شخص نے ہبہ کیا اور وہ پھر اس میں رجوع کرنے کا ارادہ کرے ، اس کو اپنے فعل کی برائی کو جان لینا اور اس فعل (کے ارتکاب) سے نہ پھر جانا چاہیے ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ”جس شخص نے ہبہ کیا وہ پھر رجوع کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے فعل سے باز رہنے کی اچھائی پر غور کرنا چاہیے اور (فعل رجوع سے) رک جانا چاہیے“ اس حدیث سے مراد ہبہ میں واهب کا حسن فعل ہے اور رجوع میں قبح فعل ہے ۔^{۱۳۹}

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”ہبہ

(۱۳۸) المبسوط، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ هجری، جلد ۱۲

صفحہ ۵۶

(۱۳۹) المبسوط، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ هجری، جلد ۱۲

صفحہ ۵۳

کرنے والے تین ہیں - ایک وہ آدمی جو بطور صدقہ ہے کرے - اس کے لیے ہبہ میں رجوع جائز نہیں - دوسرے وہ آدمی جو دوسرے سے ہبہ کی امید پر ہبہ کرے ، اس کے لیے رجوع جائز ہے جب تک کہ اسے عوض نہ ملا ہو - تیسرا وہ آدمی جو عوض کی شرط کے ساتھ ہبہ کرے ، وہ ہبہ ایک فرض ہے اس کی حیات میں اور اس کی موت کے بعد بھی - اس کا مطلب یہ ہے کہ ہبہ جو اجنیبوں کے لیے کیا گیا ہو اس کا مقصود معاوضہ اور بدله ہے اور اس بارے میں اس کا مرجع ظاہراً عرف و عادت ہے کیوں کہ انسان ہبہ کرتا ہے یا تو اس شخص کے حق میں جو اس سے درجی میں بلند ہوتا ہے تاکہ اس کی جاہ سے فائدہ اٹھائے اور یا اپنے سے کم تر درجے کے آدمی کے لیے تاکہ وہ موهوبہ اس کی خدمت کرے اور یا اپنے سے مساوی درجے کے آدمی کے حق میں تاکہ وہ اس کو عوض دے۔^{۱۳۰}

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حق رجوع عقد ہبہ کا مقتضاء نہیں ہے بلکہ عقد کے مقصود میں خلل کا باعث ہے اور ہبہ سے مقصود جود و سخا کا اظہار ہے بابیں معنی کہ جو معروف ہو چکا ہو وہ مشروط کے درجہ میں ہوتا ہے اور تبرع (احسان) میں جہاں عوض مقصود ہوتا ہے وہاں اظہار جود و سخا بھی مقصود ہے۔^{۱۳۱}

حضور (صلعم) نے فرمایا "تحادوا تhaboوا" یعنی ہدیہ دو تاکہ محبت بڑھے - اس میں تفاصیل کا باب اختیار کیا گیا ہے جو جانین سے وجود فعل کا مقتضی ہے یعنی دونوں طرف سے ہبہ ہو - بالفاظ دیگر اسی کے معنی ہوتے کہ ایک دوسرے کو ہبہ کرو تاکہ ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو -

(۱۳۰) المبسوط، امام سرخسی، (۵۷۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ جلد ۱۲، صفحہ ۵۲

(۱۳۱) المبسوط، امام سرخسی، (۵۷۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ جلد ۱۲، صفحہ ۵۲

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ آپ نے ایک گھوڑا فی مسیل اللہ دے دیا یعنی بخش دیا پھر دیکھا کہ وہ گھوڑا فروخت کیا جا رہا ہے پس آپ نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کو خرید لیں آپ نے حضور (صلعم) سے پوچھا حضور نے فرمایا: "اپنے صدقے میں رجوع نہ کرو۔" حالانکہ خریدنا حکماً صدقے میں رجوع نہیں ہوتا مراد یہاں اس سے یہ ہے کہ بطور دیانت اور مرتوت کے بھی رجوع اچھا نہیں۔ ۱۳۲

جن حدیث میں کتنے کی اپنی قسم کو چاٹ لینے کے فعل کو رجوع سے تشبیہ دی گئی ہے تو در اصل اس کا مقصد رجوع کے فعل کے قبیح ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ کتنا فعل قباحت سے موصوف ہوتا ہے نہ کہ حرمت سے کیونکہ کتنا غیر مکاف ہے۔ ۱۳۳

جب والد اپنے بیٹے کے حق میں ہبہ کرے تو احناف کے نزدیک رجوع جائز نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک باب کو اپنے بیٹے کے حق میں ہبہ میں رجوع کا حق میں رجوع کا حق ہے۔ احناف کا مسلک ہبہ کے مقصد و معنی کے لحاظ سے راجع ہے۔

ظاہری مسلک :

علامہ ابن حزم ظاہری کے مذہب میں ہبہ کا لفظ استعمال کرنے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اس کے بعد واہب کو اپنے ہبہ میں رجوع کرنے کا مطلق حق حاصل نہیں رہتا مگر دو صورتوں میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ (۱) باب یا مان اپنے بیٹے یا بیٹی (ولاد) کو ہبہ کرے ان دونوں کو ہر وقت اپنے ہبہ میں رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ چاہے اولاد بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ خواہ اولاد نے اس ہبہ کو اپنی زوجہ کے

(۱۳۲) المبسوط، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۵۲

(۱۳۳) المبسوط، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۵۲

حق عقد ازدواجی کا عوض (سہر) بنا لیا ہو یا نہ بنا�ا ہو۔ اس کے بعد قرض کا معاہدہ کر لیا ہو یا نہ کیا ہو، البتہ اگر موهوب ہلاک ہو گی تو اب رجوع صحیح نہ ہوگا نیز ہبہ کے بعد موهوب کی آمدی یا پیدا ہونے والے بھی میں بھی رجوع جائز نہ ہوگا۔ والدین کے ہبہ کی صورت میں اگر موهوب کا کچھ حصہ ہلاک ہو گیا اور کچھ حصہ باقی رہا تو باق حصہ میں والدین کا رجوع کرنے جائز ہے۔^{۱۳۳}

رجوع کی چند مزید صورتیں :

ایک شخص نے ایک عورت کے حق میں ہبہ کیا پھر اس عورت سے نکاح کر لیا تو اس مرد کو حق ہے کہ وہ اس ہبہ میں رجوع کر لے، کیونکہ جب اس مرد نے اس عورت کو ہبہ کیا تھا اس وقت وہ عورت اس مرد کے لیے اجنی ٹھی جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس مرد کا مقصد عوض تھا جو اس کو نہیں ملا اور یہ کہتا کہ اس مرد کا مقصد اس ہبہ سے یہ تھا کہ وہ اس عورت سے نکاح کر لے جو اس نے کر لیا اس لیے وہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا، بتا بریں وہ اس ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتا اس کے جواب میں احتجاج کرتے ہیں کہ یہ مقصد شرعی نہیں ہے۔^{۱۳۴}

شیعی نقطہ نظر :

اگر کوئی شخص ہبہ کرے اور مال موهوب کو قبضہ دینے کے بعد غیر موهوب لہے کے ہاتھ فروخت کرے پس اگر موهوب لہے واہب کے اہل قرابت میں سے ہو تو یہ صحیح نہ ہوگی اور اسی طرح اگر موهوب لہے شخص اجنی ہو اور واہب اس سے عوض لے چکا ہو تو بھی مال موهوب

(۱۳۳) الحعلی، ابن حزم (۵۸۵۶) مطبوعہ مصر، ۱۳۵۲ جلد ۶، صفحہ ۱۵۵

(۱۳۴) المبسوط، امام سرخسی، (۵۸۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۴۴ هجری، جلد ۱، صفحات ۶۰-۶۱

جمع الانہر داماد آفندی، (۱۰۵۱) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ هجری، جلد ۲، صفحہ ۳۶۲

کی بیع صحیح نہ ہوگی، لیکن اگر موہوب لہہ شخص اجنبی ہو اور وابہ نے اس سے عوض نہ لیا ہو اور مال موہوب کو فروخت کرے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بیع باطل ہوگی اس لیے کہ اس صورت میں وابہ نے اس مال کو فروخت کیا ہے جس کا کہ وہ مالک نہ تھا اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بیع صحیح ہوگی کیونکہ وابہ کو صورت مذکورہ میں رجوع کرنا جائز ہے اور اول قول اشہ اور قاعدہ کے موافق ہے۔ اگر ہبہ فاسد ہو تو عقد بیع مہر حال میں صحیح ہو گا خواہ موہوب لہہ اہل قرابت میں سے ہو یا اجنبی، خواہ وابہ نے عوض لیا ہو یا نہ لیا ہو اور یہی کلام اس صورت میں بھی جاری ہو گا جب کہ کوئی شخص اپنے مورث کے مال کو فروخت کرے اور اس کی حیات کا یقین رکھتا ہو اور فروخت کرنے کے بعد اس کے مورث کا وقت بیع وفات پانا ظاہر ہو تو اس صورت میں بیع صحیح ہوگی اس لیے کہ صورت مفروضہ میں بائع نے دراصل اسی شخص اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ وصیت کرے اور بعد وصیت اس کے عتق (آزاد کرنا) ظاہر ہو تو وصیت صحیح ہوگی۔^{۱۳۶}

عوض کے بعد رجوع کا حق نہیں :

ہبہ میں رجوع کا مانع عوض لے لینا ہے کیونکہ ہبہ کا مقصد عوض ہے جو پورا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ”مالم یشب“ اس بات کی دلیل ہے کہ عوض مل جانے کے بعد رجوع نہیں ہے۔^{۱۳۷}

جب موہوب لہہ وابہ کو اس کے ہبہ کا عوض دے دے اور

(۱۳۶) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر الحلى (۵۷۷ھ)، مطبوعہ بيروت،

صفحة ۲۵۴

(۱۳۷) المبسوط، امام سرخسی، (۵۸۸ھ) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھجری، جلد ۱۳،

صفحة ۵۶

هدایہ (عربی) برhashیہ فتح القدير، مطبوعہ مصر، جلد ۷، صفحہ ۱۳۳

بدائع الصنائع، امام کاسانی (۵۸۲ھ) مطبوعہ مصر، ۱۹۱۴ع جلد ۹، صفحہ ۱۲۹

واہب اس عوض پر قبضہ کر لے تو واحب مجاز نہ ہو گا کہ اپنے ہی میں رجوع کرے اور نہ عوض دینے والا بوهوب لہہ مجاز ہو گا کہ اپنے عوض میں رجوع کرے۔^{۱۳۸}

ہبہ بشرط عوض بہ متزلہ بیع کے ہے۔^{۱۳۹} چنانچہ اگر ایک شخص دوسرے کو بشرط عوض ہبہ کرے کہ وہ کسی دن اس کا عوض دے دے اور دونوں اس پر متفق ہو گئے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے عوض پر قبضہ نہ کیا ہو یہاں تک کہ دوسرا عوض دینے سے انکار کرے تو پہلا شخص اپنے ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے البتہ اگر دونوں میں عوض کا لین دین ہو جائے تو ہبہ جائز ہو گا (کیونکہ عوض کی تکمیل ہر دو جانب سے ہو گئی)۔^{۱۴۰}

اگر نصف ہبہ کے عوض میں کوئی شے دی تو واہب کو اختیار ہو گا کہ بقیہ میں رجوع کر سکے کیونکہ بعض (جزو) کے واسطے کل کا اعتبار کیا جائے گا۔^{۱۵۱}

(۱۳۸) المبسوط، امام سرخسی، (۵۸۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھ/جلد ۱۲ صفحہ ۲۵

بدائع الصنائع، امام کاسانی (۵۸۷۵)، مطبوعہ مصر، ۱۹۱۰ھ/جلد ۱۲، صفحہ ۱۳۱

بعرالرائق ابن نجیم (۶۹۷)، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ/جلد ۲، صفحہ ۳۱۹

(۱۳۹) المبسوط، امام سرخسی، (۵۸۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھ/جلد ۱۲ صفحہ ۲۹

بعرالرائق ابن نجیم (۶۹۷)، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ/جلد ۲، صفحہ ۳۲۱

ہدایہ (عربی) بر حاشیہ فتح القدير مطبوعہ مصر، جلد ۲، صفحہ ۱۳۸

(۱۴۰) المبسوط، امام سرخسی، (۵۸۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھ/جلد ۱۲ صفحہ ۲۹

بعرالرائق ابن نجیم، (۶۹۷)، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ/جلد ۲، صفحہ ۳۱۸

بدائع الصنائع، امام کاسانی (۵۸۷۵)، مطبوعہ مصر، ۱۹۱۰ھ/جلد ۱۲، صفحہ ۳۱۹

(۱۴۱) المبسوط امام سرخسی، (۵۸۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھ/جلد ۱۲، صفحہ ۳۲۰

صفحہ ۸۲

بعرالرائق ابن نجیم، (۶۹۷)، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ/جلد ۲، صفحہ ۳۱۹

بدائع الصنائع، امام کاسانی (۵۸۷۵)، مطبوعہ مصر، ۱۹۱۰ھ/جلد ۱۲، صفحہ ۳۲۰

ایک شخص نے دوسرے شخص کے حق میں زین ہبہ کی - موهوب لہے نے اس پر عمارت بنالی - اب واهب نے ارادہ کیا کہ اپنے ہبہ میں رجوع کر لے اس نے اپنا مقدمہ قاضی کے رویرو پیش کیا - قاضی نے قرار دیا کہ واهب کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے پھر موهوب لہے نے اپنا مکان گرا دیا - اب واهب کے واسطے امر مانع کے زائل ہو جانے کے سبب رجوع کا حق لوٹ آیا اور وہ اپنے ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے۔^{۱۵۲}

درactual موهوب لہ میں زیادتی متصلہ کا پیدا ہو جانا رجوع سے مانع ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو اصل موهوبہ میں متصل زیادتی پیدا ہوگی ، خواہ یہ موهوب لہ کے فعل سے پیدا ہو یا از خود پیدا ہو رجوع منع ہو گا ، کیونکہ اصل کو زیادتی کے بغیر واپس کرنا ممکن نہیں ہوتا اور زیادتی موهوبہ نہیں ہوتی کہ اس میں رجوع کیا جا سکے - اور یہ ممکن نہیں کہ اصل کو زیادتی سے جدا کیا جا سکے - مثلاً مکان میں تعییر کا اضافہ کر لیا یا زمین میں ایسے درختوں کا باغ لگا لیا جو بقاء دائمی کے طور پر لگائے جاتے ہیں یا کپڑا تھا پختہ رنگ دیا گیا یا اس کی قمیض یا کوٹ وغیرہ بنایا گیا اور اگر زیادتی منفصلہ ہو تو رجوع کرنا جائز ہو گا - خواہ یہ زیادتی اصل موهوبہ سے ہی پیدا ہوتی ہو یا خارج سے لاحق ہوتی ہو۔^{۱۵۳}

جب واهب نے رجوع کا ارادہ کیا اس وقت وہ لونڈی حاملہ تھی - چنانچہ اگر وہ زیادتی (حمل) بلا گناہ ہے (یعنی لونڈی کا حمل مالک سے ہے یا شوہر سے) تو واهب اس میں رجوع نہیں کر سکتا ، لیکن اگر زیادتی

(۱۵۲) البسوط، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھجری، جلد ۱۲،

صفحہ ۸۵-۸۶

(۱۵۳) بدائع الصنائع امام کاسانی، (۵۵۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۹۹۱ع، جلد ۶، صفحہ ۱۲۹
بعر الرائق ابن نعیم، (۰۰۹۶) مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ، جلد ۲، صفحہ ۳۱۷

(حمل) گناہ کے سبب ہے تو اس میں رجوع کر سکتا ہے۔^{۱۵۳}

ایک کنیز بوقت ہبہ بتصورت تھی بعد کو حسین و جمیل ہو گئی تو واہب اس کو واپس نہیں لے سکتا کیونکہ حسن و جمال زیادتی کے متادف ہے، البتہ اس کے برعکس صورت میں رجوع جائز ہو گا، کیونکہ کمی واہب کے حق رجوع میں مانع نہیں ہے۔^{۱۵۴}

واہب نے موهوب لہب کو لوہا ہبہ کیا۔ موهوب لہب نے اس سے تلوار بنالی یا کاغذ دیا اور اس پر موهوب لہب نے لکھ لیا تو ایسی شے میں واہب رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ تبدیلی ذات شے یا ذات شے میں زیادتی حادثہ یا موهوب لہب کے فعل سے شے موهوبیہ کی مالیت میں زیادتی ہے جو رجوع میں مانع ہے۔^{۱۵۵}

شے موهوبیہ کی قیمت میں اضافہ یا تبدیلی کی صورت میں :

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر موهوب میں اضافہ ہو گیا تو حق رجوع نہیں، کیونکہ حق رجوع اس میں ہے جو ہبہ میں شامل ہے اور یہ زیادتی جو اس شے موهوبیہ میں ہوئی ہبہ میں شامل نہیں اور اصل شے موهوبیہ میں بغیر اس زیادتی کے جو اصل شے سے متصل ہے رجوع ممکن نہیں، بناء برین شے موهوبیہ میں اضافہ کے سبب رجوع نہیں کیا جاسکتا۔^{۱۵۶} البتہ اگر اس شے کی قیمت بڑھ جائے تو رجوع

(۱۵۳) البسطو، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/۱۸۰۰م، جلد ۱، صفحہ ۸۸

(۱۵۴) البسطو، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/۱۸۰۰م، جلد ۱، صفحہ ۸۸

(۱۵۵) البسطو، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/۱۸۰۰م، جلد ۱، صفحہ ۳۶۱

(۱۵۶) البسطو، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/۱۸۰۰م، جلد ۱، صفحات ۸۸-۸۹

(۱۵۷) البسطو، امام سرخسی، (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/۱۸۰۰م، جلد ۱، صفحہ ۵۶

کا حق ماقط نہ ہو گا کیونکہ قیمت میں اضافہ اصل شے کی ذات میں اضافہ نہیں بلکہ یہ اضافہ لوگوں کی رغبت کی زیادتی کے سبب ہے۔ شے انہے حال پر جیسی کہ تھی ویسی ہی ہے۔^{۱۵۸}

واہب نے ایک کھڑا ہبہ کیا موهوب لہے نے اس کو سرخ یا پلا رنگ لیا یا اس کو سی لیا اب واہب اس ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتا۔^{۱۵۹}

شیعی نقطہ نظر :

علامہ نجم الدین العلیؒ نے لکھا ہے کہ جب واہب اس ہبہ میں رجوع کرے جس میں کہ اس کو رجوع کرنا صحیح ہو (مثلاً شخص اجنبی کے لیے بدون عوض واقع ہوا ہو) اور مال موهوب میں کوئی عیب بزیادت نقصان حادث ہو چکا ہو تو واہب کو موهوب لہے سے ڈنڈ (قدر تفاوت بین الصحيح و المعیب) کا مطالبہ صحیح نہ ہو گا اس لیے کہ وہ ملک موهوب لہے میں حادث ہوا جس پر مالک کی طرف سے اس کو تسليط حاصل تھا، خواہ عیب مذکور اسی کے فعل سے حادث ہوا ہو یا اور کسی وجہ سے اور جب کہ مال موهوب میں کوئی تمام متصل زیادتی (جیسے چوبایہ کا فربہ ہونا) حادث ہو تو رجوع کے بعد واہب کا مال ہو گا اور اگر کوئی تمام متصل زیادتی (جیسے درخت میں پہل اور حیوان سے بھی کا پیدا ہونا) حاصل ہو پہن اگر بعد عقد حاصل ہوئے ہوں تو موهوب لہے کا اور اگر وقت عقد موجود ہو تو واہب کا مال ہو گا۔^{۱۶۰}

(۱۵۸) البسطو، امام سرسخی، (۵۷۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۰ھجری، جلد ۱۲، صفحہ ۵۶

(۱۵۹) البسطو، امام سرسخی، (۵۷۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۰ھجری، جلد ۱۲، صفحہ ۸۳

بدائع الصنائع امام کلبانی، (۵۷۸۲) مطبوعہ مصر، جلد ۱۹۱، صفحہ ۱۴۹، الاختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمود بن مودود (۵۷۸۳)، مطبوعہ مصر،

۱۴۹۵۱، صفحہ ۵۰

(۱۶۰) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر العلی (۵۷۸۲) مطبوعہ بیروت القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

جب کہ موهوب لہ پارچہ موهوب (وہ کپڑا جو مہ کیا گی ہے) کو رنگ لے پس اگر ہم قائل ہوں کہ ایسا تصرف مانع رجوع ہے تو واہب کو رجوع کرنا صحیح نہ ہو گا اور اگر ہم قائل ہوں کہ ایسا تصرف اور صورت (جب کہ واہب اجنبی ہو) مانع رجوع نہیں ہے تو موهوب لہ پارچہ مذکورہ میں قیمت رنگ کے ساتھ اس کا شریک ہو گا۔^{۱۶۱}

موهوب لہ کی ملکیت سے نکل جانے کے بعد :

اگر شے موهوبیہ، موهوب لہ کی ملک سے نکل جائے تب بھی واہب کو حق رجوع نہیں رہتا چونکہ موهوب لہ کی ملکیت سے موهوبیہ منتقل ہو کر دوسرے کی ملکیت میں پہنچ گئی، اس سے موهوبیہ گویا شے دیگر ہو گئی کیونکہ تبدیل ملک سے شے کی ذات تبدل ہو جاتی ہے۔ اس کے ماسوا جب موهوب لہ نے موهوبیہ میں تصرف کر کے استفادہ کر لیا تو ہبہ کی غرض اصلی انتہاء کو پہنچ گئی۔ اب ایسی ملک میں جو ہبہ سے حاصل ہوئی تھی رجوع کا حق دینے کے یہ معنی ہوں گے کہ اس ملک کو ختم کر دیا جائے اور یہ اس دوسرے کی ملکیت میں ممکن نہیں رہتا۔^{۱۶۲}

اگر شے موهوبیہ موهوب لہ کے پاس سے خالی ہو جائے اس سے پہلے کہ واہب قاضی کے حکم کے بعد اس پر قبضہ کرے اور واہب کے مطالبة قبضہ کے باوجود موهوب نے موهوبیہ کو روکا ہو تو واہب مجاز ہو گا

(۱۶۱) شرائع الاسلام، نجم الدین ابی جعفر العلی (۵۸۷ھ)، مطبوعہ بیروت القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

(۱۶۲) البیسطوت، امام سرخسی، (۵۸۸ھ) مطبوعہ مصر، ۱۴۰۰ھجری، جلد ۱۴، صفحہ ۵۶

بدائع الصنائع امام کاسانی، (۵۸۷ھ) مطبوعہ مصر، ۱۹۱۰م، جلد ۶، صفحہ ۱۲۹

کہ وہ شئے موهوبہ کی قیمت موهوب لہے سے بطور توان وصول کرے۔^{۱۶۲}

اگر شئے موهوبہ خود ضائع ہو گئی یا اسے موهوب لہے نے ختم کر دیا یا موهوب لہے کی ملک سے نکل گئی ہو یا اس نے شئے موهوبہ کو نابالغ بیٹھے یا کسی اجنبي کے حق میں ہبہ یا بطور دیگر دے دیا ہو یا خود موهوب لہے کے پاس وہ شئے موهوبہ باعتبار منفعت (علاوہ قیمت کے) بڑھ گئی ہو تو اس ہبہ سے واهب کے لیے رجوع جائز نہ ہو گا۔^{۱۶۳}

اگر گھر ہبہ کیا جس کی بنیاد منہدم ہو گئی تو واهب کے لیے جائز ہے کہ اس زمین پر رجوع کرے۔^{۱۶۴} کیونکہ شئے کی ذات میں کمی رجوع میں مانع نہ ہوگی۔

اگر نصف ہبہ کے عوض میں کوئی چیز دی تو واهب کو حق ہو گا کہ وہ باقی ہبہ میں رجوع کرے۔ کیونکہ جزو پر کل کا اعتبار کیا جائے گا اور موهوبہ کے عوض مقرر کرنے میں اس کے حصے کبھی جا سکتے ہیں۔ واهب مجاز نہیں ہے کہ وہ اپنے ہبہ میں (قبضہ کے بعد) بغیر حکم قاضی کے رجوع کرے الیہ کہ خود موهوب لہے شئے موهوبہ واهب کو لوٹا دے۔ اس سے پہلے کہ قضائی قاضی (حکم عدالت) کے بعد واهب شئے موهوبہ کا قبضہ موهوب لہے سے لے، اگر شئے موهوبہ موهوب لہے سے (بنیار انکار و اپسی) ضائع ہو جائے تو ایسی صورت میں واهب کے لیے جائز

(۱۶۲) البسطو، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ ہجری، جلد ۱۲ صفحہ ۸۲

مجموع الانہر، داماد آنندی، (۸۱۰۷) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ھ ہجری، جلد ۲ صفحہ ۳۶۲

(۱۶۳) البسطو، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ ہجری، جلد ۱۲ صفحہ ۸۳

(۱۶۴) البسطو، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ ہجری، جلد ۱۲ صفحہ ۸۳

مجموعہ قوانین اسلام

[دفعہ ۱۷۹]

نہ ہو گا کہ موهوب لہے سے اس کی قیمت کا تاوان۔^{۱۶۶} (البته انکار واپسی کے بعد تاوان لیا جا سکتا ہے)۔

جب کہ شے موهوبیہ ہالکہ (ہلاک ہونے والی) مستہلکہ (ہلاک کی گئی) ہو یا موهوب لہے کی ملک سے نکل کر اس کے نابالغ بیٹے یا اجنبی کے پاس بذریعہ ہے یا بطور دیگر چلی گئی ہو یا خود موهوب لہے کے پاس سے وہ شے خیر آ بڑھ گئی ہو تو واهب کے لیے ہبہ میں رجوع جائز نہ ہو گا۔^{۱۶۷}

جب کہ شے موهوبیہ ایک مکان ہو یا زمین ہو اور اس کے ایک نکٹرے پر تعمیر ہو گئی ہو یا درخت اگ آئے ہوں اس سبب سے واهب کو شے موهوبیہ میں رجوع کا حق نہ ہو گا۔^{۱۶۸}

اگر شے موهوبیہ گھر ہو اور ہبہ کے بعد اس کی بنیاد منہدم ہو گئی ہو تو واهب کو زمین میں رجوع کا حق ہو گا۔^{۱۶۹}

شیعی نقطہ نظر :

جب کہ مال موهوب پر قبضہ متحقق ہو جائے پس اگر موهوب لہے

(۱۶۶) البسطو، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۰۰ء، جلد ۱۲ صفحہ ۸۲

بدائع الصنائع امام کاسانی، (۵۵۸۴) مطبوعہ مصر، ۱۹۱۰ء، جلد ۶، صفحہ ۱۳۱

مجمع الانہر داماد آنندی، (۵۱۰۷۸) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ھ، جلد ۲، صفحہ ۳۶۳

(۱۶۷) البسطو، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۰۰ء، جلد ۱۲، صفحہ ۸۳

(۱۶۸) البسطو، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۰۰ء، جلد ۱۲، صفحہ ۸۳

(۱۶۹) البسطو، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۰۰ء، جلد ۱۲، صفحہ ۸۳

مجمع الانہر، داماد آنندی، (۵۱۰۷۸) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۸ھ/ ۱۹۰۰ء، جلد ۲، صفحہ ۳۶۰

والدین (ماں باب) ہوں تو واہب کو اس میں رجوع کرنا اجماعاً جائز نہ ہوگا اور اسی طرح اگر موهوب لہے سوائے ماں باب کے اہل قرابت میں سے کوئی اور ہو تب بھی رجوع کرنا جائز نہ ہوگا اگرچہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر موهوب لہے اجنبی ہو اور عین مال باق ہو تو واہب کو اس میں رجوع کرنا جائز نہ ہوگا اور اگر عین مال تلف ہو گیا ہو تو رجوع کرنا جائز نہ ہوگا اور اسی طرح اگر موهوب لہے اجنبی ہو اور واہب نے اس سے مال موهوب کے عوض میں کچھ لے لیا ہو تب بھی رجوع کرنا جائز نہ ہوگا اگرچہ قلیل ہو۔^{۱۷۱} اور اگر موهوب لہے مال موهوب میں ایسا تصرف کر لے جو متلف عین (ذات شیء کو تلف کرنے والا) نہ ہو (جیسے کپڑے کا پہن لینا) تو آیا ہبہ لازم ہو جائے گا یا نہیں! بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لازم ہو جائے گا اور بعض نے فرمایا ہے کہ لازم نہ ہوگا اور یہی قول اشیہ اور اصول مذہب کے موافق ہے۔

واہب کی موت کے بعد:

اگر واہب مر جائے تو اس کے وارث کو حق نہیں ہے کہ وہ اس ہبہ میں رجوع کرے۔ کیونکہ عقد ہبہ کے ساتھ تمیلک وارث سے متعلق نہیں ہوتی، لہذا وارث اس شیئ میں جو مورث کی ملک میں اس کی موت کے وقت نہیں ہوتی مورث کا جانشین نہیں ہوتا۔^{۱۷۲}

لیکن اگر شخص واہب (ہبہ کرنے والا) عقد کے بعد اور قبضہ سے

(۱۷۰) شرائع الإسلام، نجم الدين أبي جعفر العلوي، (٥٣٧٣)، مطبوعہ بيروت،

القسم الرابع، صفحہ ۲۵۳

(۱۷۱) المبسوط، امام سرخسی، (٥٨٨٢) مطبوعہ مصر، ١٣٢٢ هجری، جلد ۱، صفحہ ۵۶

طبع الانہر، داماد آفندی، (١٧٠٢) مطبوعہ مصر، ١٣٢٨ هجری، جلد ۲،

صفحة ۳۶۱

الاختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمود بن مودود (٥٩٨٣)، مطبوعہ مصر،

طبع ۱۹۵۱، جلد ۲، صفحہ ۵۱

[دفعہ ۱۷۹]

پہلے مر جائے تو مال موهوب اس کی میراث میں داخل ہوگا۔^{۱۷۲}
موهوب لہہ کے مرض الموت میں رجوع :

موهوب لہہ کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کی حالت میں واہب رجوع کر سکتا ہے یا نہیں اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ وہ کل مال (ھیہ) میں رجوع کر سکتا ہے اور دوسری یہ کہ ایک تہائی میں کر سکتا ہے کیون کہ مرض الموت میں مبتلا ہونے کے سبب مال میں ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔^{۱۷۳}

موهوب لہہ کی وفات کے بعد :

اگر موهوب لہہ مر جائے تو اس کی ملک موهوب لہہ سے اس کے وارث کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر موهوب لہہ کی زندگی میں ملک کسی دوسرے شخص کی جانب منتقل ہو جائے تو واہب کو اس شتر موهوبہ میں رجوع کا اختیار نہیں رہتا اسی طرح موهوب لہہ کی موت کے بعد بھی واہب کو اختیار نہ رہے گا۔ (کیونکہ موهوب لہہ کے انتقال سے فالغور اس شتر کی ملکیت میں ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے)۔^{۱۷۴}

پاکستانی عدالتون کے فیصلے :

جسٹس کیانی و حبیب اللہ خان نے یمندوہ اور نگ زب بنا ماؤڈ مندرجہ

(۱۷۲) شرائع الاسلام 'نجم الدین ابی جعفر العلی'، (۵۳۲۶) مطبوعہ بیروت،
القسم الرابع صفحہ ۲۵۳

(۱۷۳) المبسوط 'امام سرخسی' (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۶۶ هجری، جلد ۱،
صفحہ ۸۵

بدائع الصنائع 'امام کاسانی' (۵۵۸۷) مطبوعہ مصر، ۱۹۱۰ع، جلد ۲،
صفحہ ۱۲۹

(۱۷۴) المبسوط 'امام سرخسی' (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۶۶ هجری، جلد ۱،
صفحہ ۵۶

جمعی الانہر 'داماد آنندی' (۷۸) مطبوعہ مصر، ۱۳۴۸ هجری، جلد ۱،
صفحہ ۳۶۱

پی ایل ڈی ۱۹۵۴ء، پشاور، صفحہ ۸۵ قرار دیا کہ ایک ہبہ جو ایک خونی رشتہ دار (blood relation) کو کیا جائے جس سے نکاح منوع ہو، مثلاً دادا کی جانب سے اپنے پوتے کو، ناقابل رجوع ہے۔ کسی جائز ہبہ کا واپس لینا دو شرطوں کی موجودگی میں ناممکن ہو جاتا ہے ایک یہ کہ موهوب لہبہ ازدواجی سبب سے محروم ہو اور دوسرے یہ کہ خونی رشتہ دار ہو۔ خونی رشتہ داروں کی صورت میں، جو مذکور ہوں، یہ طے کرنے کے لیے کہ وہ نکاح کے لیے محروم ہیں ایک کی صفت کو بدلنا ہو گا تاکہ یہ مشخص کیا جا سکے کہ کیا قرابت محروم ہو جاتی ہے۔

بمقدمہ ہد لطیف بنام ہد نواز مندرجہ پی ایل ڈی، ۱۹۶۰، لاعور، صفحہ ۱۳۰، جسیں ہد شفیع نے قرار دیا کہ اسلامی قانون کے تحت ایک ہبہ جو ایک شخص دوسرے کو کرے جو اس سے اس قدر قریبی رشتہ رکھتا ہو (مثال کے طور پر بھائی) کہ ان دونوں میں، اگر جسمانی اعتبار سے نکاح ممکن ہو یعنی مختلف صفت سے تعلق رکھتے ہوں تو ایسا نکاح غیر قانونی ہو گا، ہبہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ وابح اور موهوب لہبہ کا مختلف صفت سے ہونا ضروری نہیں تاکہ ہبہ میں رجوع کی غرض سے ذی رحم محروم کے درجنوں میں آ سکے۔ الفاظ "محروم درجات" کے مصنوعی معنی لیئے چاہئیں جس کا مطلب ہے کہ قرابت کا وہ درجہ جو ان دو کے درمیان نکاح کے جواز کو جسمانی اعتبار سے گو ممکن ہو خارج کرتا ہو۔ ان الفاظ کا لغوی مفہوم نہیں لیا جاسکتا، چنانچہ سوتیلے بھائی کے حق میں ہبہ ناقابل رجوع ہے۔

حق رجوع ایک ذات حق ہے :

عدالت عالیہ مغربی پاکستان، پشاور یونیج نے بمقدمہ عبدالرحمن بنام خلیل الرحمن قرار دیا کہ شرع اسلام میں ہبہ سے رجوع کرنے کا حق

ایک ذاتی حق ہے، چنانچہ یہ حق واہب کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ واہب کے قانونی نمایندگان نہ اس مقدمے کو جاری رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی متابعت میں اپیل کو، بہر حال تنسیخ ہبہ نامے کا مقدمہ ایک مختلف بنیاد پر قائم ہوتا ہے ایسے مقدمہ کا نہ صرف اختیار ہے بلکہ مقدمہ کرنے کا حق واہب (مدعی) کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایک ہبہ نامے کی تنسیخ کے مقدمے میں بذات خود ہبہ کا معاملہ بسبب چند کوتاهیوں کے جو اس کے تحریر کرنے والے کی نا اہلیت یا اس کی آزاد مراضی سے متعلق ہوتے ہیں، ہدف اعتراض بتتا ہے۔ چنانچہ ایسا مقدمہ کسی شخصی حق کے نفاذ کے لیے نہ ہونے کے سبب متوفی واہب کے قانونی نمایندگان کے ذریعہ جائز طور پر جاری رکھا جا سکتا ہے۔^(۱۷۵) (یعنی اگر ہبہ نامہ میں کوئی ایسا نقص موجود ہو جسکے ذریعہ شرعاً ورثاء کو اعتراض کا حق حاصل ہو تو پھر دعویٰ مسموع ہوگا)۔

۱۸۰ - صدقہ وہ عطیہ ہے جو آخری ثواب کے لیے دیا جائے۔

صدقہ

تشریح

صدقہ میں ہبہ کی مانند قبضہ دہی شرط ہے۔ جائزداد مشاع کا صدقہ جائز نہیں۔ صدقہ قبضہ دہی کے بعد منسوخ نہیں ہو سکتا۔^(۱۷۶)

صدقہ اور ہبہ میں فرق :

ہبہ اور صدقہ کا فرق اس مقصد کے لحاظ سے ہے جس مقصد ہے وہ کیا جاتا ہے ہبہ میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ موہوب لہے کے ساتھ اظہار

(۱۷۵) نبی اپل ڈی ۱۹۶۶، پشاور، صفحہ ۱۲۱

(۱۷۶) المبسوط، امام مرخسی، (۵۸۸۲) مطبوعہ مصر، ۲۳۲۰ هجری، جلد ۱، صفحہ ۹۲

فتح التدبر مع الہدایہ ابن ہام، (۵۸۶۱) مطبوعہ مصر، ۳۵۶ هجری، جلد ۱،

صفحة ۱۳۳

محبت کیا جائے، یا اس کی نظر میں اپنی وقت یا عزت قائم کی جائے جیکہ صدقے کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔

صدقے اور وقف میں فرق :

صدقے اور وقف میں یہ فرق ہے کہ صدقے کی صورت میں اصل شریے صرف (خرج) ہو سکتی ہے۔ وقف کی صورت میں صرف جائداد کی آمدی صرف (خرج) میں لائی جا سکتی ہے۔

احناف کے نزدیک صدقہ ہبہ کی مانند ہے، کیونکہ صدقے میں متصدقہ علیہ (جس کو صدقہ کیا جائے) کی ملکیت بدون قبضہ ثابت نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمة اللہ علیہ کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک صدقے میں بلا قبضہ ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ صحابة کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب صدقے کا اعلان کیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا، البتہ ابن عباس اور معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ صدقہ بلا قبضہ جائز نہیں۔ قاضی شریع اور ابراهیم نعمی سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ احناف نے این عبارت رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اختیار کیا اور حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود کے قول کو امن صدقے سے تعبیر کیا جو ایک آدمی اپنے چھوٹے بیٹے کے حق میں کرے اور ایسا صدقہ (ہبہ) اعلان کرنے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ شخص شریع موبہہ پر اپنے چھوٹے لڑکے کی طرف سے قابض ہوتا ہے۔ احناف کی امن تعبیر کی بنیاد رسول اکرم کا یہ قول ہے: ”کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال اور نہیں ہے تیرے واسطے تیرے مال میں سے مگر وہ جو تو نے کھایا ہے وہ فنا کر دیا یا تو نے پہنا ہے وہ براانا کر دیا یا تو نے صدقہ کیا ہے وہ گزر گیا اور جو کچھ اس کے سوانح ہے

وہ مال وارث کا ہے۔“^{۱۷۷}

صدقہ جب کہ قبضہ کے ساتھ مکمل ہو جائے تو صدقہ دینے والے کے لیے رجوع جائز نہیں، خواہ وہ صدقہ اس کے قربات داروں کے واسطے ہو یا اجنبي کے واسطے، کیونکہ صدقے کا مقصد حصول ثواب ہے اور وہ نفس صدقے سے حاصل ہو گیا۔ اس لیے صدقے کے مکمل ہو جانے کے ساتھ مقصد کے حصول کے بعد صدقے سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ صدقہ دینے والا صدقے میں دی جانے والی شیئے کو اللہ تعالیٰ کا مال بنا دیتا ہے اور وہ اس شیئے کو فقیر کے حوالی کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ مال اس فقیر کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا عطيہ دینے والے کے لیے قابض پر کوئی احسان نہیں ہوتا اس مال کی ملک میں حق رجوع بھی باقی نہیں رہتا کیونکہ صدقے کی صورت میں معطی (عطيہ دینے والے) کی ملک معذوم ہو گئی اس لیے وہ اس میں رجوع نہیں کر سکتا اور بھی صورت ہبہ میں رجوع کے حکم کی ہے خواہ موهوب لہے مسلمان ہو یا کافر کیونکہ مسلمان یا کافر ہونے سے مقصود مختلف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر موهوب لہے اجنبي ہو تو ہبہ کا مقصود عوض ہے اور اگر رشتہ دار ہو تو اس کا مقصود صلة رحمی ہے اور یہ صورت مسلمان اور کافر دونوں میں برابر ہے۔^{۱۷۸}

ایک شخص نے مسَاکین کے حق میں ہبہ کیا اور ان کو قبضہ بھی دے دیا تو ازروئے استحسان و رجوع نہیں کر سکتا لیکن یہ بنائی قیاس اس کو رجوع کا حق ہے کیونکہ اس کی ملک بطريق ہبہ ہے اور اسباب ملک میں غنی اور فقیر بیع کی طرح دونوں برابر ہیں۔ از روئے استحسان اس کو

(۱۷۷) البسطو، امام سرخسی، (۵۴۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء، جلد ۱، صفحہ ۲۸

(۱۷۸) البسطو، امام سرخسی، (۵۴۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء، جلد ۱، صفحہ ۵۸

رجوع کرنے کا حق اس بناء پر نہیں کہ قبیر اور مسکین کے حق میں ہبہ کرنا ثواب کی نیت سے ہوتا ہے نہ کہ عوض کے لیے۔^{۱۷۹}

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ ہبہ جو صلة رحمی کے لیے کی جائے یا بطور صدقہ ہو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔^{۱۸۰}

امام محمد نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں مسجد بنالی۔ اس میں لوگ نماز پڑھتے تھے پھر وہ شخص مر گیا وہ گھر (مع جائے مسجد) ورثاء کی میراث ہو گا اس لیے کہ اس شخص نے اپنی ملک سے اس کو میراث نہیں کیا اور یہ صدقہ مشاع کے معنی میں ہو گا،^{۱۸۱}

شیعی نقطہ نظر :

علامہ نجم الدین ابی جعفر العلیؑ نے شیعی فقہ پر اپنی مشہور تصنیف "شرائع الاسلام" میں لکھا ہے کہ صدقہ وہ عقد ہے جو ایجاد اور قبول اور اقباض (قبضہ دینے) کی طرف احتیاج رکھتا ہے اور اگر مال صدقہ پر بدون رضا مالک کوئی شخص معطی لہ (جن کو کہ عطا کیا گیا ہے) کو قبضہ دے گا یا وہ از خود قبضہ کر لے گا تو اس کی طرف منتقل نہ ہو گا اور صحت صدقہ میں نیت قربت شرط (اللہ) ہے اور مال صدقہ کا قبضہ دینے کے بعد واپس لینا علی الاصح (مذہب صحیح کی بناء پر) جائز نہیں ہے اس لیے کہ صدقہ سے اجر و ثواب مقصود ہوتا ہے جو معطی (دینے والا) کو حاصل ہو چکا۔ پس صدقہ بمنزلہ ہبہ بالعوض ہے جس میں رجوع کرنا صحیح نہیں ہے اور غیرہاشمی کا صدقہ مفروضہ جو صدقہ واجب ہے (جسیسے زکوہ اور فطرہ) بنی هاشم پر حالت اختیار میں حرام اور صدقہ هاشمی (جو

(۱۷۹) البسط، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ ہجری، جلد ۱، صفحہ ۹۳

(۱۸۰) البسط، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ ہجری، جلد ۱، صفحہ ۹۴

(۱۸۱) البسط، امام سرخسی، (۵۲۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھ ہجری، جلد ۱، صفحہ ۹۴

ہاشم بن عبدالمناف کی طرف منسوب ہے) مطلقاً (خواہ حالت اختیار ہو یا حالت اضطرار) اور صدقہ غیر ہاشمی حالت اضطرار میں بنی ہاشم پر حرام نہیں۔ البتہ بنی ہاشم کو صدقہ مندوہ (ستی صدقہ جیسے گندم و گو سفند وغیرہ) کے لیے میں مطلقاً (خواہ وہ ہاشمی کا ہو یا غیر ہاشمی کا) مضائقہ نہیں۔^{۱۸۲} اس مقام پر تین مسئلے بیان کیے گئے ہیں :

(۱) صدقہ میں بعد قبضہ وجوع کرتا علی الاصح مطلقاً جائز نہیں ہے خواہ اس کا عوض حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور خواہ اہل قرابت کو دیا ہو یا کسی اجنبی کو ۔

(۲) کافر، ذمی کو صدقہ دینا جائز ہے اگرچہ اجنبی ہو، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”علیٰ کل کبد حری اجر (هر تقیدہ جگہ پر تصدق کرنے میں اجر و نواب ہے) جو کافر، ذمی کو بھی شامل ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”لَا ينہیکم اللّٰهُ عَنِ الظَّنِّ لَمْ يَقُلُوكُمْ فِي الدِّينِ“ یعنی حق تعالیٰ تم کو ان لوگوں پر احسان کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہارے ساتھ دین اسلام کے بارے میں مقاتلہ نہیں کیا ۔

(۳) صدقہ جہری ہے (علانیہ تصدق کرنا) صدقہ سری (بیوشیدہ تصدق کرنا) افضل اور بہتر ہے لیکن اگر صدقہ نہ دینے میں متہم ہو تو دفعہ تھمت اور حفظ آپرو کے لیے علانیہ صدقہ بہتر اور افضل ہے ۔

ظاہریہ سلک :

امام ابن حزم کے نزدیک ہبہ، صدقہ، عطیہ کا ایک ہی حکم ہے۔
یہ تمام عقد محض عبارت سے مکمل ہو جاتے ہیں۔^{۱۸۳}

(۱۸۲) شرائع الاسلام، مطبع بيروت، قسم ثانی، صفحات ۲۵۱

(۱۸۳) الحعلی، ابن حزم، (۶۳۵۶) مطبوعہ مصر ۱۳۵۲، جلد ۷، صفحہ ۱۳۲

۱۸۱ - کسی شریٰ کو لینے اور اس سے استفادہ کرنے کی ایسی اجازت جسے دینے والا جب چاہے منسوج کر دے "عارضت ہے" ۔

تشریع

عارضت (licence) سے حق ملکیت پیدا نہیں ہوتا بلکہ عارضی طور پر اس شریٰ سے جس حد تک اور جس وقت تک استفادہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس وقت تک حق استفادہ اس شریٰ کی نسبت پیدا ہو جاتا ہے۔ ہبہ کے برخلاف عاریت بھر صورت منسوج کی جا سکتی ہے ۔

عارضت کا مطلب ہے کہ یوسوفرکٹ (usufruct) کا ہبہ ۔ عاریت قابل رجوع ہے جب کہ ہبہ صرف خاص صورتوں میں قابل رجوع ہے ۔^{۱۸۲} ظاہریہ کے نزدیک بھی عاریت ایک مستحسن عمل ہے اور بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے ۔^{۱۸۵}

مجلہ الاحکام میں عاریت کے قانونی احکام :

مجلہ الاحکام العدیلیہ میں عاریت کے سلسلہ میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے :

۸۰۳ - عاریت کا معاملہ ایجاد اور لین دین سے مکمل ہو جاتا ہے ۔

۸۰۶ - معیر (عارضت دینے والی) کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے اپنا مال واپس لے لے ۔

۸۰۷ - عاریت کے لیے یہ شرط ہے کہ جو چیز مستعار دی یا لی جائے اس سے نفع انہانا ممکن ہو ، اسی لیے بھاگے ہوئے یا قابو سے باہر جانور کا عاریت پر دینا یا لینا صحیح نہیں ہے ۔

۸۱۰ - عاریت میں قبضہ شرط ہے ۔ قبضہ میں مال لینے سے پہلے کوئی حکم عاریت عاید نہیں ہو سکتا ۔

(۱۸۲) ہی ایل ڈی، ۱۹۵۸، لاہور، صفحہ ۱۸۹

(۱۸۵) المحل، ابن حزم، (۶۵۴ھ) مطبوعہ مصر، ۱۳۵۲ھ، جلد ۷، صفحہ ۲۰۵

- ۸۱۱ - عاریت میں مال مستعار کا متعین ہونا بھی شرط ہے ۔
- ۸۱۲ - مستعیر عاریت میں بغیر کسی بدلتے کے مال مستعار سے انتفاع کا حق دار ہو جاتا ہے ۔ اسی لیے معیر کو یہ حق حاصل نہیں کہ مستعیر سے انتفاع کے بدلتے کوئی کراہی یا صلہ طلب کرے ۔
- ۸۱۳ - مال مستعار مستعیر کے قبضہ میں امانت ہوتا ہے ۔ اس لیے اگر بغیر کسی عمل یا کوئاہی عمل (تعدی یا تقصیر) کے اگر مستعیر کے قبضہ میں یہ مال تلف ہو جائے تو مستعیر پر کوئی توان (ڈنڈ) عاید نہ ہو گا۔ مثلاً ایک مستعار آئینہ بلا قصد وارادہ ہاتھ سے چھوٹ کر گرے اور ٹوٹ جائے یا مستعیر کا پیر نادانستگ میں آئینہ پر پڑ جائے اور آئینہ ٹوٹ جائے، یا مستعار فرش پر کچھ گر کر اسے داغ دار کر دے اور اس کی قیمت میں نقص آجائے تو مستعیر پر کوئی توان عاید نہ ہو گا ۔
- ۸۱۴ - اگر مستعیر سے کوئی بے اعتدالی ہوئی یا کوئاہی عمل سرزد ہوئی اور مال مستعار تلف ہو گیا یا اس کی قیمت میں نقص واقع ہو گیا تو چاہے اس کا کوئی بھی سبب ہو، مستعیر پر توان عاید ہو گا ،
- ۸۱۵ - مال مستعیر کے اخراجات ضروریہ مستعیر پر عاید ہوتے ہیں ، اسی لیے اگر کسی نے مستعار جانور کو چارہ نہ دیا اور جانور ہلاک ہو گیا تو مستعیر پر توان عاید ہو گا ۔
- ۸۱۶ - اگر عاریت میں کسی خاص نوعیت انتفاع کی شرط ہو تو مستعیر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس نوعیت سے تجاوز کرے ، لیکن اس کو یہ حق حاصل ہو گا کہ اس سے خفیف تر یا آسان تر یا اس کے برابر کی حد تک دوسری نوعیت کا انتفاع کرے ۔

۸۲۳۔ مال عاریت کو معیر کی اجازت کے بغیر کسی کو کراہی پر دینے
یا رہن رکھنے کا حق مستعیر کو حاصل نہیں ۔

۸۲۵۔ معیر جب مستعیر سے عاریت پر دیا ہوا مال واپس مانگئے تو
فوراً اس کی واپسی ضروری ہے ۔ اگر مستعیر نے بغیر کسی عذر
کے واپسی میں دیر کی اور مال عاریت تلف ہو گیا یا اس کی قیمت
میں نقص آگیا تو توان عاید ہو گا ۔

۸۲۶۔ وہ عاریت جس میں صریحاً دلالتاً وقت کا تعین ہو ، اس کی واپسی
مقررہ وقت پر ہو گی ، لیکن واپسی میں اتنی دیر جو عادتاً ہو ہی
جائی ہے ۔ قابل در گزر ہو گی ۔^{۱۸۶}

(۱۸۶) ماخوذ المجلة الاحکام العدلية ، باب سوم ، عاریت

وقف

پچیوال باب

وقت

تعريفات ۱۸۲ - (الف) کسی قیمتی شئی کی ذات (corpus of property) کو خدا کی ملک میں مقید کر دینا اور اس کی سفت کو دوسروں پر بد اغراض مذہبی و خیراتی لیک لیتی کے ساتھ دانماً صدقہ کر دینے کا صاف اور صرع اظہار "وقف" کہلاتا ہے۔

(ب) وقف کرنے والی شخص کو "واقف"، یا "بانی وقف" کہا جاتا ہے۔

(ج) وقف جس فرد یا جماعت کو فالدہ پہنچانے کی غرض سے کیا جائے اس فرد یا جماعت کو "موقوق علیہ"، یا "موقف علیہم"، کہا جاتا ہے۔

(د) جس تحریر کے ذریعہ سے وقف کا اعلان کیا جائے اس کو "وقف نامہ" کہا جاتا ہے۔

(ه) اگر وقف اس شرط کے ساتھ کیا جائے کہ وہ واقف کی وفات کے بعد لفاذ بدییر ہو تو ایسے وقف کو "وقف بالوصیت" کہا جاتا ہے۔

(و) جو شخص اغراض وقف کے ہمرا کرنے اور واقف کی هدایات کے مطابق وقف پر عمل درآمد کرنے کے لیے مقرر کیا جائے اس کو "متولی وقف" کہا جاتا ہے۔

شروع

وقف کے لفظی معنی روکنا، باندھنا، تحویل میں رکھنا ہیں۔ عربی لغت میں اس کے معنی "جس" (بند کرنے، قید کرنے) کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق کسی مخصوص شئی ملکیت کو واقف کے حق ملک میں

(۱) المسیبۃ، امام سرخسی (۵۳۸۲) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھ، جلد ۱، صفحہ ۶۷
عدایۃ، برهان الدین سرغینی، ۵۹۳ھ کراچی، جلد ۲، صفحہ ۶۳۷

روک رکھنا اور اس کے منافع یا استفادہ کو محتاجوں پر خیرات میں با دوسرا سے حسنات (نیک کاموں) میں صرف کبھی جانے کے واسطے مخصوص کر دینا شرعی وقف کہلاتا ہے۔ صاحبین (امام ابو یوسف و امام پھد) کی رائے میں وقف کے معنی شئے موقوفہ سے واقف کی ملکت کا زائل ہو کر معنوی طور پر خدا کی ملکت میں اس طرح آ جانا ہے کہ اس کا منافع مخلوق کی طرف رجوع کرے اور اس کے کام آئے۔^۲

امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر :

امام ابو حنیفہ کی بیان کردہ تعریف کی رو سے کسی شئے کو حکماً واقف کی ملکت میں تصور کرتے ہوئے شئے کی منفعت کو دوسروں پر صدقہ کر دینا ”وقف“ ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وقف لازم نہیں ہوتا بلکہ نفس شئے کو حکماً واقف کی ملکت میں تصور کرتے ہوئے اس کی منفعت کو دوسروں پر صدقہ کر دینا عاریت کی درجہ کا حامل ہے۔ لہذا وقف کے درجہ عاریت میں ہونے کے سبب واقف کو اپنی حین حیات، اس سے رجوع کرنے، دوسروں کو ہبہ کر دینے یا فروخت کر دینے کا حق حاصل رہتا ہے تاآن کہ وہ وقف حد لزوم کو نہ پہنچ جائے۔ ان کے نزدیک وقت اس وقت لازم ہو گا جب کہ حکم حاکم ہو جائے (یا وقف بذریعہ وصیت ہو)۔ چنانچہ ان کے نزدیک جب تک حکم حاکم نہ ہو جائے (یا بطور وصیت نہ ہو) وقف لازم نہ ہو گا اور واقف شئے موقوفہ کی ملکت میں تصرف کر سکتا ہے۔^۳

(۲) هدایہ، برهان الدین مرغینانی (۵۹۲ھ) کراچی، جلد ۲، صفحہ ۶۳۷

(۳) رد المحتار، ابن عابدین، (۲۵۲ھ) مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ جیزی، جلد ۳، صفحہ ۳۶۸

جمع الانہر، داماد آفندی، ۱۰۵ھ مطبوعہ مصر، ۱۳۲۷ھ، جلد ۱، صفحہ ۳۹۴

الاختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمود بن موبد (۵۶۸۳ھ) مطبوعہ مصر،

۱۹۵۱ع جلد ۳، صفحہ ۳۰۰

فتح القدير، ابن همام (۸۶۱ھ) مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ جیزی، جلد ۵، صفحہ ۳

امام پیدا کی رائے :

امام پیدا کے نزدیک وقف حسب ذیل چار شرائط کے بعد لازم ہوگا :
 (۱) حکم حاکم -

(۲) جائزداد موقوفہ کی اس کی صلاحیت کے مطابق سپردگی -

(۳) موت پر متعلق ہو تو موت کا واقع ہو جانا -

(۴) اس طرح وقف کرنا کہ میں نے اس شے کو اپنی زندگی میں وقف کیا اور وفات کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے -

امام ابو یوسف کی رائے :

امام ابو یوسف و امام پیدا رحمہم اللہ کے نزدیک جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے کسی شے کی ذات کو اپنے ملک سے نکال کر خدا کی ملکیت میں دائماً محبوس کر دینا اور اس کی منفعت کو دوسروں پر صدقہ کر دینا ”وقف“ ہے۔ خواہ موقوف علیہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ امام ابو یوسف کے نزدیک وقف کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد ہی سے واقع کو رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا۔ پھر نہ واقع شے موقوفہ کو بہ کر سکتا ہے نہ فروخت کر سکتا ہے اور نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔“ چنانچہ امام ابو یوسف کے نزدیک وقف صرف قول سے لازم ہو جاتا ہے، حکم حاکم یا متولیان کے قبضے کی حاجت نہیں۔ وقف کے لازم ہو جانے

(۱) در المختار بر رحایہ رد المختار، علام الدین حسکفی، (۱۰۰۰ھ) مطبوعہ مصر،

۱۲۵۶ھجری، جلد ۳، صفحہ ۳۶۹

جمع الانہر، داماد آفندی، (۱۰۰۸ھ) مطبوعہ مصر، ۱۳۲۷ھجری، جلد ۱،

صفحہ ۳۹

بعوالراق، ابن نعیم (۹۰۰ھ) مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵،

صفحہ ۲۱۲

فاتاوی عالمگیری، (عربی)، مطبع محبیدی کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۱۵

فتح القدير، ابن ہام (۵۸۶۱ھ)، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۵، صفحہ ۳۰

اعکام الاوقاف، شفیق العانی، مطبوعہ بغداد، ۱۹۶۰ع، صفحہ ۱۱

کے سلسلے میں امام ابویوسف کا قول منتی ہے اور زیر عمل ہے ۵

انہہ ثلاثة کے اقوال :

امہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اصل ذات شریعہ موقفہ کس کی ملکیت ہوئے ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، امام ابوحنیفہ اس کو واقف کی ملکیت قرار دیتے ہیں جب کہ صاحبین اور دیگر حنفی فقہاء اسے اللہ تعالیٰ کی ملک کہتے ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک ملکیت واقف کی ہے۔ حنفی فقہاء میں سے شیخ ابن ہام نے اپنی کتاب فتح القدير میں اسی نظریہ کو اختیار کیا ہے۔ ازالۃ ملک کے اعتبار سے شافعیہ کا قول صاحبین کے موافق بیان کیا جاتا ہے اور حنبیلیہ کی رائے میں ملکیت معین موقفہ علیہم کی ہے۔ ۶

شیعہ فقہ میں وقف کی تعریف :

شرائع الاسلام کے مصنف علامہ نجم الدین جعفر العلی نے وقف کے بارے میں لکھا ہے کہ ”وقف وہ عقد ہے جس کا ثمرہ تجییس اصل اور اطلاق منفعت ہے۔“ (یعنی شریعہ کی ذات کو روک لینا اور اس کے منافع کو چھوڑ دینا ہے)۔ لیکن حقیقت میں یہ وقف کی تعریف نہیں کسی جا سکتی بلکہ اس

(۵) رِدَالْمُحْتَارُ بِمَعْدِ الْمُخْتَارِ، ابْنُ عَابِدِيْنَ (۱۲۵۲ھ) مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ/۱۹۷۴ء، جلد ۲، صفحہ ۲۴۲-۲۵۰

فتاوی عالمگیری (عربی) مطبع محمدی کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۱۵

فتح القدير، ابْنُ هَامَ (۱۲۹۱ھ) مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۷ء، جلد ۵

صفحات ۳۰۰-۳۳۰

الاحکام الاوقاف، شفیق العانی، مطبوعہ بغداد، ۱۹۶۱ء، صفحہ ۱۰

الاسعاف، مطبوعہ مصر، ۱۲۹۲ھ/۱۹۷۳ء، جلد ۱، صفحہ ۹

(۶) فتح القدير، ابْنُ هَامَ (۱۲۹۱ھ) جلد ۵، صفحہ ۲۰۰

(۷) ”الوقف عقد ثمرتہ تجییس الاصل و اطلاق المفہوم“ (شرائع الاسلام، علامہ

نجم الدین جعفر العلی، (۱۳۴۴ھ) مطبوعہ تہران، ۱۳۴۴ھ، جلد ۱، صفحہ ۱۵۲

کے بعض خواص کا ذکر ہے، کیونکہ تبیس کا لفظ عام ہے خواہ اس میں دوام ہو یا نہ ہو۔ لہذا اس کو اگر یوں کہا جائے تو صحیح ہو گا کہ ”وقف وہ عقد ہے جس میں ہمیشہ کے لیے اصل کی تبیس اور منفعت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔“

جمهور حنفی فقهاء کے نزدیک جائزاد موقوفہ خدا کی ملکیت ہو جاتی ہے لیکن شیعی فقهاء کے نزدیک وقف واقف کے ورثاء کی طرف رجوع کر جائے گا۔^۸

وقف ایکٹ میں وقف کی تعریف :

قانون جواز اوقاف مسلمانان ایکٹ ۹۱۳ وع کی دفعہ ۲ میں وقف کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں بیان کی گئی ہے :

”وقف“ سے مراد کسی ایسے شخص کا جو مذہب اسلام کا پیر وہ، کسی جائزاد کو کسی ایسی غرض کے لیے جو بروئے شرع محمدی، صالح یا خیراتی تسلیم کی جاتی ہو دوامًا فی سبیل اللہ نذر کر دینا ہے۔

یہ ایکٹ معاملات سابقہ پر یوں اثر انداز ہے اور ان تمام اوقاف سے متعلق ہوتا ہے جو ایکٹ مذکور کے نفاذ کے قبل یا بعد میں کئے گئے ہوں۔ جوڈیشل کمیٹی نے ایک مقدمہ میں اس تعریف کے متعلق قواردیا کہ

(۸) شرائع الاسلام مطبوعہ تهران صفحہ ۵۵۳، میں خود صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ظاهر قول ہی ہے کہ وقف واقف کے ورثاء کی طرف رجوع کر جائے گا۔ دوسرा قول ضعیف ہے، نیز عروۃۃ الوئی، مطبوعہ تهران مطبع حیدری ۱۳۷۷ھ، صفحہ ۱۹۵، میں ہے۔ ”تمہل بریح الى ورثة الواقف او، ورثة الموقوف عليه او يصرف الى وجہ البر، اقوال؟ اقوالاً بالمعنى الرجوع الى ورثة الواقف حسب ما من التتحقق۔“ یعنی کیا وقف واقف کے ورثاء کی طرف رجوع کر جائے گا یا موقوف عليه کے ورثاء کی طرف یا اسے نیک کاموں میں صرف کیا جائے گا۔ اس میں (کئی) قول ہیں۔ سب سے قوی یہ ہے کہ واقف کے ورثاء کی طرف لوٹ جائے گا۔ جیسا کہ وہ تحقیق سے گذرا۔

وقف

۱۰۴۹

بے تعریف اس ایکٹ کے لیے کی گئی ہے۔ اس سے وقف کی اس تعریف کا
جامع (exhaustive) ہونا لازم نہیں آتا۔^۹

شے موقوفہ کا قیمتی ہوں :

جس شے کو وقف کیا جائے اس کا قیمتی ہونا ضروری ہے۔ مثلاً
جائداد غیر منقولہ (زین ، مکان وغیرہ) یا ایسی جائداد منقولہ جس کا وقف
کرنا عرف میں رواج پا چکا ہو۔^{۱۰} وقف ایکٹ کی رو سے ہر قسم کی جائداد
وقف ہو سکتی ہے چنانچہ اس کی رو سے جائداد منقولہ بھی وقف کی جا
سکتی ہے خواہ اس منقولہ جائداد کا وقف کیا جانا صریح ہو یا نہ ہو۔
لہذا وقف ایکٹ کی رو سے زر نقد کا وقف بھی کیا جا سکتا ہے۔^{۱۱} ظاہریہ
کے نزدیک بھی جائداد کا وقف صحیح ہوتا ہے۔^{۱۲}

اغراض وقف :

جن اغراض و مقاصد کے لیے وقف کیا جائے ان کے لیے ضروری ہے کہ
وہ اغراض و مقاصد شرع اسلام میں مذہبی یا خیراتی یا امور خیر میں شمار
ہوتے ہوں۔^{۱۳}

دوام وقف :

ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰۵۹

الناظر وقف ۱۸۳ - (۱) ہو ایسے کامی سے وقف وقوع میں لا یا جا سکتا ہے جو وقف
کے لیے شرعاً مستعمل ہو۔

(۹) مامی بنام قلندر امل، ۱۹۲۷ع، ۵۳۵ انٹین اپلز، ۲۳۲ = ۱۹۲۷ع آل انڈیا
ریورٹر پریوی کونسل، ۲۲

(۱۰) رداد المختار، ابن عابدین (۶۱۲۵۶)، مطبوعہ مصر، ۲۵۶۰، هجری، جلد ۲
صفحہ ۳۲۰

(۱۱) بی ابل ڈی، ۱۹۵۸ع لاهور، صفحہ ۸۲۳

(۱۲) المحتلی، ابن حزم، مطبوعہ (۵۵۶) مصر، جلد ۹، صفحہ ۲۱۲

(۱۳) فناوی عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مصر، ۱۲۸۲، هجری، صفحہ ۲۹۷

(۲) اگر کوئی مسلمان بحالت صحت و بقائی ہوش و حواس کسی شے کے نارے میں جو امن کی ملک ہو موقاہ ہونے کا اقرار کرے تو وہ شے موقوفہ متصور ہوگی ۔

(۳) صریض (عیالت مرض الموت) کا اقرار وقف اس کے ترکہ کی ایک تھانی کے بغیر صحیح ہوگا ۔

توضیح : وقف کرنے کے لیے محض لفظ "وقف"، ہی کا استعمال ضروری نہیں ۔

تشریح

وقف کو وقوع میں لانے کے لیے اصل امر واقف کا ارادہ اور نیت ہے ۔ اس ارادے اور نیت کے اظہار کے لیے ہر اس کام کی اعتبار کیا جا سکتا ہے جو وقف کی تشكیل کے سلسلے میں شرعاً مستعمل ہو ۔ چنانچہ اس سلسلے میں محض لفظ "وقف" ہی کا استعمال ضروری نہیں ۔^۱

بعوالائق کے مؤلف علامہ ابن نجیم نے وقف کی تشكیل کے سلسلے میں ۲۶ الفاظ درج کئے ہیں جن میں سے چند الفاظ یہ ہیں ۔

"صدقہ" ، "موقوفہ" ، "محبوسہ" ، "حسن" ، فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں) وقف" ۔

"الفاظ جو شرعاً وقف کے لیے مستعمل ہوں" کا مطلب یہ ہے کہ جن الفاظ سے عرف کے طور پر دوام ثابت ہوتا ہو ان سے وقف تشكیل میں آجائے گا اور شرع بہ اعتبار عرف اس کام کو وقف پر محمول کرے گی ۔

الفاظ کی قسمیں :

الفاظ وقف کی دو قسمیں ہیں ۔ ایک صریح اور دوسرا ہے کتابیہ ۔

صریح الفاظ وقف میں قربیتی اور نیت کی ضرورت نہیں ہے البتہ کتابیہ میں

(۱) در المختار بر راحشیہ رد المختار ، علامہ الدین حسکنی (۱۴۰۸ھ) ، مطبوعہ مصر

۱۲۵۶ھجری ، جلد ۳ ، صفحہ ۳۷۲

احکام الاوقاف ، شفیق العائی ، مطبوعہ بغداد ، ۱۹۶۰ع ، صفحہ ۱۸

وقف کا اصل منشاء و مقصود معلوم کرنے کی غرض سے قرائیں اور نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔

اگر کسی شخص نے اس طرح وقف کیا کہ ”بیری فلاں زمین سے کچھ حصہ وقف ہے“ اس سے زیادہ کچھ نہ کہا تو وقف درست نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کہا کہ ”اس زمین یا دوکان میں میرے جتنے حصے ہیں وہ وقف ہیں“ یا کہا کہ ”اس پورے مکان میں میرا حصہ جو کہ ایک تھاں ہے وقف ہے“ لیکن اس کے بعد یہ حصہ نصف کے درجے میں پایا گیا تو کل حصہ وقف ہوگا۔^{۱۵}

اگر ایک شخص یہ الفاظ استعمال کرے کہ ”میں نے اپنی اس زمین کو فراء و مساکین پر صدقہ کیا“ تو یہ وقف نہ ہوگا بلکہ اگر اس نے اس کے لازم ہونے کی نیت کی ہے تب یہ صدقہ کرنے کی نیت سے نذر مال تصور کیا جائے گا اور اگر اس صورت میں کسی معین شخص کا نام لیا تو یہ اس شخص کے حق میں صدقہ بطور تعلیک ہوگا اور جب تک قبضہ نہ دے گا صدقہ مکمل نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کہا کہ ”میں نے اپنی اس زمین کو وقف کیا یا اسے مقید کر دیا یا حرام کر دیا یا یہ موقوفہ ہے یا یہ محبوسہ ہے یا محروم ہے“ تب بھی وقف باطل ہوگا کیونکہ اس کلام میں متعدد احتلالات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ مراد ہو کہ اس کو میں نے اپنی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا یا یہ کہ میں نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اسے مقید کر دیا دوسری صورتوں میں اس کا صرف کرنا حرام ہوگا۔ اگر کسی معین شخص کو (مخاطب کرکے) کہا کہ ”یہ میں نے تمہارے لیے وقف کی یا مقید کی یا تمہارے لیے وقف ہے یا مقید ہے“

(۱۵) بحرالراق، ابن خیم (۶۹۰ھ)، مطبوعہ مصر، ۱۳۱، هجری، جلد ۴، صفحہ ۲۰۳۔
رددالمختار، ابن عابدین (۱۲۵۲ھ)، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶، هجری، جلد ۳،

تب بھی وقف باطل ہوگا، البتہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ شخص امن شرے کا مالک ہو جائے گا بشرطے کہ اس پر قبضہ بھی دے دیا گیا ہو۔ اگر ایک شخص کہے کہ ”میرا مکان تمہاری سکونت کے لیے ہے“ تو (بطاہر) یہ عاریت ہوگی۔ اب اگر اسی شخص نے یہ کہا کہ ”یہ مکان فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ موقوفہ ہے“ اور پھر اپنے قبضے سے نکال کر متولی کے قبضے میں دے دیتا کہ وہ اس کی نگرانی کرے اور (اس کی آمدی سے) اس کی مرمت اور پانی کی نالیوں کی اصلاح کرے اور کھٹتی باڑی کا انتظام کرے اور اس کی آمدی سے اتنا بچار کھھ جو اس زین کی ضرورتوں میں بوقت حاجت کام آئے اور جو باقی رہے ہر سال فقراء اور مساکین میں صرف کر دے تو یہ وقف صحیح و جائز ہوگا۔^{۱۶}

شیعہ نقطہ نظر :

”وقف“ کا لفظ صریح ہے۔ اس لیے ظاهر لفظ حجت ہے خواہ وقف کا قصد کرے یا نہ کرے اس لیے کہ یہ لفظ وقف کے معنی میں صریح ہے۔ دیگر الفاظ جو صریح نہ ہوں جن کا استعمال وقف اور غیر وقف دونوں میں ہوتا ہے تو اس میں نیت اور قرینہ دونوں کا لحاظ کیا جائے گا۔^{۱۷}

جواز وقف کے لیے تحریر ضروری نہیں :

وقف کے لیے کسی تحریری دستاویز کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی جائزداد کے بطور وقف استعمال سے بھی اس کا وقف ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے۔^{۱۸}

(۱۶) البیسوط، امام سرخسی (۵۲۸۲)، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ هجری، جلد ۱۲، صفحہ ۳۴

(۱۷) شرائع الإسلام، نعيم الدين إلى جعفر العلوي (۵۲۴۶)، مطبوعہ تهران، ۱۳۴۵، صفحہ ۱۵۲

(۱۸) بی، ایل، ذی، ۱۹۶۱، ع، ”lahor“، صفحہ ۹۹۳
یہ ثبوت قسمی قاعدے (الاصل بناء ما كان على ما كان) اور (القدیم يترك على قدسه)
کے تحت داخل ہے۔ (شرح المجلہ محمد خالد الالاتی و محمد طاہر الالاتی منتی
حصص مطبوعہ حصص ۱۹۳۰، ع صفحہ ۲۰۰۲۳)

قانون تنظیم اوقاف، مصر ۱۹۲۲ع کی رو سے وقف کا تحریری ہونا ضروری تھا۔ قرار دیا گیا تھا۔

جواز وقف ۱۸۲ - وقف کے جواز کے لیے حسب ذیل شرطوں کا ہونا ضروری تھا:-

- (۱) وقف عاقل، بالغ اور آزاد ہو۔
- (۲) وقف کے وقت غیر محجور ہو۔
- (۳) وقف کے وقت شئی موقوفہ کا مالک ہو۔
- (۴) وقف کا اعلان نیک لبی اور حقیقی ارادے کے ساتھ ہو۔
- (۵) وقف ماسوائی وصیت فوری ہو اور کسی شرط پر موقوف نہ ہو البتہ کہ وہ شرط بقیناً موجود ہو یا موجود ہو جانے والی ہو
- (۶) شئی موقوفہ معروف اور مشخص ہو۔
- (۷) بیع یا هبہ کرنے کی شرط نہ کی گئی ہو۔
- (۸) وقف دوامی ہو۔

تشریح

وقف کے جواز کی شرائط واقف، شئی موقوفہ اور موقوف علیہم تینوں سے متعلق ہیں۔

از روئے قانون صرف وہ شخص اپنی جائیداد اور املاک میں تصرف کرنے کا اهل قرار دے دیا گیا ہے جو عاقل اور بالغ ہو چنانچہ ہر وہ مسلمان جو عاقل اور بالغ ہو اپنی جائیداد وقف کرنے کا مجاز ہے۔ بالفاظ دیگر ایک نابالغ یا پاکل شخص کا وقف قانونتاً جائز نہ ہو گا، البتہ اگر کوئی شخص ہے وقوف (idioicy) کی بناء پر تصرفات سے رونک دیا گیا ہو تو وہ اپنی زندگی تک اپنی ذات کے لیے اور بعد وفات امور خیریہ پر صرف کرنے کے لیے وقف کرے تو امام ابو یوسف کے منقولی بہ قول کے مطابق ایسا وقف درست ہو گا اور اگر وقف کی وجہ سے کرا دی گئی تو مستحقہ

طور پر صحیح ہوگا۔^{۱۹} کیونکہ وقف کے ذریعہ خرر کا احتیال موجود نہیں ہے۔

ملکیت شرط ہے :

جائیداد موقوفہ کا وقف کے وقت واقف کی ملکیت ہونا ضروری ہے۔

شئے مسوہوبہ کا وقف جب کہ وہ واہب کے قبضہ ملکیت میں نہ ہو درست نہ ہوگا۔^{۲۰} چنانچہ اگر ایک شخص کوئی زمین کسی شخص سے خرید کر وقف کر دے اس کے بعد ایک تیسرا شخص اس زمین پر اپنا حق ثابت کر دے کہ وہ زمین فروخت کنندہ کی ملکیت نہ تھی تو وقف باطل ہو جائے گا، اگرچہ اس پر مسجد ہی کیوں نہ بنادی گئی ہو۔ اسی طرح وقف کے بعد اگر کوئی شفعہ کا دعویٰ کر دے اور جائیداد موقوفہ پر اپنا حق ثابت کر دے تو وقف باطل ہو جائے گا، خواہ اس کو مسجد کی شکل دے دی گئی ہو۔^{۲۱} ایسی زمین کا وقف بھی درست نہ ہوگا جن کا مالک سرکاری

(۱۹) بحر الرائق، ابن نعیم، (۵۹۰) مطبوعہ مصر، جلد ۵، صفحہ ۴۳۷
ردد المحتار، ابن عابدین (۱۲۵۲) مطبوعہ مصر، جلد ۱، صفحہ ۲۵۶

صفحہ ۳۲۰

فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع محبی کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۱۶

فتح القدير، ابن هام (۸۶۱) مطبوعہ مصر، جلد ۱، صفحہ ۳۵۶

(۲۰) ردد المحتار، ابن عابدین (۱۲۵۲) مطبوعہ مصر، جلد ۱، صفحہ ۲۵۶

صفحہ ۳۲۰

بحر الرائق، ابن نعیم (۵۹۰) مطبوعہ مصر، جلد ۱، صفحہ ۲۰۳

فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبعہ محبی کان پور، جلد ۳، صفحہ ۳۱۵

فتح القدير، ابن هام (۸۶۱) مطبوعہ مصر، جلد ۱، صفحہ ۳۵۶

صفحہ ۳۸

(۲۱) بحر الرائق، ابن نعیم (۵۹۰) مطبوعہ مصر، جلد ۱، صفحہ ۳۱۱

صفحہ ۲۰۳

ردد المحتار، ابن عابدین (۱۲۵۲) مطبوعہ مصر، جلد ۱، صفحہ ۲۵۶

صفحہ ۳۲۰

فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع محبی کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۱۶

صفحہ ۳۱۶

لگان ادا نہ کرنے کی بناء پر اس زمین کو لگان کی وصولیاب کے لیے حکومت کے سپرد کر دے تاکہ اس کی آمدی سے حکومت اپنے لگان وصول کرے۔ ۲۲

ایجاب یا اعلان وقف :

احناف کے نزدیک عام معاهدات کے برخلاف وقف محض ایجاب یا اعلان وقف سے منعقد ہو جاتا ہے، اس کے جواز یا صحت کے لیے قبول شرط نہیں۔ چنانچہ حتی مسلک کے مطابق قبول صریح وجود وقف کے لیے یا اس میں استحقاق قائم ہونے کے لیے بطور شرط لازم نہیں ہے، خواہ موقوف علیہ معین اور محدود ہوں یا غیر معین اور غیر محدود ہوں۔ یہی مسلک مالکیہ اور حنبلیہ فقهاء کی اکثریت کا ہے۔ شاغفیہ بعض صورتوں میں قبول کو شرط قرار دیتے ہیں۔ شیعہ فقهاء معین موقوف علیہ کی صورت میں قبول کو لازمی کہتے ہیں۔ ۲۳

درachiل واقف کا محض وقف کرنے کا اعلان ایک مکمل اور جائز وقف کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شئیر موقوفہ کا قبضہ بھی متولی کو دیا جائے اگر واقف نے وقف کو نیک نیتی اور حقیقی ارادے کے ساتھ خود کو جائزداد موقوفہ کی ملکیت سے خارج کر کے وقف کیا ہو تو یہ جائز وقف ہو گا۔ ۲۴

امام ابو یوسف، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے اقوال کے مطابق وقف اپنی تکمیل کے لیے قبضے کا محتاج نہیں۔ حنبلیہ مسلک میں اس بارے

(۲۲) بحر الرائق، ابن نعیم (۱۳۹۰ھ)، مطبوعہ مصر، جلد ۱۳۱۱ هجری، صفحہ ۲۰۳

فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی کان پور، جلد ۲، صفحہ ۲۱۶

احکام الاوقاف، خصاف، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ هجری، صفحہ ۳۵

(۲۳) کنایۃ الامکام فی فقہ الاسلامیہ، طبع حجر، ایران

المنی، ابن قدامة مقدسی (۵۹۰ھ)، مطبوعہ مصر، ۱۳۶۲ هجری، جلد ۵،

صفحہ ۵۳۶-۵۳۷

(۲۴) بی۔ ایل۔ ذی، ۱۹۵۲ع، ذہاکہ، صفحہ ۲۰۶

میں دو قول متینے ہیں۔ ایک یہ کہ قبضہ شرط ہے اور دوسرا یہ کہ شرط نہیں۔ ابن قدامہ المقدسی نے المعنی میں لکھا ہے: کہ وقف میں جو امر ظاهر ہے وہ واقف کی ملکیت کا زائل ہونا ہے۔ وقف محض اس الفاظ کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے کیونکہ لفظ وقف سے وقف کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ احمد بن حنبل کی دوسری روایت کے مطابق بغیر قبضے کے واقف لازم نہیں ہوتا۔^{۲۵}

امام محمد الشیبانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، امام مالک اور شیعہ امامیہ قبضے کو تکمیل اور لزوم وقف کی شرط قرار دیتے ہیں۔

درالصل جائیداد موقوفہ کے قبضے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قبضہ خود واقف ہی کے پاس رہے اور دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلی صورت میں جائیداد موقوفہ کا قبضہ واقف کے پاس رہنے کی صورت میں انتقال قبضہ کی حاجت نہیں، جب کہ واقف خود ہی متولی ہو اور جائیداد موقوفہ پر قبضہ مالکانہ کے بجائے متولیانہ رکھتا ہو۔ دوسری صورت میں متولی مقرر کی جانے کے سبب قبضہ متولی کو دیا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن قبضے کا بنیادی منشاء واقف کی ملکیت کا زائل ہونا ہے۔

بعض صورتوں میں وقف کرنے کے بعد واقف کے عمل ہی سے ازالہ ملک کی شرط خود بخود پوری ہو جاتی ہے اور قبضے کی حاجت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی زمین کو قبرستان کے لیے وقف کر کے مسلمانوں کو اس میں تدفین کی اجازت دے دے اور لوگ اس میں ایک یا زیادہ بار تدفین کا عمل کر لیں تو اس کے بعد واقف کو یہ حق حاصل نہیں رہتا کہ وہ اس سے رجوع کرے۔ کیونکہ جو فقهاء جائیداد موقوفہ متولی کے قبضے کو جواز وقف کے لیے شرط قرار دیتے ہیں، صورت مذکورہ بالا میں تدفین کے عمل سے جو مقصد تھا حاصل ہو گی۔ اسی طرح اگر کوئی

(۲۵) المعنی، ابن قدامہ مقدسی (۶۹۲)، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۷، هجری، جلد ۵،

شخص مسافر خانہ بنائے اور اس میں ایک یا اس سے زیادہ مسافر قیام کر لیں تو واقف کو اس وقف سے رجوع کا حق نہ رہے گا کیونکہ مسافر خانہ اور مسافرین کے درمیان یہ تخلیہ ہی قبضہ موقوفہ سمجھا جائے گا۔

جو حضرات وقف کی تکمیل کے لیے قبضہ شرط قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک دونوں طریقوں پر قبضہ دیا جانا متصور ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ واقف اپنے قبضے سے نکال کر متولی کے قبضے اور تصرف میں دے دے اور دوسرا یہ کہ وقف کرنے کا جو مقصد ہے وہ موقوفہ علیہ کے عمل وغیرہ کے ذریعے سے حاصل ہو جائے۔

امام سرخسی نے اپنی کتاب المبسوط میں لکھا ہے کہ اگر اپنی زمین کو عامة المسلمين کی مسجد کے لیے وقف کر دیا اور اس پر تعمیر کر کے اپنی ملک سے علیحدہ کر کے، لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی اور موذن نے اذان دی، لوگوں نے اس میں باجماعت نماز ادا کر لی، خواہ ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہو تو اب واقف کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا، اور اس کے مرتبے کے بعد وہ جائزداد میراث میں شامل نہ ہوگی۔ جو چیز اللہ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے اس سے صدقہ کی طرح رجوع کرنا جائز نہیں رہتا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک جب واقف اس کو اپنی ملک سے علیحدہ کر دے گا اور لوگوں کو نماز کی اجازت دیدے گا تو اسی وقت وقف لازم ہو جائے گا، خواہ اس میں نماز ادا کی گئی ہو یا نہ ادا کی گئی ہو، کیونکہ وقف کے سلسلے میں ابو یوسف کا یہی سلک ہے کہ وقف کے اپنے ذاتی فعل سے مکمل ہو جانا ہے متولی کے قبضے میں دینا ان کے نزدیک شرط نہیں۔ لیکن امام محمدؐ کے نزدیک صورت متذکرہ بالا میں جب تک لوگ اس میں باجماعت نماز ادا نہ کر لیں اس وقت تک وقف مکمل نہ ہو گا، کیونکہ ان کے نزدیک تسلیم الی المتولی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ سے اس سلسلے

میں دو روایتیں منقول ہیں۔ حسن بن زیاد کی روایت کی رو سے نماز باجاعت کا ادا کیا جانا ضروری ہے اور دوسرے لوگوں کی روایت کے مطابق اگر کسی فرد واحد نے بھی نماز ادا کر لی تو یہ قطعہ زمین مسجد ہو جائے گا، خواہ نماز باجاعت ادا نہ کی گئی ہو۔ حسن بن زیاد کی روایت کی علت یہ ہے کہ تبرع (صدقہ یا احسان) اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ امن کا جو مقصد ہے وہ پورا پورا حاصل ہو جائے۔ مسجد کے قیام سے نماز باجاعت کا ادا کرنا مقصود ہے کیونکہ اگر اس سے صرف نظر کر لیا جائے تو پھر زمین کا ہر قطعہ اور ہر حصہ محل نماز ہوتا ہے۔ مسجد کے بنانے سے صرف یہی غرض ہوتے ہے کہ نماز باجاعت ادا کی جائے۔ لہذا جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو گا اس وقت تک مسجد مسجد نہ ہوگی۔ دوسرے لوگوں کی روایت کی علت یہ ہے کہ مسجد سے مقصود "جائے سجود" ہے، یہ مقصد ایک فرد کے نماز ادا کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے عام حقوق میں ایک فرد بھی ایک جماعت کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے اس بناء پر ایک شخص کا نماز ادا کر لینا بھی ایک جماعت کی نماز کے حکم میں ہے۔^{۲۶}

امام سرخسی نے قبضے کے مسئلے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے نقطہ ہائے نظر کی وضاحت کے بعد قاضی ابو عاصم کا قول درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معنوی اعتبار سے امام ابو یوسف کا قول قوی ہے۔^{۲۷}

لوری اور بلا شرط :

وقف کے لیے لازمی ہے کہ وہ فوری ہو اور کسی ایسی شرط پر موقوف نہ ہو جس کا وجود یقینی نہ ہو، البتہ ایسے وقف کی صورت میں جو وصیت کے

(۲۶) *البسوت*، امام سرخسی (۵۳۸۲)، مطبوعہ مصر، ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء، جلد ۱۶، صفحہ ۳۳۳

(۲۷) *البسوت* امام سرخسی (۵۳۸۲)، مطبوعہ مصر، ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء، جلد ۱۶، صفحہ ۳۶

ذریعہ کیا جائے، اس کا اطلاق اس کی جائزیت کے ایک تھائی سے زائد پر نہ ہوگا آلا یہ کہ بعد وفات ورثاء اپنی رضامندی کا اظہار کر دیں۔^{۲۸}

بیع یا هبہ کی شرط لہ ہو :

وقف کی تشکیل کے سلسلے میں کوئی ایسی شرط عائد نہ کی جائے جس سے کہ وقف کی نفی ہوتی ہو مثلاً بیع یا هبہ کرنے کی شرط نہ کی گئی ہو۔^{۲۹}

شے موجود اور مشخص ہو :

جس شے کا وقف مقصود ہو اس شے کا معلوم اور موجود ہونا لازمی ہے۔ انک ایسی شے جو نامعلوم یا بجهول ہو اس کا وقف جائز نہیں ہوسکتا۔

شے موقوفہ جنس، زمین یا مکان یا باغ سے جو اشیاء متصل ہوں گی وہ اس شے کے وقف میں بغیر تصریح داخل ہوں گی لیکن اگر اشیاء منقولہ موقوفہ سے متصل نہیں ہیں تو بغیر وقف کی تصریح کے نفس شے کے وقف میں داخل نہ ہوں گی۔ مثلاً کھیتی کرنے کے آله جات یا قنم یا جانور وغیرہ داخل نہ ہوں گے آلا یہ کہ واقف بوقت وقف تصریح کر دے۔^{۳۰}

دوام وقف :

فقہاء کی غالب اکثریت وقف کے دوامی ہونے کو صحت وقف کے

(۲۸) فتاویٰ عالیٰ گیری (عربی) مطبوعہ عبیدی کان پور، جلد ۲ صفحہ ۳۱۵
رد المحتار مع درختار ابن عابدین (۱۲۵۲ھ) مطبوعہ مصر ۱۲۹۹ھ، جلد ۵
صفحہ ۳۹۷

(۲۹) درالمختار، حمسکنی (۱۰۸۸ھ) مطبوعہ مصر، جلد ۲ صفحہ ۲۴۲
رد المختار، ابن عابدین (۱۲۵۲ھ) مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ جغری، جلد ۳،
صفحات ۳۲۰-۳۲۱

بعرالرائق، ابن نجیم (۱۰۹۰ھ) مطبوعہ مصر، جلد ۱ صفحہ ۲۰۳
فتاویٰ عالیٰ گیری (عربی)، مطبع عبیدی کان پور، جلد ۲ صفحات ۳۱۵-۳۱۶
(۳۰) رد المختار، ابن عابدین (۱۲۵۲ھ) مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ جغری، جلد ۳
صفحہ ۳۸۳

بعرالرائق، ابن نجیم (۱۰۹۰ھ) مطبوعہ مصر، جلد ۱ صفحہ ۲۶۶
فتاویٰ عالیٰ گیری (عربی)، مطبع عبیدی کان پور، جلد ۲ صفحہ ۳۱۸

لیے شرط قرار دیتی ہے - چنانچہ اگر کوئی وقف عارضی یا ایک وقت معین تک کے لیے ہو تو وہ باطل قرار پاتا ہے کیونکہ وقف کا مقصد دوام حصول ثواب ہوتا ہے جو ایک دائمی وقف کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ۔

امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل صحت وقف کے لیے مطابق دوام کو شرط قرار دیتے ہیں - امام محمد الشیبانی وقف کے لیے دوام کو شرط قرار دیتے ہوئے اس کے شدت کے ساتھ قائل ہیں کہ وقف میں دوامی ہونے کی صراحةت ہوں چاہئے - امام ابو یوسف بھی وقف کے دوامی ہونے کو شرط قرار دیتے ہیں لیکن امام محمد اس کے بخلاف اس امر کو لازم قرار نہیں دیتے کہ وقف کے ساتھ دوام ہونے کی صراحةت کی گئی ہو ۔ وہ لفظ "وقف" سے اس کے دوامی ہونے کو تصور کر لیتے ہیں ۔

ظاهریہ بھی اکثر فقهاء کی طرح وقف کے دوامی ہونے کے قائل ہیں - بلکہ امام ابن حزم نے اپنی تصنیف "الحلیٰ" میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے وقف کیا اور یہ شرط کی کہ بوقت ضرورت وہ اسے بیع کر سکتا ہے تو وہ وقف صحیح ہو گا اور شرط باطل ہو گئی ۔^{۳۱}

فقہاء کی عظیم اکثریت کے خلاف امام ابو حنیفہ اور امام مالک وقف کے دوامی ہونے کو صحت وقف کے لیے شرط قرار نہیں دیتے بلکہ وہ وقف کے موقعی ہونے کر جائز قرار دیتے ہیں - اسی طرح وہ بشرط ضرورت وقف میں بیع کی شرط کو بھی جائز قرار دیتے ہیں - نیز بعض شیعہ امامیہ بھی اسی رائے کے حامل ہیں ۔

وقف کے ابتدی ہونے کے مسئلہ کا تفصیلی جائزہ :

چنانچہ وقف کے اس مسئلہ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں - پہلا گروہ جو تأیید وقف کا قائل ہے اور وقف کے موقعی ہونے کو صحیح نہیں

(۳۱) "الحلیٰ" امام ابن حزم (۵۲۵-۴۵۷) مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ھ، جلد ۹، صفحہ ۱۸۳

سمجھتا ہے اس میں حنفیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور ظاہریہ شامل ہیں جبکہ دوسرا گروہ جو وقف کے موقعتی ہونے کا بھی قائل ہے اس میں مالکیہ اور بعض شیعہ امامیہ شامل ہیں۔ سطور ذیل میں مختلف مذاہب فکر کے دلائل مع تجزیہ پیش کیے جاتے ہیں۔

امام شافعی کا مسلک :

امام شافعی رحمة الله عليه کسی زمانے کی تقیید کے بغیر مطلقاً ابدیت کی شرط کے قائل ہیں۔ البتہ ایسی صورت میں کہ کسی شخص نے اپنے وقف کے وقت کوئی ایسی جمہت بیان کی جو منقطع ہو جانے والی تھی، اس سلسلہ میں ان کے دو قول متھے ہیں، اول یہ کہ ایسا وقف باطل ہوگا کیونکہ وقت سے دائمی طور پر ثواب کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ وقف صحیح ہوگا اور مقرر کردہ جمہت کے منقطع (ختم) ہو جانے کے بعد وقف کا مصرف فقراء و مساکین ہوں گے، لیکن ان فقراء و مساکین کو تقدیم کا حق حاصل ہوگا جو واقف کے رشتہ دار ہوں۔^{۳۲}

امام احمد ابن حنبل کی رائے :

اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمة الله عليه کے نزدیک بھی ابدیت شرط ہے، چنانچہ ابن قدامہ مقدسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی واقف اپنے وقف میں یہ شرط کرے گا کہ جب چاہے گا اس کو فروخت کر دے گا یا ہبہ کر دے گا یا اس سے رجوع کر لے گا تو اس صورت میں نہ شرط صحیح ہوگی اور نہ وقف صحیح ہوگا۔ اس لیے کہ اس قسم کی شرط وقف کے مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن اگر وقف میں مصرف ایسا بیان کیا گیا ہو جو منقطع ہو جانے والا ہو تو وقف صحیح ہوگا اور اس مصرف کے ختم ہو جانے پر

(۳۲) السہنْب، ابن اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی الشیرازی (۵۲۷-۶۴)،

مطبوعہ مصر ۱۹۵۹ ع، جلد ۱، صفحات ۳۸-۴۱

واقف کے قریبی رشتہ داروں پر وقف کی آمدنی صرف کی جائے گی۔^{۲۲}

امہ احناک کا مذهب :

مساوی امام ابو حنیفہ کے امہ حنفیہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابدیت کی شرط لگاتے ہوئے اس شرط میں بہت سختی اختیار کی ہے، اور یہ امر واجب قرار دیا ہے کہ واقف کی عبارت میں ایسا کلمہ ہونا ضروری ہے جو لفظی اور معنوی طور پر ابدیت پر دلالت کرتا ہو یا کم از کم معنوی طور پر تو دلالت کرتا ہی ہو۔ چنانچہ امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر واقف نے وقف کے ابدی ہونے کی صراحت کر دی لیکن مصرف ایسا بیان کیا جو منقطع ہو جانے والا تھا بھی وقف صحیح نہ ہوگا۔ امام ابو یوسف ر ابدیت کی شرط میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے متفق ہیں مگر آپ نے اس شرط کے لگانے میں امام محمد جیسی شدت اختیار نہیں کی ہے، بلکہ وہ صرف لفظ وقف کو ابدیت کے اظہار کے لیے کافی تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک اگر واقف نے کوئی ایسا مصرف بیان کیا جو ختم ہو جانے والا تھا تو وقف صحیح ہوگا اور وقف اس مصرف کے ختم ہو جانے پر خود بخود فقراء و مساکین کی طرف رجوع کر جائے گا۔^{۲۳} واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ وقف کے ابدی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔

ظاہریہ کا نقطہ نظر :

ظاہریہ کے نزدیک بھی اسی طرح وقف کا ابدی و دائمی ہونا شرط ہے، اور اگر واقف نے کوئی ایسی شرط لگان جو وقف کے منافق ہوئی تو وقف صحیح ہوگا اور شرط باطل ہو جائے گی۔^{۲۴}

(۲۲) المفتی، ابن قدامة مقدسی (۵۹۲۰)، مطبوعہ مصر ۱۳۳۸، جلد ۷، صفحہ ۱۹۵

(۲۳) بعرالرائق ابن خیم (۵۹۲۰)، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱، جلد ۵، کتاب الشکف ردالمحترار ابن عابدین (۵۱۲۵۲) مطبوعہ مصر ۱۲۵۶، جلد ۳، کتاب الوقف

(۲۴) المعلی ابن حزم (۵۳۵۶)، مطبوعہ مصر ۱۳۵۲، جلد ۹، صفحہ ۱۸۳

متدکرہ بالا تفصیل سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اکثر آئندہ وقف کی تایید کے قائل ہیں اور وقف کا ابدی ہونا ان حضرات کے نزدیک وقف کی حقیقت کا ایک جزو ہے۔ بالفاظ دیگر وقف کے مقتضی اور اس کے معنی کے اعتبار سے وقف میں ابتدیت کا اعتبار کیا جانا وقف میں داخلی حیثیت رکھتا ہے۔

امام مالک کا نظریہ :

البته ان کثیر تعداد فقهاء کے برخلاف امام مالک رحمة الله عليه وقف کے سلسلہ میں ان حضرات سے مختلف نظریہ کے حامل نظر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ وقف کی تایید کے سلسلے میں اس کے ابدی اور دائمی ہونے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک جس طرح وقف دائمی طریقہ پر صحیح ہوتا ہے اسی طرح ایک مدت معینہ تک کے لیے بھی صحیح ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک اگر وقف میں یہ شرط رکھی گئی ہو کہ واقف بوقت ضرورت اس کو فروخت کر سکے گا تو اس شرط کے ساتھ بھی وقف صحیح ہو گا، اور اسی طرح اگر یہ شرط رکھی کہ موقوف علیہ کی موت کے بعد وقف واقف کی طرف (بشرط حیات واقف) واپس ہو جائے گا، یا موت کے بعد ورثاء کی طرف لوٹ جائے گا تو یہ شرط عائد کر دینا بھی جائز ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ ان کے نزدیک وقف دائمی اور موقتی (ایک مدت معینہ کے لیے) ہر دو طرح صحیح ہوتا ہے خواہ اس کی مدت سالوں کی تحدید کے ساتھ کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔^{۳۶}

شیعہ امامیہ کی رائے :

بعض شیعہ امامیہ بھی اس مسلک میں امام مالک سے متفق ہیں چنانچہ بعض شیعہ امامیہ کے نزدیک وقف میں اس کا دائمی ہونا وقف کے معنی

(۳۶) جواہر الاکلیل، مطبوعہ مصر ۱۹۷۲ء، جلد ۲، صفحہ ۳۰۴-۵

کا جزو نہیں ہے یعنی وقف کے لیے ابتدی ہوتا جزو اصلی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ حنفیہ میں ایک قول امام ابو یوسف سے بھی مروی ہے چنانچہ فتح القدیر میں ابن ہام نے اور سرخسی نے مبسوط میں ان سے روایت کیا ہے کہ ابو یوسف رحمة الله عليه نے ابنے آخری قول میں وقف کے مسئلہ کو بے انتہا وسعت دے دی تھی، حالانکہ ابتدائی قول میں نہایت مختصر اختیار کریے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ نے آخر میں فرمایا ہے کہ وقف کا ابتدی ہونا شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے ایسے مصرف پر وقف کیا جو منقطع ہو جانے والا ہو تو وقف ان کے نزدیک صحیح ہو گا خواہ آخر میں مساکین وغیرہ کے لیے نہ کیا ہو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس عمل سے تقرب الى الله مقصود ہوتا ہے اور یہ مقصود جس طرح ابتدی طریقہ اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح غیر ابتدی ہونے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔^{۲۷}

فتح القدیر میں لکھا ہے کہ محمد بن مقاتل سے منقول ہے کہ حضرت امام ابو یوسف سے مروی ہے۔ ”اگر کوئی شخص کسی آدمی پر وقف کر دے تو یہ وقف جائز ہو گا، لیکن جب موقوف علیہ مر جائے گا تو یہ وقف واقع کے ورثاء کی طرف لوٹ جائے گا اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اس سے اقتضاء یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدت کے تعین کر لینے سے بھی وقف میں کوئی نقصان واقع نہ ہو گا۔^{۲۸} چنانچہ امام موصوف بھی ابتدیت کو وقف کا جزو تواریخ نہیں دیتے۔ بعض فقهاء نے اسی قول پر فتویٰ دیا ہے لیکن امام ابو یوسف کا اصح مفتی یہ اور زیر عمل وہی قول ہے جو ابتدیت کے حق میں ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق کے دلائل کو بھی اس موقعہ پر بیان کر دیا جائے تاکہ ان حضرات کے نقطہ ہائے نظر کو سمجھنے

(۲۷) المبسوط، امام سرخسی (۵۸۸۲)، مطبوعہ مصر ۱۳۴۲ھ، جلد ۱۲، صفحہ ۱۱۲

(۲۸) فتح القدیر ابن ہام (۵۸۶۱)، مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ھ، جلد ۵، صفحہ ۲۸

میں آسانی ہو۔

وقف کے دامنی ہونے کے قاللين کے دلائل:

۱۔ جو حضرات وقف میں اس کے ابدی ہونے کو اس کے معنی کا جزو تصور کرتے ہیں ان کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں :

(الف) "حبس الاصل"

(ب) "لايابع ولا يوهب ولا يورث"

(ج) "حبيس مادامت السموات والارض"

یہ تمام الفاظ ابدیت پر نص ہیں - چنانچہ جس عرفًا ابدی ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اگر وقف کسی وقت میں پھر واقف کی طرف رجوع کر جائے تو تجویس (بند کر دینے روک دینے کے) معنی باقی نہیں رہتے، نیز وقف کے لیے کسی مدت کا مقرر کر دینا اس لفظ کے معنی کے مخالف ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ "اصل شئی کو بند کر دو یا روک دو" یہ صدقہ کی وہ قسم ہے کہ جو ابدی ہو گی۔ جب تک دنیا باقی ہے یہ باقی رہنا چاہیے۔

اور "لايابع ولا يوهب ولا يورث" یعنی نہ فروخت کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے اور نہ ورثہ میں منتقل ہو، کی عبارت تابیدی معنی ظاہر کرنے کے لیے نص ہے کیونکہ اگر وقف کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا گیا تو اس وقت کے بعد اس کی بیع اور ہبہ و وراثت میں منتقل کر دینا جائز ہونا لازم آئیکا، اسی طرح "حبيس مادامت السموات والارض" بھی وقف کے تابیدی ہونے پر نص قطعی ہے، جس کے بعد کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات انہی وقف کے موقعہ پر اس غرض کے لیے استعمال کیجئے ہیں کہ ابدی ہونا وقف کے مفہوم کا جزو

ہونا ظاهر کیا جائے، اس لیے کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے وقف کے بھی معنی صحیح جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں ادا فرمایا، اور حضورؐ کا اس عبارت پر اعتراض نہ فرمانا اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے کلام کے منشاء کو صحیح صحیح ہے، کہ ابھی ہونا وقف اور جس کے معنی کا ایک جزو ہے۔

۲- اس کے ماسوا شریعت میں جن تصرفات کو مخصوص حالات میں مخصوص تقيیدات کے ساتھ لازم قرار دیا گیا ہے وہ تصرفات ان حالات و خصوصیات میں اسی طرح لازم ہوں گے اور ان حالات و خصوصیات سے ان کا حکم جدا نہ ہوگا، اور وقف کے سلسلے میں جتنے آثار و روایات وارد ہوئے ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وقف کا لازمی ہونا ضروری ہے (جس کے لیے ابتدی لازم ہے) تمام صحابہ اور تابعین کی عبارتیں وقف کے تابدی ہونے پر دلالت کرنی ہیں، ان عبارتوں میں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں جس سے وقف میں وقت مقرر کرنے کا جواز ظاهر ہوتا ہو!

۳- تصرفات کے لازمی ہونے کی قوت میں اضافہ کا وجود اس وقت ہوتا ہے جبکہ شارع کی طرف سے اس کا التزام کیا گیا ہو، اور شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وقف موقت ہونے کی صورت میں اس مقررہ وقت تک کے لیے لازم ہو گایا یہ کہ مؤید ہو جائے گا، بلکہ شریعت کی طرف سے جس امر پر دلیل قائم ہے وہ یہ ہے کہ وقف میں اس کا ابتدی ہونا اس کا جزو لازم ہے اور وقف میں وقت مقرر کر دینا وقف کے معنی اور مفہوم کے خلاف اور اس کی ضد ہے۔

۴- وقف میں شُیءِ موقوفہ سے واقف اپنی ملک کو ساقط کیا کرتا ہے، جیسا کہ غلام آزاد کرنے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور جتنے ایسے عقود ہیں جن میں اپنی ملک یا حقوق کو ساقط کیا جائے وہ مطلق اور غیر

مقید بوقت ہی صحیح ہوتے ہیں ان میں وقت کی پابندی جائز نہیں ہوتی۔ لہذا اسی طرح (وقف میں) سقوط الملک اس وقت صحیح ہوگا جبکہ یہ استطاع ملک مطلق چھوڑا گیا ہو۔ چنانچہ کسی وقت کی پابندی کے ساتھ جائز نہ ہوگا، جس طرح عتق (غلام کو آزاد کرنا) جائز نہیں ہوتا۔ اس مثال سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ وقف وقت کے ساتھ مشروط نہیں ہو سکتا، وقف اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ ابدی ہو۔

وقف کی عدم ابدیت کی صحت کے فالین کے دلائل :

(الف) جن حضرات کے نزدیک وقف ابدی اور موقتی دونوں طرح جائز ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ وقف اپنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے ایک قسم کا صدقہ ہے، اور صدقات جس طرح ابدیت کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں اسی طرح ایک مقررہ وقت کی شرط کے ساتھ بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدقہ ابدی تو جائز شارکیا جائے اور وقتی جائز نہ شارکیا جائے، لہذا ان دونوں قسموں میں فرق پیدا کرنا ایک زیادتی یا جبری عمل متصور ہو گا، جس کی خوبی پر کوئی نص دلالت نہیں کر سکتی اور نہ کتاب و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ صدقات اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے کتاب و سنت ہر دو دلیلوں سے ثابت ہیں، نیز سنت سے مختلف امور خیر پر صدقہ کرنا ایک واضح امر ہے۔ اسی طرح امور خیر پر صرف کرنے کے طریقے بھی سنت میں مختلف بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ صدقہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی معینہ شئی کی آمدی کو صدقہ کیا جائے اور پھر مقررہ مراتب پر دائمی طریقہ سے صرف ہوتا رہے۔ اس کے منجملہ یہ طریقہ ہے کہ ایک مقررہ وقت تک ایک خاص محل پر صرف ہوتا رہے۔ ایک اور یہ طریقہ ہے کہ جس شئی کو صدقہ کیا گیا ہے فقیر کو اس کی ذات کا مالک بنا دیا جائے اور یہ تمام طریقے صدقہ کرنے کے عام طریقوں میں شامل ہیں جو کہ صدقہ عام کی خصوص جزویات ہیں۔ لہذا ان طریقوں

میں سے بعض کے متعلق صحیح ہونے کا حکم دینا اور بعض کے متعلق غیر صحیح ہونے کا حکم دینا، درست نہیں ہو سکتا۔

(ب) حضرت عمر والی حدیث کا جواب دیتے ہوئے یہ حضرات کہتے

ہیں کہ زائد سے زائد حدیث سے یہ ثابت ہو گا کہ شئی کی ذات کو دائمی طور پر روک کر اور اس کی آمدی و پیداوار کا صدقہ دائمی کیا جانا بھی صدقہ کا ایک طریقہ ہے اور شریعت نے اس کو واضح کیا ہے، جس طرح قیاساً یہ طریقہ ثابت ہے کہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے شئی کو معبوس کر کے اس کی آمدی خیرات امور میں ایک مقررہ وقت تک صرف ہوتے رہے اور اس کیونکہ اصل علت یہ ہے کہ امور خیر میں صرف ہو، اور یہ علت دونوں طریقوں میں موجود ہے، لہذا جب یہ کہا جائے گا کہ وقف کا ابدی طریقہ شرع سے خلاف قیاس ثابت ہوا ہے اس لیے اس پر صدقہ کے کسی دوسرے طریقہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہو سکتا تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ صدقہ وقف میں اگرچہ بعض امور صدقہ کے بعض مقررہ قواعد سے مختلف ہیں جیسے کہ بیان کیجئے گئے ہیں، لیکن یہ تمام امور عقل میں آئے والے ہیں یعنی امور معقولہ ہیں، لہذا ایسی صورت میں ان پر دوسرے جزویات کو قیاس کرنا جائز ہو گا۔

اس کو دوسری طرح یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ابدی وقف قواعد

فقہیہ کے خلاف ہے، اور موقعی وقف کسی قاعدے کے خلاف نہیں۔ کیونکہ کسی شئی کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے روک کر اس کی آمدی کو خیرات پر صرف کرنے کی نظری شریعت میں موجود ہے، لیکن دائمی طور پر کسی شئی کو روک کر اور اس کی آمدی کو ابداً امور خیر پر صرف کرنا نادر الوجود ہے، لہذا جو امر ایسا ہو کہ باوجود فقہیہ قواعد کے جائز رکھا گیا ہو، تو وہ امر جو قواعد کے مطابق ہو بطريق اولیٰ جائز

ہوگا، اور جیکہ معنی اور مقصد دونوں کا ایک ہی ہو۔

(ج) مؤقت وقف کو جائز قرار دینے والے علماء نے فریق اول کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت عمرؓ کی روایت میں اگرچہ ایسی عبارتیں آئی ہیں جن سے وقف کا ابدی ہونا ظاہر ہوتا ہے لیکن غیر ابدی ہونے کی مانعت بھی ان میں موجود نہیں ہے، بلکہ ان کل عبارتوں کا ماحصل یہ ہو گا کہ جب واقف کی طرف سے ابدیت کی تصریح کر دی گئی ہو تو اس صورت میں وقف کا ابدی طریقہ پر نافذ ہونا واجب ہوگا، لیکن اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا ہو تو وقف صحیح نہ ہوگا، اور اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ حدیث میں نبی (صلعم) نے اپنے کلام کی ابتداء میں یہ کلمہ ارشاد فرمایا ہے: ”ان شئت“ اگر تم چاہو۔ آنحضرت کا اس کلمہ سے اپنے کلام کو شروع کرنا اس اس کی دلیل ہے کہ موقوفہ شئی کے روکنے کا مدار روکنے والے کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہو گا، اور جس اس کا حضور مشورہ دے رہے ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ وقف کی صرف ایک یہی صورت مقرر ہے دوسری کوئی صورت ممکن نہیں ہو سکتی یا دوسرا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ”جبس“ کا لفظ جو کہ متفقہ طریقہ پر آنحضرت (صلعم) کا فرمودہ لفظ ہے وہ لفظ ابدیت پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ جب کر دینا جس طرح ابدی طور پر ہو سکتا ہے اسی طرح وقتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، باقی دیگر ابدیت پر دلالت کرنے والے کلمات خود حضرت عمرؓ کے ہیں، اور حدیث میں صرف ایک دلیل موجود ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ الفاظ استعمال کیے اور نبی (صلعم) نے ان کو ثابت و برقرار رکھا۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس صورت کے خلاف کوئی دوسری صورت جائز نہ ہو گی۔

(د) کسی مؤقت وقف کے جائز قرار دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی ایسی شئی کو جائز کیا گیا کہ جس کی صحت پر شرع کی طرف

سے کوئی دلیل نہ تھی، اس لیے کہ موقتی وقف صدقہ ہوگا، اور صدقہ، صدقہ کرنے والے پر اس طریقہ سے لازم ہو جاتا ہے جس طریقہ سے وہ صدقہ کرے۔ پھر اس لیے بھی کہ موقتی وقف کی صحت کا التزام قیاس سے ثابت ہے، بلکہ ابتدی وقف کے مقابلے میں اس کی صحت بطریقہ اولیٰ ثابت ہو گی۔

(۵) وقف میں ابتدیت کی شرط لکانے والے فریق کی یہ دلیل کہ وقف میں واقف اپنی ملکیت کو موقوفہ سے ساقط کرتا ہے، یا دوسرے کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور دوسرے کو مالک بناتا ہے، یہ دونوں امر بصورت مطلق صحیح ہوتے ہیں، کسی وقت کی پابندی کے ساتھ درست نہیں ہوتے یا عدم ابتدیت کے قائل اصحاب کے مقابلہ میں پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مالکیہ اور شیعہ حضرات جو اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک موقوفہ میں واقف کی ملکیت بدنستور قائم رہتی ہے، لہذا اسقاط ملک یا تملیک کے قاعدے سے ان لوگوں کے مقابلے میں دلیل پیش کرنا صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی صاحب مذہب کو اس طریقہ سے جواب دیا جا سکتا ہے جس کا وہ خود قائل ہو۔

جدید نقطہ نظر :

تایید وقف کے سلسلہ میں شیخ ابو زہرہ استاذ الشریعة اسلامیہ، جامعہ القاهرہ نے اپنی کتاب الوقف میں لکھا ہے ۳۹ کہ جو لوگ ابتدیت کو وقف کے معنی و مفہوم کا جز قرار دیتے ہیں وہ تعداد میں ان لوگوں سے بہت زیادہ ہیں جو ابتدیت کو وقف کے مفہوم کا جز نہیں قرار دیتے یعنی جو حضرات موقتی وقف کو بھی صحیح کہتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن آراء کی قوت کا اعتبار کسی حکم کو کچھ لکانے والوں کی تعداد کی

(۳۹) "الابنور الحق لا يصدقنا عنه تغیر، ولا يعمينا عن ادراكه هوى، ولا يعدنا عنه نهاية، ونسعين الله فنقول" الوقف، شیخ ابو زہرہ، مطبوعہ مصر،

کثرت یے نہیں ہوا کرتا ، بلکہ جس امر میں فائدہ کمیر ہو اور جس کی دلیل کی تائید ہوتی ہو ان آراء کو قوت حاصل ہوا کرتی ہے ۔

اس کے بعد شیخ ابو زہرہ نے راجعِ الوقت مصری اور لبنانی قوانین کی دفاتر ، جن میں امام مالک کے مسلک کو اپنایا گیا ہے ، بیان کرتے ہوئے امام مالک کے مذهب کو راجح قرار دیا ہے ۔

تعمییہ :

۱- اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وقف اپنی غرض و غایت میں صدقہ کی ایک قسم ہے ، لیکن ایک مخصوص قسم ہے۔ جس طرح کہ زکوٰۃ ایک مخصوص قسم ہے لیکن صدقہ کی عام اقسام سے اپنے احکام میں مختلف ہے ، اسی طرح وقف باوجود غرض و غایت میں متفق ہونے کے اپنے احکام میں عام صدقات سے مختلف ہے ۔ صدقہ ایک جنس کلتی ہے جس کے تحت مختلف انواع داخل ہیں۔ نوع اعلیٰ اور نوع اسفل ان دونوں کے درمیان انواع متوسطہ کے متعدد درجات نکلتے ہیں ، اور ان میں ہر نوع اپنے اندر کچھ مخصوص خصوصیات کی حامل ہے ۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر چند انواع کسی ایک جنس کے تحت داخل ہوں تو وہ اپنے خصوصی احکام میں بھی اپنی جنس کے احکام کی تابع ہوں ۔ البته یہ ضرور ہو گا کہ انواع میں جنس کا حکم عام بھیشت ایک جنس کلی کے ضرور پایا جائے گا ، لیکن انواع کے خصوصیات کے لحاظ سے جو حکم ہو گا وہ جنس کے عام حکم سے بالکل مختلف ہو گا۔ مثلاً جنس صدقہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے ۔ یہ اس جنس کے تمام افراد میں ملحوظ ہو گا ، چنانچہ زکوٰۃ میں بھی یہی ملحوظ ہے اور تمام قسم کے نفلی صدقات اور اوقاف میں بھی یہ ملحوظ ہوتا ہے ، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ میں اس کی اپنی خصوصیات کے لحاظ سے کچھ ایسے احکام بھی موجود ہیں جو دیگر صدقات میں موجود و ملحوظ نہیں ۔ شریعت میں اس کے نظائر

موجود ہیں مثلاً حج کے متعدد انواع ہیں حج مفرد ، حج قران ، حج تمعن اور ان میں سے ہر ایک بعض خصوصیات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہے ، اسی طرح زکوٰۃ لازمی ہے دیگر صدقات مرضی پر مبنی ہیں ، زکوٰۃ میں نصاب و حوالان حول (ایک سال کا گذر جانا) شرط ہے ، دیگر صدقات میں ایسی کوئی شرط نہیں ۔

اسی طرح نفلی صدقات میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان کے بعض افراد ، جنس صدقہ میں متعدد ہونے کے باوجود اپنے اندر بعض ایسی خصوصیات رکھتے ہوں جو دوسری انواع میں نہ پائی جائیں ۔ چنانچہ وقف اگرچہ غرض و خایت میں اپنی جنس "صدقہ" کے ساتھ متفق ہے ، لیکن اس میں بعض خصوصیات ایسی ہیں جن کی بنا پر حکم میں مختلف ہے ، چنانچہ غیر موقوفہ صدقات میں یہ بھی صحیح ہے کہ شُریٰ کی ذات کا صدقہ کر دیا جائے اور دوسرے شخص کو اس شُریٰ کا مالک بنا دیا جائے خواہ وہ ان کو قائم رکھے یا فروخت کر ڈالے ۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ شُریٰ کی آئندی کو صدقہ کیا جائے اور شُریٰ کی ذات کو اپنی ذات ملکیت میں باق رکھا جائے ۔ یہ بھی صحیح ہے کہ صدقہ ہمیشہ کرتا رہے ، اور یہ بھی کہ ایک وقت معین تک کرے ، اور اس کے بعد روک دے ۔ صدقہ اس شُریٰ کا بھی صحیح ہو گا جو زیادہ عرصہ تک باق رہنے والی ہو اور اس شُریٰ کا بھی صحیح ہو گا جو زیادہ عرصہ باق رہنے والی نہ ہو ، بلکہ اس سے استفادہ ہی اس وقت کیا جا سکے کہ جب اس کی ذات کو فنا کر دیا جائے ، یا استعمال میں مسلسل آئی رہے اور آخر میں فنا ہو جائے ، لیکن صدقہ موقوفہ کی صورت ذرا اس سے مختلف ہے ۔ یہ اپنی خصوصی صفت کے اعتبار سے مذکورہ صدقات سے حکم میں مختلف ہے ۔ اسی وجہ سے شارع علیہ السلام نے دیگر صدقات سے ممیز کرنے اور جنس صدقہ کی ایک مخصوص نوع قرار دینے کے لیے حضرت عمر رضوی کو اپنے ارشاد میں اس کے طرف رہبری فرمائی ۔ اگر وقف صدقہ

کے عام افراد کی طرح کسی خصوصیت کا حامل نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس مخصوص انداز سے مخاطب نہ فرمائے کہ اگر تم چاہو تو اصل زمین کو بھجوں کر دو اور اس کی آمدی کا صدقہ کر دو۔

۲۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو متعدد ابواب میں روایت کیا ہے، چنانچہ بخاری کے باب الشروط فی الوقف میں بواسطہ ابن عون، نافع عن ابن عمر، مروی ہے کہ ”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ“ کو خبر میں جو زمین ملی تھی اس زمین کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ اخضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ لینے حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ ! مجھے خیر میں جو جائزداد ملی ہے وہ میرے نزدیک اتنا نفیس مال ہے کہ اس سے قبل مجھے بیسر نہ ہوا لہذا، حضور کا اس مال کے (فی سبیل اللہ صرف کرنے میں) کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا: اگر تم چاہو تو اصل زمین کو بھجوں (مقید) کر دو اور (اس کی آمدی) کا صدقہ کر دو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان شرائط پر ان کا صدقہ کر دیا کہ ”نه اس زمین کو فروخت کیا جائے نہ اس کا ہبہ کیا جائے اور نہ وراثت میں تقسیم ہو“ چنانچہ فقراء اور رشتہ داران و گردنبیں آزاد کرنے اور مسافروں کی خدمت اور مہمانوں کی مہمانداری پر اس کا صدقہ کر دیا۔ اور یہ کہ جو شخص اس زمین کی نگرانی کا متولی ہوگا وہ معروف طریقے پر اس میں سے لے سکے گا اور دوسرے کو کھلا سکے گا، یہ نہیں کر سکے گا کہ (اس کی آمدی کو) اپنے لیے جمع کر کے مالدار بننے کی کوشش کرے۔^۱ نیز (باب الوقف و کیف یکتب کی روایت کے الفاظ بھی یہی ہیں)^۲ دوسری روایت، (باب ماللوضی ان یعمل فی مال الیتم) میں بواسطہ صخر بن (۷۰) بخاری، جلد اول، سطبوغہ کارخانہ بخارت کتب، کراچی، صفحہ ۳۸۲۔
 (۷۱) بخاری، مولہ بالا، صفحہ ۳۸۲۔

جو بیریہ ، نافع حضرت ابن عمرؓ سے اس طرح روایت کی ہے کہ "حضرت عمر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنے مال کا صدقہ کیا ، اس مال کا شیخ تھا جو کھجوروں کا باغ تھا ، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا مال ملا ہے جو میرے نزدیک بہت نفیس مال ہے ، میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو صدقہ کر دوں ، حضور نے فرمایا اصل مال کا اس طرح صدقہ کرو کہ نہ وہ فروخت کیا جا سکے نہ ہبہ کیا جائے نہ وراثت میں تقسیم کیا جائے ، بلکہ اس کے پہلے خرج ہوتے رہیں ، لہذا حضرت عمر نے اس کا (اسی طریقہ پر) صدقہ کر دیا ، چنانچہ ان کا یہ صدقہ فی سبیل اللہ اور گردنیں آزاد کرانے اور مسَاکین اور مہانوں کی سہان نوازی اور مسافروں و رشتہ داروں پر صرف ہوتا تھا ، اور متولی کے لیے کوئی حرج نہ تھا کہ وہ اپنی صحیح ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لے یا اپنے احباب کو دے دے ، بشرطیکہ مالدار بننے کی خواہش کے پیش نظر جمع کرنے کی کوشش نہ کرے۔^{۲۲}

پھر باب الوقف للفقیر والغنى میں تیسری روایت بواسطہ ابن عون ، نافع ابن عمر سے اس طرح روایت کی ہے کہ "حضرت عمر کو جو زمین خیر میں ملی تھی اس کے متعلق انہوں نے آنحضرت^{۲۳} سے معلوم کیا تھا ، حضور^{۲۴} نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا دل جائے تو اس کا صدقہ کر دو ، چنانچہ حضرت عمرؓ نے فقراء اور مسَاکین اور رشتہ داران و مہانوں کی مہانداری کے سلسلے میں اس کا صدقہ کر دیا ، پھر "باب نفقة القيم للوقف" میں بواسطہ ایوب ، نافع حضرت ابن عمرؓ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ "حضرت عمر نے اپنے وقف میں یہ شرط کر دی تھی کہ جو شخص اس کا متولی ہو وہ خود اور اپنے احباب کو اس (وقف سے) معروف طریقے پر کھانا اور کھلا سکتا ہے ، لیکن مالدار بننے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔"^{۲۵}

(۲۲) بخاری، "محولہ بالا" صفحہ ۳۸۹ - (۲۳) بخاری، "محولہ بالا" صفحہ ۳۸۹ -

وقف

۱۰۷۵

ابو داؤد نے تین سندوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ہر سند کے آخری راوی عبداللہ بن عون ہیں جنہوں نے نافع سے روایت کیا ہے ، اور امام احمد و دارقطنی نے حضرت ایوب ، نافع سے روایت کیا ہے ۔ اور طحاوی نے بھی یحییٰ بن سعید انصاری سے اور نسائی نے عبیداللہ بن عمر رضی سے روایت کیا ہے ۔

چنانچہ بخاری کی پہلی روایت میں جس کو ہم ابتداء میں نقل کر چکرے ہیں یہ جملہ بھی ہے : "فكيف تامرق به" اور حضرت یحییٰ بن سعید کی روایت میں ہے : "ان عمر استشار ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ان یتصدق" دوسرا جملہ بخاری کی مذکورہ روایت میں یہ ہے : "ان شَتَّى حِبْسَتِ أَصْلَهَا وَتَصْدِيقَتِ بَهَا" چنانچہ حضرت عبیداللہ ابن عمر کی روایت میں اس جملہ کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے : "احبس اصلہ و سبل ثمرتها" اور یحییٰ بن سعید کی روایت میں ہے : "تصدق بشره و جس اصلہ" پھر بخاری کی مذکورہ حدیث میں یہ جملہ ہے : "فتصدق عمر رضی انه لایابع اصلہها ولا یوہب ولا یورث" مسلم کی روایت میں ایک لفظ "ولا تباع" زیادہ آیا ہے ، دارقطنی کی روایت میں حضرت عبیداللہ بن عمر رضی کی حدیث میں یہ جملہ اس طرح مروی ہے : "حس ما دامت السموات والارض" اور یہیقی نے یحییٰ بن سعید ، نافع سے جو روایت کی ہے اس میں یہ جملہ اس طرح ہے : "تصدق بشره و جس اصلہ لایابع ولا یورث"

مذکورہ روایات کو پیش نظر رکھ کر اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی کو اس سے قبل صدقہ کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہونے تھے ؟ ظاهر ہے کہ اس کا جواب یہی ہو گا کہ بتیناً ان کو صدقہ کرنے کے تمام مروجہ طریقے معلوم

تھے، کیونکہ اس واقعے سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انے اصحاب کو صدقہ کرنے کی ترغیب فرماتے رہے اور اصحاب برابر صدقہ کرتے رہے جس میں خود حضرت عمر بھی شامل ہیں اور یہ اس ایسا ہے جو کسی شخص پر بوشیدہ نہیں خصوصاً جبکہ یہ واقعہ فتح خیر کے بعد کا ہے بلکہ عمر بن شیبہ نے ایک ضعیف سند سے محمد بن کعب سے نقل کیا ہے کہ یہ ہجری کا واقعہ ہے۔ بہر حال یہ امر یقینی ہے کہ اس واقعے سے قبل کثیر تعداد میں صدقات عامہ کا سلسلہ جاری تھا۔ جہاد اور غیر جہاد کے موقع پر ایسا ہوتا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور انور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے نفس مال کے لیے فی سبیل اللہ صدقہ کرنے کے متعلق مشورہ لینا کسی خاص کیفیت و نیت کی غرض سے تھا اور وہ سوائے اس کے اور کچھ نہ تھی کہ صدقہ کے انواع میں سے کوئی ایسا نوع وجود میں آجائے جس کا اجر و ثواب صدقہ کرنے والے کو دامناً و ابدًا ملتا رہے اور اس سے لوگ قطع نظر فقر و مسکن کے بھی مستفید ہوتے رہیں اور صدقہ کرنے والے کے اہل و عیال بھی اس سے استفادہ اس طرح کریں کہ صدقہ کی ہوئی چیز ان کی دست بردا سے محفوظ رہے تاکہ اس کی بقاء سے دائمی فائدہ اٹھایا جانا رہے۔ حضرت عمر رضی کے قلب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسے امور کا القاء مشہور و معروف امر ہے، لہذا موقتی وقف کے جواز کے قائلین کی یہ دلیل کہ وقف صدقات کے منجملہ ایک صدقہ ہے جس طرح دیگر صدقات موقتی اور دائمی دونوں طرح ہو سکتے ہیں اسی طرح وقف دونوں طرح جائز ہوگا، صحیح نہیں۔ حضرت عمر رضی کا پورا واقعہ اس سے انکار کرتا ہے کیونکہ اس معنی کے اعتبار سے حضرت عمر رضی کا یہ فعل محض عبث و لغو قرار پاتا ہے کہ صدقہ کی کیفیت مسلسل دیکھتے اور کرتے رہنے کے بعد ایک

مہمل سوال کریں بلکہ فی سبیل اللہ خرج کرنے کا تصور آتے ہی اس باع
کو فقراء و مساکین و دیگر مستحقین میں حصہ کر کے تقسیم فرمادیتے باع
کے دمن تخل کسی کو، پانچ کسی کو، پندرہ کسی کو دے کر معاملہ ختم
کر دیتے، ایسا کرنا کوئی مشکل اس نہ تھا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غرض کو فوراً سمجھ گئے تھے ”اگر ایسا
نہ ہوتا تو حضور صاف طور پر مختصر جواب مرحمت فرمادیتے، اما تعلم
سنۃ الصدقۃ فتشاورنی افعل کیا ی فعلون المسلمون او کہا کنت فعلت“
اے عمر! کیا تم صدقہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے جس طرح دوسرے مسلمان
کرتے رہے ہیں یا تم کرتے رہے ہو اسی طرح کر دو مجھ سے مشورہ لینا
کیا معنی؟

۳ - شیخ ابو زہرہ نے وقف کو صدقات کے منجملہ ایک صدقہ قرار
دینے میں اپنی عبارت میں یہ بھی فرمایا ہے : ”صدقات عامہ اور وقف کے صدقہ
میں حکماً تفریق کرنا زبردستی ہے ، نہ اس کو کوئی نص خوبی قرار دیتی
ہے اور نہ کتاب و سنت سے اس کو قوت پہنچتی ہے۔“ یہ ایک عجیب بات
ہے ، کیونکہ موصوف نے اگر نص سے نص منت مرادی ہے تو حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ خود موصوف نے وقف کی ابدیت کے
قالین کی حجت میں بیان کی ہے اس طریقہ کے حسن و خوبی پر دلیل موجود
ہے - حضرت عمر رضی نے صدقہ کا احسن طریقہ معلوم کرنے کے لیے ہی
آنحضرت (صلعم) کی خدمت میں حاضری دی تھی اور حضور انورؓ نے انسا ہی
طریقہ ان کو بتالیا تھا جو صدقہ کے افراد میں اپنی نوعیت سے بہترین
طریقہ ہو - اور اگر نص سے کتاب اللہ کی نص مراد ہے تو کتاب اللہ کی
کثیر تعداد میں آیات ایسے صدقہ کو جو خدا نے تعالیٰ کی رضا جوں کے

(۲۲) فالتفرقۃ بین النواعین تھکم لا یبرده نص ولا یسمد قوہ من کتاب او سنۃ

لیے دائمی و ابدی طور پر کیا گیا ہو افضل ترین صدقہ قرار دیتی ہیں۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا میں مال انسان کی محبوب ترین اشیاء میں سے ایک ہے فرمایا ہے: ”وَعَبُونَ الْأَمْلَ حِبًّا جَا“ اور فرمایا ہے: ”زِنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّمْوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالظَّانَطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسُوَّةِ وَالْأَنَاعِمِ وَالْعَرَثَةِ الْأَلِيَّةِ“ اب اس محبوب ترین شئی کے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے خروج کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ایک وقت میں فی سبیل اللہ صرف کرے اور دوسرا سے وقت میں صرف نہ کرے بلکہ اپنے اور اپنے متعلقین کی ضروریات میں صرف کرے اور اسی حالت میں فی سبیل اللہ صرف کرنا منقطع ہو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی محبوب ترین شئی سے ہمیشہ کے لیے خود کو اور اپنے تمام اقرباء کے مالکانہ تصرفات کو منقطع کر کے فی سبیل اللہ صرف کرتا رہے اور کرواتا رہے۔ ظاہر ہے کہ مال کی محبت اس کو اول طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کرے گی اور وہ یہ محبوب رکھیں گا کہ مال کبھی فی سبیل اللہ صرف ہو اور کبھی اس کی اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں۔ یہ اس کہ ابدی طریقہ ہے اس کا مال اس کے تصرف مالکانہ سے باہر ہو جائے کسی طرح پہنند نہ کرے گا۔ چنانچہ فی سبیل اللہ خرج کرنے کے ان دو طریقوں میں سے خدائے تعالیٰ کو وہ طریقہ محبوب ہو گا جو خود انسان کو ناگوار خاطر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَنْ تَنَالُوا الْبَرْحَى تَنَقْوُ مَا تَعْبُونَ“ اور انسان کا خود اپنے مال کے لیے محبوب یہ عمل ہے کہ ابدی طور پر اس کے تصرفات مال سے منقطع نہ ہو جائیں یعنی مذکورہ دو طریقوں میں اول طریقہ اختیار کرنا محبوب ہے اور دوسرا طریقہ اختیار کرنا محبوب تر ہے، نیز دوسرا سے طریقے ”مَا تَنَقْبُونَ“ پر عمل کرنا متصور ہو گا، اور اسی ”لَنْ تَنَالُوا ، الْبَرْ“ کے وعدہ کے اضعافاً مضاعفة کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اتفاق موقتی اور اتفاق ابدی اگرچہ ”اتفاق فی البر“ میں دونوں شریک ہیں لیکن ”اتفاق ابدی“ میں جو خصوصی حسن و خوبی اور ہوا یعنی نفس سے مجاهدہ موجود ہے وہ موقتی اتفاق میں موجود نہیں اور یہ امر ہے جو اس بات کا مقتضی ہے کہ صدقہ بصورت وقف دیگر صدقہ کے افراد سے حکم میں مختلف ہو اور اس کے نظائر شریعت میں موجود و ثابت ہیں اور دونوں کے درمیان تفرقہ کا قائل ہونا محض صحیح ہی نہیں بلکہ ضروریات ہے ، اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر اس کی وہ خصوصی نوعیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے بے مقصد قرار پائے گی ۔

۴ - وہ دلائل جو حدیث مذکور کے استدلالی الفاظ کے سلسلہ میں موقتی وقف کی صحت کے قائلین کی طرف سے پیش کیجئے گئے ہیں ، ہمارے خیال میں وقف میں ابديت شرط ہونے کے قائلین کے مقابلے میں کمزور اور بے وزن ہیں ۔ مذکورہ حضرات کی پہلی تردیدی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو نصاً ابديت پر دلالت کرتے ہیں ، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ غیر ابدي وقف جائز نہ ہوگا ، حدیث کی عبارت اس میں وقف کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں ساکت ہے ۔ اس کا جواب ابديت شرط ہونے کے قائلین کی طرف سے یہ دیا جا سکتا ہے کہ وقف میں ابديت کا شرط ہونا اس امر کا مقاضی ہے کہ جو صدقہ ابديت کے بغیر کیا گیا وہ وقف نہیں کہلانے کا البته صدقہ کے دوسرے انواع کی طرح عام صدقات میں سے ایک ایسا فرد ہوگا جو اجر و ثواب میں صدقہ وقف جیسے درجہ کا حامل نہ ہوگا ، بلکہ دیگر عام صدقات کی طرح صدقہ کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا ،

حدیث کی جن روایات میں "ان شہت" کا لفظ وارد ہوا ہے اس سے یہ استدلال کرنا کہ یہ جملہ اس امر کی دلیل ہے کہ صدقہ کو ابتدی کرنا صدقہ کرنے والے کی مرضی اور پسندیدگی پر رکھا گیا ہے خواہ وہ جس ابتدی کریے یا موقعی کر دے اور اس سے وقف کے موقعی ہونے کی صحت ثابت ہوئی ہے، اسکا جواب یہ ہے کہ "ان شہت" کے الفاظ یعنی اگر تم چاہو سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے کے دو طریقے میں ایک وہ جو ابتدیت پر مشتمل ہو دوسرا وہ جو وقتی طور پر ہو۔ ابتدیت پر مشتمل ہونے والا طریقہ جس (وقت) فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے جس میں ہمیشہ کے لئے اپنے ذاتی تصرفات کو شئی مصدقہ (موقوفہ) سے روک دینا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ محض صدقہ کہلاتا ہے جس میں ایک مقررہ وقت تک فقط ذاتی تصرف کی بندش ہوئی ہے، اب اگر چاہو تو جس فی سبیل اللہ کا طریقہ اختیار کرو جو مجاهدہ نفس کا اعلیٰ درجہ ہے اور چاہو تو عام صدقہ کا طریقہ اختیار کرو جو مجاهدہ کا ادنیٰ درجہ ہے۔ یہ کہنا کہ جس کا لفظ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بلا نزاع فریقین ثابت ہے، لیکن جس جس طرح ابتدی طور پر ہو سکتا ہے اسی طرح ایک وقت مقررہ کے لیے یہی ہو سکتا ہے، صحیح نہیں۔ ہمارے خیال میں اگر حضور کا اس لفظ سے یہی منشاء تھا تو اس لفظ کو اس موقع پر جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے صدقہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لئے رہے ہوں، استعمال کرنا کسی خصوصیت کا حامل نہ رہا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دینا کسی جدید خصوصیت کا حامل نہ ہوئی کی بتا پر مشورہ دینے کی کام حقہ ادائی نہ ہوئی، بلکہ یہ ایک وہی عام بات ہوگی جس کو حضرت عمر رضی بھی جانتے تھے۔

۵ - یہ دلیل کہ باقی عبارت (لایبیاں ولا یوهب ولا یورث) یہ خود

وقف

۱۰۸۱

حضرت عمر رضی کی اپنی ہے رسول اللہ صلعم نے اپنے کلام میں اس قسم کی شرائط نہیں بیان فرمائیں ! اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو ابتدی شرط ہونے کے قائلین نے دیا ہے کہ یہ الفاظ اگرچہ حضرت عمر کے سہی ، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء کو سمجھتے ہوئے حضرت عمر نے ان کو استعمال فرمایا تھا اور آنحضرت نے ان الفاظ کو اپنی جگہ ہر برقرار رکھا تھا جو اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضورؐ کی منشاء کو صحیح سمجھتے اور آنحضرتؐ نے ان کی تصویب فرمادی ، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نے صحیح بخاری سے حضرت صخر بن جوبیریہ کے ذریعہ حضرت نافع سے جو روایت اپنی تقریر کے سابقہ صفحات میں نقل کی ہے اس روایت میں (لایاع ولا یوہب ولا یورث) فرمانا خود رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے ، اس طرح یہی کی روایت منقولہ صدر میں بھی یہ عبارت موجود ہے (تصدق بشره و جس اصلہ لایاع ولا یورث) ان دونوں روایتوں سے واضح ہے کہ یہ شرائط خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی تھیں اور حضرت عمر نے ان کو نقل فرماتے ہوئے دیگر امور کا اضافہ کیا تھا چونکہ ان شرائط کا مقتضی وہی تھا جس کو حضرت عمر نے اپنے الفاظ میں اس طرح ادا فرمایا فصیدتہ تلک فی سبیل اللہ وفی الرقاب والمساکین والضیف وابن السبیل ولذی القربی الخ -

چنانچہ جن احادیث میں یہ جملے (لایاع ولا یوہب ولا یورث) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلام روایت کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آنحضرت سے یہ جملے سمعوع فرماسکر وقف کرنے کے وقت خود بھی استعمال فرمائے تو بعض روایوں نے حضرت عمر کے جملے نقل کر دیے ۔ اور بعض روایوں نے آنحضرتؐ اور حضرت عمر رضی دونوں حضرات کے کلام کو پورا پورا نقل کر دیا ۔ اور ایسا احادیث

میں عموماً موجود ہے، اسی لیے امام شافعی رحمة الله عليه نے اپنی کتاب الرسالہ میں حدیث کے اصول میں مختلف الحدیث کی بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے^(۲۵) کہ کبھی آنحضرت صلعم سے کسی شئی کے متعلق سوال کیا جاتا، تو آپ سوال کے اندازے پر جواب مرحمت فرمادیتے اور آپ کی جانب سے خبر دینے والا کبھی پوری خبر دے دیتا اور کبھی اس میں اختصار کر دیتا، اور کبھی اس خبر میں بعض مطلب بیان کر دیتا اور بعض سعی کو ترک کر دیتا، اور ایک شخص جو جواب کے وقت موجود ہوتا جو ای گفتگو کو روایت کر دیتا اور سوال کے وقت موجود نہ ہونے کی وجہ سے سوال کی حقیقت اور اس کے سبب پر واقفیت حاصل نہ کر سکتا، تاکہ حضور[ؐ] کے جواب کی حقیقت اور سبب کو بیان کر دیتا، (جس سے حضور کی پوری منشاء کا پتہ چل سکتا)۔ لہذا اس سلسلہ کی حضرت عمر رضی[ؓ] کی تمام روایات پر جب نظر کی جاتی ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بعض روایوں نے پورے طور پر واقعہ نقل کر دیا ہے اور اس طرح روایات کو جمع کرنے کے بعد کلام کو نقل کر دیا ہے، اور اس کام روایات کو جمع کرنے کے بعد اصل حقیقت مانے آجائی ہے!

شیخ ابو زہرہ نے فتح القدير کمال الدین ابن ہام کا حوالہ دیتے ہوئے امام ابو یوسف کا ایک قول یہی اس سلسلہ میں نقل کیا ہے کہ جب موقوف علیہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو وقف واقف کے ورثاء کی طرف واپس ہو جائے گا اور اس قول پر فتویٰ ہوتا منتقول ہے، گویا اس سے یہ بتانا چاہا ہے کہ اس قول میں امام مالک رحمة الله عليه کے ساتھ شیعہ امامیہ

(۲۵) (ويستل عن الشئي فيجيب على قدر المستلة ويؤذى عنه المعتبر عنه المعتبر متخصص والمعتبر متخصصاً، والغير فائق بعض معناه دون بعض - وحدث عند الرجل الحديث قد ادرك جوابه ولم يدرك المستلة فidelه على حقيقة الجواب بمعرفته السب الذي تخرج عليه الجواب) کتاب الرسالۃ صفحہ ۲۱۳ مطبوعہ مصر ۱۹۵۰ء ۱۳۵۸)

کے ماسوا احناف کے بعض امام بھی شریک ہیں اور امام مالک اس قول میں تنہا نہیں ہیں۔ اس قول کے نقل کرنے کے بعد موصوف نے نتیجہ میں یہ کہا ہے کہ جب امام ابو یوسف موقوفہ کے واقف کے ورثاء کی طرف واپس ہو جانے کے قائل ہیں تو دس سال کے لیے وقف کرنے کے بطريقہ اولیٰ جواز کے قائل ہوتے مگر ہم اس کے مقابلے میں امام ابو یوسف کی ایک دوسری روایت پیش کرتے ہیں جس کو علامہ ابن حجر رحمة اللہ علیہ نے فتح الباری جلد ۷ صفحہ ۳۲۱ میں نقل کیا ہے^(۲۶) امام طحاوی نے عیسیٰ ابن ابیان سے نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف وقف کی بیع کے جائز ہونے کے قائل تھے جب ان کو حضرت عمر رضی کی یہ حدیث معلوم ہوئی تو فرمایا کہ ابن عون سے اس حدیث کو کس نے سنا ہے تو ان سے ابن علیہ نے یہ حدیث بیان کی تو فرمایا کہ اب تو اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے خلاف کمہ سکے اور اگر یہ حدیث ابو حنیفہ رضی کو پہنچ جاتی تو وہ بھی اس کے قائل ہو جاتے چنانچہ وقف کی بیع کے جواز کے قول سے آپ نے رجوع کر لیا، اب یہ مسئلہ عدم جواز منتفق علیہ ہو گی۔

ہمارے خیال میں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو یوسف تایید کے قائل ہو چکے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طرح واقف کے ورثاء کی طرف وقف کے واپس ہوتے کے قائل تھے اسی طرح واقف کو وقت ضرورت اس کی بیع کے جواز کے بھی قائل رہتے، اور بھی وجہ ہے کہ متاخرین قسماء احناف نے امام ابو یوسف کا آخری قول وقف کے لیے تایید شرط ہونا نقل کیا ہے حتیٰ کہ صرف لفظ وقف ہی ان کے تزدیک اس کے ابدی ہونے

(۲۶) (فیعک الطحاوی عن عیسیٰ ابن ابیان قال: کان ابو یوسف بیگز بیع الوقف فبلنه حدیث عمر رضی هذا فقل: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علیہ، فقال هذا لا يسمع احداً خلافه ولو بلغ ابا حنیفہ لقال به فرجع عن بیع الوقف حتیٰ صار کانه لا خلاف فيه بین احمداء)۔

کے لیے کافی ہوگا۔ اس کی صراحت کی ضرورت بھی نہ ہوگی، البسط میں امام ابو یوسف سے جو کچھ نقل کیا ہے امن کا منشاء بھی یہی ہے کہ وہ ابدیت کی تصریح کی شرط کے قائل نہیں بلکہ بغیر صراحت کے وقف ابدی ہو جائے گا۔

نتیجہ فکر :

مندرجہ بالا مباحثت ہے اس نتیجہ پر پہنچا جا سکتا ہے کہ بنیاد وقف کے لیے ابدیت شرط ہے، خواہ اس کے بعد دیگر عوارضات کے اعتبار سے اس میں تغیر و تبدل کرنا پڑے۔ یہ امر مستثنیات میں سے ہوگا۔ چنانچہ استبدال وقف وغیرہ کے تمام جزوی مسائل در حقیقت اسی استثنائی قاعدے پر مبنی ہیں اور آئندہ سلف کے متفق علیہ مسائل ہیں، لہذا کوئی زمین موقوفہ یا دیگر جائداد موقوفہ اگر کسی وقت میں ایسے درجہ کو پہنچ جاتی ہے کہ اس سے وقف کے مقاصد حاصل کرنا، بالفاظ دیگر واقف کی غرض انفاق فی سبیل اللہ یا استفادہ موقوف علیہم، ناممکن ہو جاتا ہے تو اس وقف کا استبدال ان فقهاء نے بھی جائز رکھا ہے جو وقف میں اس کے ابدی ہونے کو مفہوم وقف کا جزو کہتے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو ان فقهاء کا قول بدین وجہ قرین صواب ہے کہ اس کا ایک ایسا فائدہ بھی متصور ہوتا ہے جو موقتی وقف سے متصور نہیں ہوتا وہ کہ جو وقف کسی معینہ مدت کے لیے کیا گیا ہو یا کسی معینہ مدت پر ختم ہو جانے کا قاعدہ بنا دیا گیا ہو اس مدت معینہ پر ختم ہو کر واقف یا موقوف علیہم کی یا وارثوں کی ملکیت کی طرف رجوع کر جائے گا اور اس کی حالت اس ملکوکہ مال جیسی ہو جائے گی جس کو وقف نہ کیا گیا ہو۔ گویا اس مدت کے ختم ہونے پر جائداد موقوفہ اور غیر موقوفہ میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ موقوفہ مدت معینہ کے بعد ان تمام مالکانہ تصریفات کا محل ہوگی جس کا غیر موقوفہ جائداد شروع ہی سے محل تھی، لیکن یہ فرق کوئی ایسا معتبر ہے فرق نہیں

ہوگا جس سے واقف کی غرض مکمل طور پر حاصل ہونا تصور کیا جا سکے۔ بخلاف اس صورت کے جبکہ وقف میں دائمی ہونا شرط ہو اس صورت میں اگر وقف پر ایسے حالات طاری ہوتے ہیں کہ وقف سے استفادہ مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے اور اس کی بیع کے بعد تبادلہ کا حکم دے کر تبدیل شدہ شئی کو اس کی جگہ وقف میں متصور ہونے کا حکم دیا جاتا ہے تو واقف کی غرض رضاہ خداوندی و تقربہ الی اللہ کا حصول مسلسل قائم رہتا ہے، اور واقف کی اولاد دوسرے موقوف علیہم یا مساکین و فقراء کا اس موقوفہ سے استفادہ برقرار رہتا ہے۔ لہذا ہمارے خیال میں وقف کا لفظ ہی اپنے خاص معنی و مفہوم میں اس کے دوامی ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس خصوصیت میں دوسرے صدقات سے ممیز و مختلف ہے۔

مصری قانون کی رو سے دوام وقف کی نوعیت :

حکومت مصر نے امام مالک کے مسلک کی متابعت میں از روئے قانون نمبر ۳۸ بابت ۱۹۶۶ع یہ قرار دیا ہے کہ اگر وقف خیراتی ہو تو وہ عارضی اور دوامی دونوں صورتوں میں جائز ہوگا۔ وقف کے غیر خیراتی ہونے کی صورت میں از روئے قانون اس کے دوامی ہونے کو منع کیا گی ہے۔ چنانچہ وقف علی الاولاد کی صورت میں دو پشتون تک کی فید لگا دی گئی ہے اور ایسے وقف علی اولاد کو جو بہ اعتبار مدت کے ساتھ (۶۰) سے زائد نہ ہو جائز قرار دیا گیا۔ البته مسجد کے وقف کو موقعی ہونے کی صورت میں ناجائز قرار دیا گیا۔ اس کا دوامی ہونا ضروری ہوگا۔

لبنان کے قانون کی رو سے دوام وقف کی نوعیت :

لبنان میں اوقاف کا جو قانون بنایا گیا ہے وہ بڑی حد تک مصری قانون سے ماخوذ ہے بالخصوص وقف علی الاولاد کے مسئلے میں مصری قانون کا اتباع کیا گیا ہے۔ چنانچہ وقف علی الاولاد کو جو دائمی ہوں ناجائز

قرار دیا گیا ہے۔ واقف کے علاوہ دو پشتون تک وقف علی الاولاد کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ جائزداد موقوفہ (بشرط حیات) یا اس کے پہلی پشت یا بصورت عدم موجودگی دوسری پشت کے ورثاء کی طرف عود کر جائے گی۔ اور اگر واقف کے وارث نہ ہوں تو وہ وقف ادارہ اوقاف عام کی طرف رجوع کرے گا۔

شرائط جواز وقف کی اقسام :

شرائط جواز وقف کی حسب ذیل تین قسمیں ہو سکتی ہیں :

(الف) وہ جو اصل وقف و حکم وقف میں مخل ہوں۔

(ب) وہ جو اصل وقف و حکم کے مناف نہ ہوں لیکن موقوف یا موقوف علیہم کی منفعت میں خلل انداز ہوں یا حکم شرعاً کے خلاف ہوں۔ اور

(ج) وہ جو مذکورہ امور میں سے کسی کے اندر مخل یا مناف نہ ہوں۔

حسب ذیل مسائل قسم شرائط (الف) پر مبنی ہیں :

اگر واقف نے کہا کہ میں اپنی زمین یا مکان کو اس شرط پر وقف کرتا ہوں کہ جب چاہوں گا وقف سے نکال لوں گا یا یہہ کر سکوں کا یا اس کی قیمت کا ہبہ کروں گا یا جب مناسب ہوگا رہن رکھوں گا اور وقف سے خارج کر دوں گا۔ یہ وقف باطل ہوگا الیہ کہ سجد پر وقف کیا ہو تو ایسی صورت میں وقف صحیح ہوگا اور مذکورہ شرطیں باطل ہو جائیں گی۔^{۲۷}

(۲۷) رد المحتار بشرحیہ درالمختار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ هجری

جلد ۴، صفحہ ۳۷۱

بعزالرائق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵، صفحہ ۳۰۳
فتاویٰ عالیکبری (عربی)، مطبوعہ مطبع محمدی، کلکن بور، جلد ۴، صفحہ ۳۰۹-۳۱۰
احکام الاولاق للخصاف، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۶، هجری، صفحہ ۱۲۹

حسب ذیل مسائل قسم شرائط (ب) پر مبنی ہیں اور اس صورت میں وقف صحیح ہوگا اور شرائط باطل و ناقابل پابندی ہوں گی :

”۱۔ اگر کسی شخص پر اس شرط کے ساتھ وقف کیا کہ مجھے (وقف کرنے والے) کو اتنی رقم قرض دے تو وہ شے اس پر وقف متصور ہرگی، وقف صحیح ہوگا اور شرط باطل ہوگی۔^۸

۲۔ ایک شخص نے اپنی اولاد پر وقف کیا اور ان سے کہا اگر تم اس سوقوفہ کی حفاظت میں عاجز ہو جاؤ تو اس کو فروخت کر دینا۔ امام ابو یوسف کے مفتول بہ قول کے مطابق وقف صحیح ہوگا اور شرط باطل ہوگی۔^۹

۳۔ اگر واقف تولیت اپنی ذات کے لیے شرط کر کے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بادشاہ یا قاضی کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ واقف کو تولیت سے معزول کریں۔ اگر واقف امین ثابت نہ ہوا تو اس کی یہ شرط باطل ہوگی اور قاضی کو اس کے معزول کر دینے کا حق حاصل ہوگا۔ اسی طرح قاضی کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ جس دوسرے شخص کو واقف نے وقف کا متولی مقرر کیا ہو لیکن اس متولی کے برخلاف دوسرा شخص وقف کے حق میں بہتر ہو تو واقف کے مقرر کردہ کو معزول کر دے۔ اسی طرح اگر واقف یہ شرط کرے کہ فلاں شخص اس وقف کا متولی ہوگا اور میرے (واقف) کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ میں اس کو تولیت سے علیحدہ کر سکوں تو یہ شرط باطل ہوگی۔^{۱۰}

(۸) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مطبع محمدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۲۹

فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۱، صفحہ ۶۰

(۹) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مطبع محمدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۰

(۱۰) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مطبع محمدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۲

ردمختار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۴۵۶ھجری، جلد ۳، صفحات ۳۹۲-۳۹۹

بهر الرائق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵، صفحات ۲۳۱-۶۵

۴۔ اگر واقف نے یہ شرط رکھی کہ جائزہ موقوفہ کو ایک سال سے زیادہ کے لئے کراہی یا ٹھیکہ پر نہ دیا جائے لیکن لوگ ایک سال کے لئے لینے پر تیار نہیں ہوتے بلکہ زیادہ عرصے تک لینے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں تو واقف کی شرط کا لحاظ نہ کیا جائے گا جب کہ موقوفہ کے حق میں زیادہ عرصے تک اجرے پر دینا مفید ہو۔ متولی وقف بحکم قاضی زیادہ مدت کے لئے اجرے پر دے سکتے گا۔ لیکن اگر واقف نے وقف نامہ میں خود یہ کہہ دیا ہو کہ اگر ایک سال سے زیادہ اجرے پر دینا مفید ہو تو دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں متولی بغیر حکم قاضی بھی زیادہ مدت کے لئے دے سکتے گا۔^{۵۱}

قسم شرائط (ج) کے تحت وقف میں ایسی شرائط جو اصل وقف و حکم وقف کے مناف نہ ہوں واجب الاتبع ہوتی ہیں ، علاوہ ان چند صورتوں کے جن کے متعلق فقهاء نے تصریح کر دی ہے ۔ حسب ذیل مسائل قسم شرائط (ج) پر مبنی ہیں مثلاً :

۱۔ ایک شخص اس شرط پر وقف کرے کہ میری زندگی میں اس وقف کی آمدنی میری ذات و عیال پر صرف ہوتی رہے گی اور میں صرفاً اور میرے اوپر قرض ہو تو اس کی آمدنی سے پہلے اسی قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ آمدنی فی سبیل اللہ فقراء و مساکین پر صرف کی جائے۔ یا یہ کہ میرے مرنے کے بعد موقوفہ کی آمدنی سے ایک معین حصہ علیحدہ کر کے اس کو میری جانب سے حج میں صرف کیا جائے یا میری قسم کے کفارے یا فلاں فلاں مواقع پر صرف کیا جائے اور ما بقلی اغراض وقف

(۵۱) فتاویٰ عالمگیری (عربی) ، مطبوعہ مطبع محببدی ، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۶۶
رددالمحترار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، جلد ۲، صفحہ ۱۰۰۱

وقف

۱۰۸۹

پر، تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔^{۵۲}

۴۔ واقف شرط کرے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کی آمدی میرے صرف میں آتی رہے گی۔ پھر میرے بعد میری اولاد اور اولاد کی اولاد اور ان کی نسل پر جب تک اس نسل کا سلسلہ قائم رہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر مسَاکین اس کے حقدار ہوں گے۔ ایسا وقف جائز ہوگا۔ جب کہ واقف کسی دوسرے شخص کی اولاد نسل کے لیے شرط کرے تو بھی یہی حکم ہوگا۔^{۵۳}

۵۔ واقف شرط کرے کہ وہ اس زمین موقوفہ کی پیداوار سے اپنی اور اپنے عیال کی ذات پر صرف کرے گا اور ما بقیٰ دیگر موقوف علیہم کا ہوگا۔ اب زمین کی پیداوار واقف کو حاصل ہو جس کو فروخت کر کے قیمت حاصل کر لی گئی ہو لیکن اس کو صرف کرنے سے قبل واقف کا انتقال ہو جائے تو یہ رقم واقف کے ورثاء کی ہوگی۔^{۵۴}

۶۔ ایک شخص نے زمین اپنی بیوی اور اولاد پر وقف کی۔ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اگر واقف نے یہ شرط رکھی تھی کہ موجودہ موقوف علیہم میں سے کسی کا انتقال ہو تو اس کا حصہ اس کی

(۵۲) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مطبع مجددی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۲۲۹

بعزالرانق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵، صفحہ ۲۲۸

احکام الاوقاف، خصاف، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۶ هجری، جلد ۱، صفحہ ۲۶

فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ هجری، جلد ۵، صفحہ ۵۸

(۵۳) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مطبع مجددی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۲۲۹

بعزالرانق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵، صفحہ ۲۳۸

احکام الاوقاف، خصاف، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۶ هجری، جلد ۱، صفحہ ۱۰۹

فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ هجری، جلد ۵، صفحہ ۵۸

(۵۴) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مطبع مجددی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۲۲۹

بعزالرانق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵، صفحہ ۲۳۶

اولاد کو دیا جائے تو قوت شدہ بیوی کا حصہ صرف اس کی اولاد کو ملے گا لیکن اگر یہ شرط نہ تھی تو بیوی کا حصہ تمام موقوف علیہم پر تقسیم ہو گا۔^{۵۵}

۵۔ واقف نے وقف میں یہ شرط رکھی کہ فلاں شخص کو وقف کی آمدی میں سے اس کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا رہے۔ بوقت وقت موقوف علیہ فرد واحد تھا، اہل و عیال نہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد وہ عیال دار ہو گیا تو اس مذکورہ شرط میں موقوف علیہ مع اپنے اہل و عیال کے اس قدر حصہ کا حق دار ہو گا۔ جو ان سب کے لیے کافی ہو۔^{۵۶}

شیعہ نقطہ نظر :

علامہ نجم الدین الحلبی نے شیعہ فقہ پر اپنی مشہور کتاب شرائع الاسلام میں لکھا ہے کہ شرائط وقف کی چار قسمیں ہیں :

- ۱۔ شرائط موقوفہ۔ جو شریعہ وقف کی جائے اس کی شرائط۔
 - ۲۔ شرائط واقف۔ وقف کرنے والی کی شرائط۔
 - ۳۔ شرائط موقوف علیہ۔ جس پر وقف کیا جائے اس کی شرائط۔
 - ۴۔ شرائط وقف۔
- ۵۔ شرائط موقولہ :

وہ شریعہ جو وقف کی جائے اس کی چار قسمیں ہوئی ہیں :

- ۱۔ جو شریعہ وقف کی جائے اس کا عین مال ہونا۔ محض قرضہ یا منفعت کا وقف درست ثابت نہ ہو گا۔

(۵۵) فتاوی عالمگیری، (عربی) مطبوعہ مطبع مجيدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۶۹

(۵۶) فتاوی عالمگیری (عربی) مطبوعہ مطبع مجيدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۶۹

وقف

- ۲- اس شے کا ملوك اور حلال ہونا -
- ۳- باوجود بقائی اصل کے انتفاع (فائدہ انہا) ممکن اور مباح ہو -
- ۴- اس شے کا قبضہ دینا اور اس میں تصرف کا ممکن ہونا - چنانچہ بھائی ہوئے غلام کا وقف صحیح نہیں -

شرالط واقف :

وقف کرنے والے کا بالغ ، عاقل اور تصرف کرنے کا اہل ہونا ضروری ہے -

شرالط موقف علیہ :

- جس پر وقف کیا جائے اس میں تین شرطوں کا وجود ضروری ہے :
- ۱- اس کا وقف کے وقت اس طرح موجود ہونا کہ وہ مالک ہو سکتا ہو -
 - ۲- اس کا معین ہونا -
 - ۳- وقف کا اس پر حرام نہ ہونا -

۴- شرالط وقف :

- وقف کی چار قسمیں ہیں :
- ۱- وقف کا دائمی ہونا -
 - ۲- وقف کا ایسی شرط پر متعلق نہ ہونا ، جس کے وقوع اور عدم وقوع دونوں کا احتمال ہو -
 - ۳- شے موقوفہ کا قبضہ دینا چنانچہ شیعہ فقهاء کے نزدیک اگر قبضہ دینے سے قبل واقف مرتباً تو وقف صحیح نہ ہوگا اور شے ورثاء کی ہوگی -
 - ۴- شے موقوفہ کا اپنی ملک و تبعیہ سے خارج کرنا -

مصری قانون وقف کے تحت جواز وقف :

قانون تنظیم الاوقاف مجریہ ۱۹۷۶ع (مصر) کے تحت وقف کے سلسلے میں چند امور کا ذکر کیا گیا ہے جو حسب ذیل ہیں :

دفعہ ۶ - جب کسی غیر صحیح باطل شرط کے ساتھ وقف کیا گیا ہو تو یہ وقف صحیح ہوگا لیکن شرط باطل ہوگی ۔

دفعہ ۹ - وقف کی صحت کے لیے قبول کرنا شرط نہیں ۔ اور نہ ہی استحقاق (وقف) میں یہ امر ضروری ہے ۔ البتہ اگر موقوف علیہ ایسی جہت ہے جو قانوناً اپنا مثل (قائم مقام) رکھتی ہے تو یہ استحقاق اس کے ما بعد طبقہ کی طرف منتقل ہو جائے گا ، بشرطیکہ یہ طبقہ موجود ہو لیکن اگر موجود نہ ہوا تو یہ موقوف امن وقف کے حکم میں داخل ہو جائے گا جس کو قانون (هذا) کی دفعہ (۱) میں بیان کیا گیا ہے ۔

دفعہ ۱۷ - جب کہ وقف دفعہ ۲۴ کے مطابق تمام مستحقین موجود علیہم پر صرف ہوتے ہوئے یا بعض پر صرف ہوتے ہوئے انہی انتہاء کو پہنچ جائے تو اب اگر واقف زندہ ہے تو وہ اس کی ملکیت میں واپس چلا جائے گا ، اور اگر زندہ نہیں ہے تو یا مستحقین کی ملکیت قرار پائے گا یا واقف کی ذریت جو طبقہ اولیٰ یا طبقہ ثانیہ میں ہو ، اس کی ملکیت (حسب حال) قرار پائے گا ۔ اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو واقف کی وفات کے وقت جو وارث موجود ہوں گے وہ حق دار ہوں گے ، اور ان تمام اشخاص کے عدم موجود ہونے کی صورت میں ملکت کے خزانہ میں داخل کیا جائے گا ۔

دفعہ ۱۹ - جب کوئی وقف ایسے امور خیر بر (جو قربت الی الله کھلاتے ہوں) کیا گیا ہو اور واقف نے اس میں کوئی جہت نہ بیان کی ہو (بلکہ مطلق رکھا ہو) یا جہت معین کی لیکن وقف کے وقت وہ جہت

وقف

۱۰۹۳

موجود نہ ہو، یا اس جہت پر صرف کرنے کی حاجت نہ ہو، یا وقف کی آمدی اتنی ہو کہ اس جہت پر صرف کبیے جانے پر بھی باق رہتی ہو تو اس صورت میں محکمہ کی اجازت سے امن آمدی کو یا امن سے جو مزید حاصل ہوا ہو، واقف کی ذریبات یا اس کے والدین پر جب وہ حاجت مند ہوں ان کی کفایت کے مطابق صرف کیا جائے گا، امن کے بعد دیگر محتاج موجود افریاء پر مذکورہ طریقے پر صرف کیا جائے گا۔ اس کے بعد وجود خیر میں جو وجہ اولیٰ ہوگی اس پر صرف کیا جائے گا۔

اور جس صورت میں کہ واقف نے کسی جہت کو متعین کیا ہو لیکن بوقت وقت موجود نہ ہو تو اگر کسی دوسرے وقت میں اس کا وجود ہوا تو اس پر اسی طرح صرف کیا جائے گا جیسا کہ امن کے لیے معین کیا گیا ہوگا یعنی صرف میں اس کا حق ہوگا۔

دفعہ ۲۰ - موقوف علیہ کا وقف کے (ابنی) کل حق میں یا بعض میں کسی غیر کے لیے اقرار کرنا اسی طرح باطل ہوگا جس طرح اپنے حق کو کسی دوسرے کے حق میں چھوڑ دینا باطل ہوتا ہے۔

دفعہ ۲۱ واقف یا غیر واقف (موقوف علیہم) کا کسی شخص کے متعلق نسب کا اقرار کرنا (باطل ہوگا) جب کہ ایسے علامات ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مقرآن اقرار میں مستهم ہے اور موقوف علیہم پر امن اقرار کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔

دفعہ ۲۲ - واقف کی ایسی شرائط جو مستحق وقف کی ازدواجی آزادی کو مقید کر دین یا اس کو شہر میں رہنے کا پابند کر دین یا قرض کے لین دین پر پابندی عائد کر دین جس میں کوئی مصلحت نظر نہ آتی ہو، تمام باطل ہوں گی، بشرطیکہ یہ دفعہ ۲ قانون هذا کے احکام فقرہ ثانیہ میں خلل انداز نہ ہوں۔

اور اسی طرح ہر ایسی شرط جس کی رعایت کرنے سے واقف یا وقف یا مستحقین کی مصلحت فوت ہوئی ہو، باطل ہوگی۔

دفعہ ۲۳۔ اور مالک کے لیے یہ جائز ہوگا کہ اپنے مال کے ایک تھائی حصہ کو اپنے ورثاء کے لیے یا دیگر اشخاص کے لیے کسی نیک کام پر وقف کرے، اور مال کی تھائی قیمت کا اعتبار اس قیمت سے ہوگا جو واقف کی موت کے وقت اس کے کل مال کی ہوگی، اور اس مال سے قبل یا بعد جو اوقاف اس سے صادر ہوں گے قانون ہذا پر عمل ہونے سے قبل ان کا اندازہ بھی اس مال کے اندازے کے حق میں قابل لحاظ ہوگا الیہ کہ وہ ایسے اوقاف ہوں جن سے رجوع کرنا جائز نہ ہو۔

اور قانون کی دفعہ ۲۴ کی رعایت کرتے ہوئے یہ اس کے لیے جائز ہوگا کہ اپنا تمام مال جس شخص یا اشخاص پر چاہے وقف کر دے۔

دفعہ ۲۴۔ دفعہ ۲۳ کی رعایت کرتے ہوئے یہ ضروری ہوگا کہ واقف کی ذریات اور اس کی زوجہ یا ازواج اور والدین جو اس کی وفات کے وقت موجود ہوں گے تھائی سے زائد حصہ میں ان کو میراث کے احکام کے مطابق مستحق قرار دیا جائے اور یہ استحقاق ان کے بعد ان کی ذریات کی طرف اس قانون کے مطابق منتقل ہو جائے گا۔

اور یہ استحقاق اس شخص کو نہ پہنچیں گا جس کو واقف نے اپنی زندگی میں بغیر کسی مالی عوض کے کسی دوسرے تصرف کے ذریعے اس کے اس حصہ کے برابر کچھ دیا ہو جو اس وقف کا قرار پاتا ہو۔ البته اگر اس دیے گئے مال کی مقدار موقوفہ کے حصے سے کم ہے تو موقوفہ کے حصے سے اس کی تکمیل کر دی جائے گی۔

دفعہ ۲۵۔ قانون ہذا کی دفعہ ۲۴ کے مطابق واقف کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ مستحقین میں سے کل یا بعض کو استحقاق سے معروم کر دے۔

وقف

۱۰۹۵

اور نہ ایسی کوئی شرط لگانا جائز ہو گا جو ایسے امر کو مقتضی ہو مگر یہ کہ آئندہ تصریحات قانون کے مطابق ہو۔

اور جو شخص محروم ہو گا وہ ایسا تصور کیا جائے گا جیسا کہ واقف کی حیات میں فوت ہو جانے سے محروم ہو گیا ہو۔ لیکن جب محرومی کا سبب زائل ہو جائے گا تو اس کا حق واپس لوٹ آئے گا۔

دفعہ ۲۶ - واقف کو اس طرح قتل کر دینے سے کہ جس کی وجہ سے قاتل شرعاً وراثت سے محروم ہو جاتا ہے کوئی مستحق اپنے حصہ وقف سے قانوناً محروم ہو جائے گا۔

دفعہ ۲۷ - واقف کو یہ حق حاصل ہو گا کہ صاحب استحقاق کو اس کے واجب حق کے کل یا بعض سے محروم کر دے اور اس کی شرط اپنے لیے وقف میں مقرر کر دے جب کہ ایسا کرنے کے لیے قوی اسباب موجود ہوں اور محکمہ تحقیقات کے بعد ان اسباب کو اس محرومی کا قوی سبب سمجھتا ہو۔

اور زوجہ کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے وقف سے محروم کر دے یا یہ شرط لگا دے کہ اگر شوہر اس کے علاوہ کسی دوسری عورت سے نکاح کرے گا تو وہ اس کے وقف سے محروم ہو جائے گا، جب کہ یہ عورت اس کے ازدواج میں موجود ہو یا عدت طلاق میں ہو۔

مصہبی قانون کی بنیاد:

مصری قانون کی مندرجہ بالا دفعات میں دفعہ ۶ حنفی فقہ سے مانوڑ ہے۔ دفعہ ۹ کے تحت قبولیت کا وقف کے لیے عد شرط ہونا حنفی و شافعی فقہ پر مبنی ہے۔ البتہ استحقاق کے لیے قبول کا شرط ہونا حنبیل مذہب میں راجح ہے۔ دفعہ ۱۱ میں مصلحت عامہ پر مبنی اجتہاد سے کام لیا گیا ہے۔

[دفعہ ۱۸۵]

دفعہ ۱۹، ایک خاص تغیر کے ساتھ حنفی مسلک اور مالکیہ مسلک پر بینی ہے - دفعہ ۲۰، حنفیہ اور حنبلیہ مذہب پر بینی ہے جب کہ دفعہ ۲۱ حنفیہ اور مالکیہ سے ماخوذ ہے - دفعہ ۲۲ تا ۲۷ کسی قدر تغیر کے ساتھ مذہب اربعہ سے ماخوذ ہیں -

۱۸۵ - (۱) اگر کوئی مسلمان بجالت صحت و بقائیٰ ہوش و حواس کسی شے کے بارے میں جو اس کے قبضہ ملک میں ہو موقوفہ ہونے کا اقرار کرے تو اُس شے کی نسبت اس کا اقرار صحیح ہوگا اور وہ شے موقوفہ متصور ہوگی -

(۲) صریض کا اقرار وقف اس شے یا اس کے ترکہ سے ایک تہائی کی بلدر (جو بھی کم ہو) صحیح ہوگا۔ اور وہ شے یا ترکہ کا حصہ موقوفہ متصور ہوگا -

اقرار وقف
بجالت صحت و
مرض الموت

تشریح

جب کوئی شخص بجالت صحت عقل و درستی ہوش و حواس خسہ کسی زمین یا مکان کے حق میں جو اس کے قبضے میں ہو اس کے وقف ہونے کا اقرار کرے لیکن متولی کی نامزدگی نہ کرے اور نہ مستحقین کو بیان کرے تو اس شخص کا یہ اقرار صحیح ہوگا، اور یہ زمین یا مکان فراء بر وقف ہو جائے گا۔ اور اس شخص کو اس موقوفہ کا واقف نہ تصور کیا جائے گا جب کہ اس پر شہادت قائم ہو جائے کہ یہ موقوفہ قبضہ کے وقت مقری ملکیت نہ تھی، ورنہ یہ واقف متصور ہوگا اور وقف کی ولایت کا حق اسی کو حاصل ہوگا یعنی یہی اس کا متولی ہوگا ، الا یہ کہ شہادت میں کسی دوسرے کی تولیت کا اظہار کر دیا گیا ہو - بصورت ابہام حاکم کی رائے کو دخل ہوگا - اگر ایک شخص نے اپنی مقبوضہ زمین یا مکان کے متعلق یہ اقرار کیا کہ یہ اس کے مرحوم باب نے وقف کر دی تھی لیکن موقوف علیہم کے متعلق کچھ نہ کہا تو اس مقری ذات کے حق

میں اس کا اقرار صحیح ہوگا، اب اگر اس کے مرحوم باب کے ذمہ دین ہوا یا کوئی وصیت ہوئی اور اس مال مقربہ کے ماسوا دوسرا مال موجود نہ ہوا، تو اس زمین یا مکان میں اتنا حصہ فروخت کر دیا جائے گا جس سے میت کا دین یا تھائی کی حد تک وصیت پوری کی جا سکے، اور باقی مالیہ حصہ وقف ہوگا۔ اور اگر میت کا دین اتنا ہے کہ تمام جائداد کو بھیط ہے تو تمام جائداد فروخت کی جا سکتے گی الیہ کہ اقرار کرنے والا خود اپنی ذات سے اپنے باب کا دین ادا کر دے۔ اور جب مرحوم باب پر دین نہ ہوگا تو مقر کے اقرار کے بموجب کل جائداد وقف ہو جائے گی، اگر مقر کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا وارث بھی موجود ہو جس کو اس کے وقف ہونے کا انکار ہو تو جتنا حصہ مقرلہ کا ہوگا وہ وقف ہوگا اور انکار کرنے والے کا حصہ اس کی ملک ہوگا۔^{۵۰}

کسی مقر کے اقرار کو مقلہ کا انکار باطل نہیں کرتا، مثلاً ایک شخص نے دوسرے دو غیر وارث شخصوں کے حق میں یہ اقرار کیا کہ اس کے قبضے میں جو زمین یا مکان ہے یہ ان دونوں شخصوں پر وقف ہے اور مقلہ میں سے ایک نے اس کا اقرار کیا دوسرے نے نہ کیا تو اب اس زمین کا نصف حصہ تصدیق کرنے والے مقلہ پر وقف ہوگا اور دوسرا حصہ فقراء پر وقف سمجھا جائے گا۔ اور اگر اس انکار کرنے والے نے آئندہ اس کی تصدیق کر دی تو اب یہ وقف میں مستحق قرار پا جائے گا۔^{۵۱}

اگر کسی موقوفہ جائداد پر کسی شخص نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا اور واقع کے درٹاء نے اس کی ملکیت کا اقرار بھی کر لیا تو اس اقرار سے وقف باطل نہ ہوگا، بلکہ ورثاء کو ترکہ سے اس جائداد کی قیمت کا ڈنڈا۔

(۵۰) اسعاف، مطبوعہ مصر، صفحہ ۳۸۳۔

فناوی خانیہ، مطبوعہ مصر، ۱۴۸۲ھ صفحہ ۳۱۳

(۵۱) اسعاف حمولہ بالا صفحہ ۳۸۳

ادا کرنا ہوگا، اور اگر ورثاء نے مدعی کے دعویٰ کا انکار کر دیا اور مدعی شہادت نہ پیش کر سکا بلکہ ورثاء کو حلف دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو ورثاء پر حلف کی ذمہ داری عائد نہ کی جائے گی۔^{۵۲}

وقف کی کسی جہت یا اقرار میں تناقض پایا جائے تو اول اقرار باطل نہ ہوگا بلکہ اقرار ثانی کالعدم ہوگا۔ اگر کسی جائداد کے اقرار وقف سے پہلے دعویٰ کیا گیا ہو اور اس کے بعد وقف کا اقرار کرے تو یہ قابل قبول ہوگا، چنانچہ اگر ایک شخص اولاً یہ دعویٰ کرے کہ وہ زمین جو اس کے قبضے میں ہے اس کی عمارت اس کی مملوکہ ہے اور یہ زمین وقف ہے تو اس اقرار سے زمین و عمارت دونوں وقف صحیح ہائی گی، متول وقف کا اقرار وقف کے ذمے پر صحیح نہ ہوگا، لیکن اگر مقبوضہ جائداد میں سے کسی جائداد کا وقف کے لئے اقرار کرے گا تو یہ اقرار صحیح ہوگا۔^{۵۳}

مریض کا اقرار وقف :

جب کوئی مریض اپنے مرض موت میں اپنی مقبوضہ زمین یا مکان کے وقف کا اقرار کرے کہ میں نے وقف کر دیا تھا یا کسی دوسرے نے وقف کیا تھا لیکن واقف کا تعین نہ کرے یا موقوف علیہم کو مبہم چھوڑ دے تو اس کی مقبوضہ میں صرف ایک تھائی کی حد تک اقرار صحیح ہوگا اور اگر یہ زمین یا مکان اس کی بوری جائداد کا ایک تھائی قرار پاتا ہے تو کل وقف ہوگا، بصورت دیگر تھائی کے درجہ تک وقف ہوگا، جیکہ وارث تھائی سے زائد کے وقف بر راضی نہ ہوں یا وارث موجود ہی نہ ہوں۔ اور اگر مریض نے اپنے مقبوضہ مکان یا زمین کے متعلق یہ اقرار کیا کہ یہ فلاں شخص نے وقف کیا تھا اور فلاں جہت پر وقف کیا تھا تو یہ کل

(۵۲) فتاویٰ عالم گیری، مطبوعہ مصر، ممولہ بالا صفحہ ۲۵۔

(۵۳) فتاویٰ عالم گیری ممولہ بالا، صفحہ ۳۸
تفصیل الحامدیہ، مطبوعہ مصر (کتاب الاقرار)، صفحہ ۴۷

جائنا وقف سمجھی جائے گی، لیکن اگر تعین نہ کیا گیا ہو تو صرف تہائی ترکہ کے مقابلے میں وقف ہوگی، اور جب کوئی مرض اپنے مرض موت میں اپنی مقبولہ جائنا وکے حق میں یہ اقرار کرے کہ فلاں شخص نے امن کو اس کی اولاد اور نسل پر دامتاً اور ان کے بعد فقراء کے لیے وقف کیا تھا اور اس کے قبضے میں دے دیا تھا تو یہ جائنا وکے حق پر اور امن کی اولاد و نسل پر وقف نہ سمجھی جائے گی، امن کا یہ قول اپنے اور اپنی اولاد کے لیے مقبول نہ ہوگا، اگرچہ اس کے مقابل خصوصت کرنے والا کوئی فریق بھی نہ موجود ہو۔^{۵۳}

مقصد وقف ۱۸۶ - جس مقصد کے لیے وقف کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرع اسلام میں مذہبی یا خیراتی یا عمل خیر میں شمار ہوتا ہو۔

قشر بح

مقصد وقف کے لیے یہ امر بنیادی نوعیت رکھتا ہے کہ وہ مقصد مذہبی یا خیراتی یا ایسے کاموں کے لیے ہو جو شرع اسلام میں مذہبی، نیک یا خیراتی سمجھے جاتے ہوں۔

مقاصد وقف کا تعین :

مقاصد وقف کا تعین صراحة کے ساتھ کیا جانا لازم ہے۔ کیونکہ جن مقاصد کے لیے وقف وجود میں لا یا جاتا ہے۔ اگر ان کا تعین نہ کیا جائے تو مقصد کے عدم تعین کی وجہ سے وقف کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جملہ مقاصد نام بنام ذکر کیجئے جائیں اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ وقف نامے میں اس امر کی صراحة ہو کہ ہر مقصد پر (جبکہ مقاصد وقف ایک سے زائد ہوں) کتنی رقم صرف کی جائے۔

(۵۳) اسعاف مطبوعہ مصر، صفحات ۳۶-۳۵، ردار المختار مطبوعہ مصر، صفحہ ۵۹۵

مقصد وقف جزاً ناجائز اور جزاً ناجائز :

اگر وقف ایک سے زائد مقاصد کے لیے کیا جائے جن میں سے بعض جائز ہوں اور بعض ناجائز، تو جائز مقاصد کی حد تک وہ وقف صحیح سمجھا جائے گا اور ناجائز مقاصد اس وقف کے دائرے سے خارج سمجھی جائیں گے۔ اگر واقف نے جائز اور ناجائز مقاصد کے تحت خرچ کی مددات معین اور رقم یا جائیداد کی مقدار یا حصہ مقرر کر دیا ہے تو ایسی صورت میں خیر صحیح مقاصد کے تحت جو وقف کیا گیا ہے وہ جائیداد موقوفہ کی حد تک باطل قرار دیا جائے گا اور اس جائیداد کی ملکیت واقف کی متصور ہوگی۔ اگر تمام ہی مقاصد ناجائز پائے جائیں تو ایسی صورت میں وقف کلیتاً کالعدم اور باطل قرار پائے گا۔

مقصد وقف فوت ہو جانے کی صورت میں :

اگر وقف نامے میں مندرج مقاصد وقف میں سے کوئی مقصد فوت ہو چکا ہو یا ناقابل حصول ہو تو محض اس بناء پر وقف باطل نہ ہو گا۔ اگر وقف نامے سے واقف کی نیت مندرج مقاصد کے تحت صریح طور پر مذہبی، خیراتی یا امور خیر سے متعلق پائی جائے تو وہ وقف جائز ہو گا اور اس کی آمدنی ایسے مقاصد پر صرف کی جا سکتی گی جو قوت شدہ یا ناممکن الحصول مقاصد کے قریب قریب اور ان کے مثالیں ہوں۔ انگریزی قانون اصطلاح میں اسے اصول نترنیبی (doctrine of cypres) کہتے ہیں۔

کوئی وقف محض اس وجہ سے ناجائز متصور نہ ہو گا کہ اس کے ذریعہ سے جو مفاد غرباء مساکین یا دیگر مستقل نوعیت کے مذہبی، صالح یا خیراتی مقاصد کے خصوصیں کیا جائے وہ واقف کے خاندان، اولاد یا نسل کے منقطع ہو جانے کے وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔^{۵۵}

(۵۵) قانون، جواز اوقاف مسلمانان، ۱۹۱۳ ع

درگاہ کے لیے وقف :

کسی ولی کی درگاہ کی نگرانی اور تحفظ اور اس کو برقرار رکھنے کی غرض سے کسی جائزہ کا وقف کرنا جائز ہے۔ وقف کے والد کے مزار کے لیے وقف کرنا نجی وقف کہلاتے گا۔ وقف علی الولاد بھی نجی وقف ہوتا ہے۔^{۵۶}

۱۸۷ - جو جائزہ ناقابل تقسیم ہو یا اس کی تقسیم سے اس کی افادیت مٹا رہی ہے کا خطرہ ہو اس کے غیر منقسم حصے کا وقف جائز ہو گا ابتدہ قابل تقسیم ہونے کی صورت میں غیر منقسم حصہ کا وقف بلا تقسیم جائز نہیں۔ استثناء : مسجد یا مقبرہ کے لیے مشاع کا وقف ناجائز ہو گا۔

مشاع وقف

مشاع

مشاع (غیر منقسم جائزہ) کا حصہ امام ابو یوسف کی رائے کے مطابق وقف ہو سکتا ہے خواہ وہ جائزہ قابل تقسیم ہو یا نہ ہو۔ امام محمد کے نزدیک ایسی جائزہ مشاع کا وقف جو قابل تقسیم ہو جائز نہیں ہے ابتدہ اس امر میں صاحین میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسجد اور قبرستان کے لیے مشاع کا وقف جائز نہیں۔ کیونکہ کسی شے کی ملکیت میں دوسرے شخص کی شرکت خدا کے تنہا حق میں ملکیت کے منافی ہے۔ ایک موجود مسجد کی دیکھ بھال کے لیے مشاع کا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔^{۵۷}

مشاع کے مستہلہ کی بنیاد :

مشاع کے وقف کا مستہلہ دراصل وقف میں قبضہ کی بحث کے تابع ہے چنانچہ جو فقهاء وقف میں قبضہ کو بطور ایک شرط کے لازم قرار دیتے ہیں وہ مشاع (حصہ غیر منقسم) وقف کو بلا تقسیم ناجائز نہ کرتے ہیں اور اس کے بغیر وقف کو نامکمل قرار دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو فقهاء

(۵۶) ہی - ایل - ڈی ، ۱۹۶۳ع ڈھاکہ ، صفحہ ۵۷۵

(۵۷) ہی - ایل - ڈی ، ۱۹۵۲ع ، صفحہ ۲۰۶

قبضہ موقوفہ کو وقف کی شرط جواز و تکمیل قرار نہیں دیتے ان کے نزدیک مشاع کا وقف جائز ہے۔ البتہ اس میں یہ تصریح ہے کہ جو جائیداد ناقابل تقسیم ہو یا تقسیم سے اس کی افادیت متاثر ہوتی ہو اس کا وقف بلا تقسیم جائز ہوگا لیکن جو جائیداد قابل تقسیم ہو یا تقسیم سے اس کی افادیت متاثر نہ ہوتی ہو اس کے غیر منقسم حصہ کا وقف بلا تقسیم جائز نہیں۔ یہی مسلک حنفی مذہب میں معمول ہے۔

مصر و لبنان کا قانون:

وقف مشاع کے مسئلے میں ۱۹۳۶ع تک مصر میں امام ابو یوسف کے مسلک پر عمل ہوتا رہا لیکن ایکٹ نمبر ۵۸ بابت ۱۹۳۶ع کے تحت قانون بنا دیا گیا کہ مشاع ناقابل تقسیم کے ساتھ وقف جائز ہے لیکن قابل تقسیم کا وقف، ماسوائے چند صورتوں کے، منوع ہوگا۔ لبنان میں یہی اسی طریقہ پر قانون سازی کی گئی ہے۔

مسجد کے لیے مشاع کا وقف:

موقوفہ زمین اگر غیر موقوفہ سے جدا نہ کی گئی ہو یعنی غیر منقسم (مشاع) ہو تو مسجد و مقبرے پر اس کا وقف کرنا درست نہ ہوگا اور، مسجد و مقبرے کے علاوہ، چونکہ موقوفہ زمین تقسیم کی صلاحیت رکھتی ہے امام ابو یوسف کے نزدیک وقف صحیح ہوگا اور محمد کے نزدیک صحیح نہ ہوگا۔ البتہ جو شیء غیر منقسم ہو اور تقسیم کا احتال ہی نہ رکھتی ہو اس کا وقف باوجود غیر منقسم ہونے کے بالاتفاق درست ہوگا۔ وقف مشاع میں امام محمد رحمة اللہ علیہ قول پر فتویٰ ہے^{۵۸}۔

(۵۸) بحر الرائق، این نخیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵، صفحہ ۴۱۳
ردارالمختار علی درالمختار، این عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھجری، جلد ۳،

صفحہ ۳۴۶

فتح المعنی، مطبوعہ مصر، جلد ۲، صفحہ ۵۰۷
فتاوی عالمگیری (عربی)، جلد ۲، صفحہ ۳۸۹

امام پد کے نزدیک وہ غیر مقصوٰسیت وقف کے مانع ہے جو عقد وقف کے وقت موجود ہو، لیکن اگر امر عارض بعد میں پیدا ہوا ہو تو وقف ایک حد تک صحیح رہے گا۔ مثلاً ایک شخص مرض کی حالت میں وقف کرے اور ورثاء اس مرض کے مرتبے کے بعد ایک تھائی سے زائد کے وقف پر راضی نہ ہوں اور اس سے رجوع کریں تو ایک تھائی کا وقف صحیح رہے گا، کیونکہ اس موقوفہ زمین میں ورثاء کا حق بعد میں پیدا ہوا۔ بوقت وقف کل زمین وقف کی گئی تھی۔ اسی طرح وقف کے وقت ظاہری غیر مقصوٰسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس سے موقوفہ کا حصہ متعین ہو گیا، تب بھی وقف امام پد کے نزدیک درست ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے کل زمین وقف کی۔ وقف کے بعد اس زمین کے ایک مخصوص حصے میں کسی دوسرے شخص نے اپنا حق ثابت کر دیا تو مالکی زمین کا وقف صحیح رہے گا۔ یا ایک زمین دو شخصوں کے درمیان مشترک غیر مقصوٰسی تھی اور دونوں نے اپنا اپنا حصہ وقف کیا اور متولی وقف کے سپرد کر دیا۔ یہ وقف صحیح ہوگا۔ کیونکہ یہاں وقف شدہ حصے اور غیر وقف شدہ کا سوال ہی نہیں ہے بلکہ کل زمین محل وقف موقوفہ ہے۔^{۵۹}

امام سرخسی نے اپنی کتاب العبوسط میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی نصف زمین یا نصف مکان غیر منقسمہ شکل میں فقراء پر وقف کیا تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف صحیح ہوگا۔ کیونکہ تقسیم قبضہ کے لواحقات میں شامل ہے جس وقت قبضہ دیا جائے گا اس وقت تقسیم کی ضرورت ہوگی۔ چونکہ قبضہ سے مقصود شے کا محفوظ کر دینا ہوتا ہے اور جو

(۵۹) بحر الرائق، ابن نحیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵، صفحہ ۲۱۳
ردد المحتار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ هجری، جلد ۳، صفحہ ۳۲۹
فتح المعن، مطبوعہ مصر، جلد ۲، صفحہ ۵۰۶
فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۱۹
فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ هجری، جلد ۵، صفحہ ۷۷

شے قابل تقسیم ہو اس کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو تقسیم کر کے قبضہ دیا جائے۔ چونکہ صدقہ موقوفہ میں ابو یوسف رح کے نزدیک اصل قبضہ ہی شرط نہیں تو جو امر تتمہ وقف ہوگا اس میں بطريقہ اولیٰ قبضہ شرط نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک وقف عق سے مشابہت رکھتا ہے اور عق میں غلام کا منقسم ہونا شرط نہیں ہے (بلکہ جو غلام دو شخصوں میں مشترک ہو اور ان دونوں میں سے ایک شخص اپنا حصہ آزاد کر دے تو یہ حصہ آزاد ہو جائے گا اور غلام کا اشتراک آزادی کا نام نہ ہوگا)۔ اسی طرح کسی شے کا غیر منقسم ہونا وقف کا نام نہ ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غلام کی آزادی میں تجزیہ (تقسیم) نہ ہو سکے گا اس لیے کہ ایک محل میں تجزیہ و تقسیم کا حکم دے دینا احکام کے تضاد کا سبب ہوگا لیکن وقف میں یہ امر لازم نہیں آتا۔ اس لیے کہ وہ تجزیہ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا غیر منقسم ہونے کی صورت میں جتنے حصہ کا وقف کیا ہے وہ حصہ وقف ہو جائے گا۔ لیکن امام محمد رح کے نزدیک کسی شے کا، جو قابل تقسیم ہو، غیر منقسم ہونے کی صورت میں وقف صحیح نہ ہوگا کیونکہ ان کے خیال میں وقف کے مکمل ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے۔ لہذا جو امر تتمہ وقف ہو اس کے لیے بطريقہ اولیٰ قبضہ شرط ہوگا۔ اور جو شے قابل تقسیم ہے اس پر قبضہ اس وقت ممکن ہوگا جب اس کو تقسیم کر دیا جائے چونکہ ان کے نزدیک وقف کی نظریہ صدقہ منفذہ (یعنی جس میں فوری تملیک شخصی طور پر کر دی جاتی ہے) ہے اور صدقہ جب تک قابل قسمت شے کو تقسیم کر کے قبضہ نہ دیا جائے مکمل نہیں ہوتا، جیسا کہ ہبہ میں اور جو شے تجزیہ قبول نہیں کریں اس میں بغیر تقسیم صدقہ صحیح ہوگا۔ کیونکہ جو شے ناقابل تقسیم ہے اس کی تقسیم کرنے میں وہ شے ہی معدوم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی تقسیم اس کی حفاظت شمار نہ ہوگی۔ پس یہی حالت صدقہ موقوفہ کی

تصور کی جائے۔ کہ جو شے ناقابل تقسیم ہے اس کے کسی حصہ کا وقف صحیح ہوگا۔ اور جو شے تقسیم کریے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کا وقف تقسیم کے بغیر صحیح نہ ہوگا۔ اسی پر مسافر خانہ، مقبرے، سقاہ، مسجد کو قیاس کر لیا جائے۔ یعنی جو اشیاء قابل تقسیم ہیں بغیر تقسیم کے ان کا وقف درست نہ ہوگا۔ چنانچہ مسجد اور مقبرے کا، زمین غیر منقسم ہونے کی صورت میں، اس لیے وقف صحیح نہ ہوگا کہ شرکت باق رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ وہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص سمجھا جائے۔^{۶۰}

۱۸۸ - (۱) اگر وقف کا قرض اس کی تمام املاک پر حاوی ہو تو اس کا قرضدار کا وقف وقف کرنا جائز نہ ہوگا۔

(۲) کسی شخص کا بدنی سے اپنے قرض خواهان کو ضرر پہونچانے کی غرض سے وقف کرنا درست نہ ہوگا۔ ایسا وقف قرض خواهان کی جانب سے وقف کا علم ہونے سے تین سال کی مدت کے اندر بذریعہ عدالت منسوخ کرایا جا سکتا ہے۔ مگر لازم ہے کہ وقف کے وجود میں آجائے کے ۱۴ سال بعد یہ حق ساقط متصور ہوگا۔

قشریع

جمهور فقهاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کا قرض اس قدر زیادہ ہو کہ اس کے تمام اموال پر حاوی ہو تو اس کو اپنے اموال میں تصرف (مثلاً ہبہ یا وقف وغیرہ) کرنے سے روکا جائے گا۔ چنان چہ ایسی صورت میں حاکم عدالت اس امر کا مجاز ہوگا۔ وہ ادائی قرض کی غرض سے اس کی بعض املاک اور اموال کو فروخت کریے جانے کا حکم دیدے۔ لیکن اگر اس کی قرض داری اس کے تمام اموال پر حاوی نہیں ہے، یعنی اس کا قرض کم ہے اور مال زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو اپنے اموال میں تصرف یعنی ہبہ وغیرہ کرنے سے نہ روکا جائے گا۔ اس بارے میں امام ابوحنینہ کا اختلاف ہے۔ آن کے نزدیک دونوں صورتوں میں سے (۶۰) «البسوط» امام سرخسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۴۷ھ، عجري، جلد ۱۲، صفحہ ۲۴

کسی بھی صورت میں اس شخص کو تصرف کرنے سے نہ روکا جائے گا۔
(اس مسئلے کی تفصیلات کتب فقه کے باب العجر میں بیان کی گئی ہیں)۔

جو فقهاء قرض کے تمام اموال پر حاوی ہونے کی صورت میں اس شخص کو اس کے تصرفات مالی سے باز رکھنے کے قائل ہیں ان کے نزدیک ایسے شخص کو وقف کا اختیار نہ ہوگا الا یہ کہ قرض خواهان اس امر کی اجازت دے دیں؟ اور اگر قرض دار پر کوئی حکم امتناعی ہو تو بالاتفاق وہ اپنے مال کو رہن یا ہبہ یا وقف نہیں کر سکتا۔

سوال یہ ہے کہ اگر قرض دار تصرفات مالی سے روکا نہ گیا ہو اور وہ صحیح اور تندرست بھی ہو اور اس کے قرض کا اس کے اموال سے بطور رہن وغیرہ کے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو تو کیا اس کا اپنے اموال کو وقف کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ حتیٰ فہم کے رو سے اس کا وقف کرنا جائز ہوگا۔ کیوں کہ وقف کا تعلق اس کی شخصی ذمہ داری سے ہے جس کا تعلق ذات سے سے نہیں ہے چنان چہ اس کا اپنے اموال میں شرعی تصرف کرنا جائز ہوگا۔ وقف بھی ایک طرح کا شرعی تصرف ہے۔ لیکن مالکی مذہب کی رو سے اگر واقف کا وقف کرنا قرض خواهان کو ضرر پہنچانے کا موجب ہو تو انہیں اس وقف کو باطل قرار دلوانے کا حق حاصل ہوگا۔ کیوں کہ ہر قرض خواہ متروض کے مال میں سے ادائی کا حق رکھتا ہے چنان چہ متروض کا قرض خواہ کے حق کو ضرر پہنچانے کی غرض سے وقف کرنا ناجائز ہوگا۔^{۶۱} البتہ ظاہریہ مسلک کے مطابق ایسا وقف

(۶۱) مدونہ میں باب التقییہ میں عام الفاظ اس طرح مذکور ہیں (ولا تجوز صدقۃ ولا هبۃ، ولا عطیۃ، ولا عنتۃ، وهو بحال ما و صفت لک من الرجل مدیان اذا كان لا وقار له) مدونہ مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰۵ء، صفحہ ۱۳، هجری جلد ۱، صفحہ ۷۸، اور احکام الاوقاف عبدالوهاب الغلافی اپنی تالیف احکام الوقف مطبوعہ مصر، ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲ء میں اس کو امام مالک کا مذہب ہونا بیان کیا ہے اور مصطفیٰ زرقاء نے بھی اپنی تالیف احکام الاوقاف مطبوعہ مصر ان حضرات نے اسی مذکورہ عبارت سے وقف کے متعلق یہ حکم لیا ہے۔ غالباً

وقف

جائزو ہوگا۔

نتیجہ فکر:

اس مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی شخص کا اپنے اموال کو اس نیت سے وقف کرنا کہ اس کے قرض خواہان کو اپنا قرض وصول کرنے کے حق سے محروم ہونا پڑے نفاذ وقف میں خلل اندازی کا موجب ہو سکتا ہے۔ بالخصوص جب کہ قرض واقف کے تمام اموال پر حاوی ہو۔ یہی صورت ہبہ کی بھی ہے۔

ابطال کا حق:

مصری قانون کے تحت قرض خواہ کو العقاد وقف کا علم ہونے کے تین سال کے اندر اندر وقف کو باطل قرار دلوانے کا حق ہوگا۔ لیکن یہ حق وقف کے وجود میں آنے کے ۱۲ سال کے بعد کسی بھی صورت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔

- وقف بالوصیت
- (۱) وقف کی زندگی کے بعد اس کی وصیت کے ذریعہ سے وقف قائم ہو سکتا ہے جس سے احکام وصیت متعلق ہوں گے۔
 - (۲) وقف بالوصیت وقف کی موت سے پہلے ہر وقت منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

تصریح

ووقف اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اور املاک کا مالک ہونے کے سبب شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی حسب خواہش فوری طور پر اپنی پوری جائیداد تک وقف کرنے کا مجاز ہے، لیکن بذریعہ وصیت صرف ایک تھانی جائیداد تک وقف کر سکتا ہے۔ اگر وقف بذریعہ وصیت ایک تھانی سے زیادہ جائیداد کی نسبت کیا جائے گا تو وہ وقف وارثوں کی رضا مندی کے بغیر ایک تھانی سے زیادہ کی حد تک غیر نافذ ہوگا۔^{۶۲}

(۶۲) المبسوط، امام مرخی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھجری، جلد ۱۲، صفحہ ۴۷۶

[دفعہ ۱۹۰]

جائیداد میں ایک تہائی کا تعین متوفی کی تجھیز و تکفین کے اخراجات اور متوفی کے ذمہ قرضہ جات وغیرہ کی ادائی کے بعد کیا جائے گا۔^{۶۲}

اس کا سبب یہ ہے کہ ”لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام“ کے اصول کے تحت ایسا وقف ورثاء کو اس حق سے محروم کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لہذا جو وقف اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، کیون کر نافذ ہو سکتا ہے! اسی سبب سے وقف بالوصیت ایک تہائی کی حد تک نافذ العمل قرار پا سکتا ہے۔

جس طرح وصیت کرنے والا اپنی وصیت جب چاہے ترمیم یا منسوخ کر سکتا ہے اسی طرح جو وقف بذریعہ وصیت قائم کیا جانے والا ہو واقف اپنی زندگی میں جب چاہے منسوخ کر سکتا ہے۔

۱۹۰۔ مرض الموت میں کچھ گئے وقف بر بہہ بالوصیت کے احکام مرتب ہوں گے۔

وقف بحالت
مرض الموت

تفسیر

مرض الموت سے وہ مرض مراد ہے جو موت سے متصل ہوتا ہے خواہ اس کے سبب سے موت واقع نہ ہو لیکن جس میں مریض کے مرتنے کا ظن غالب موجود ہو۔ (تفصیل کے لیے ملا حظہ هو مجموعہ هذا جلد دوم صفحہ)

فقہاء نے مرض الموت کی حالت میں واقف کے مالی تصرفات پر جو بابتیاں عائد کی ہیں انہیں کے تحت یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی وقف مرض الموت کی حالت میں کیا گیا ہو تو ایسے وقف بر بہہ بالوصیت کے احکام مرتب ہوں گے۔ اس میں چاروں سنتی مذاہب (حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ) اور شیعہ مسلم متفق ہیں، البتہ ظاهریہ مرض الموت میں کچھ گئے وقف کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک حالت صحت

(۶۲) المسنوط، امام سرخسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۴ء، جلد ۲۹، صفحہ ۱۳۷

وقف

اور مرض میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک، خواہ وقف قرض خواهان کے قرضے یا وارثوں کے حصوں سے بھی کی غرض ہی سے کیوں نہ کیا جائے، نافذ ہوگا۔

امام طحاوی نے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنفیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنے مرض کی حالت میں وقف کر کے اس کی شرائط پر عمل درآمد کر دے تو یہ اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح اس نے اپنے منے کے بعد وقف کی وصیت کی ہو چنانچہ مال متروکہ کے ایک تھانی میں وقف نافذ ہوگا۔^{۶۳}

امام محمد نے فرمایا ہے کہ جب واقف اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں جائیداد موقوفہ متولی کے سپرد کر دے گا تو یہ وقف اس تمام مال (موقوفہ) میں جاری ہوگا جس کو اس نے وقف کیا ہو لیکن اگر اس نے اپنے مرض کی حالت میں ایسا کیا تو وقف صرف ایک تھانی میں جاری ہوگا کیوں کہ اس وقت تبرع (احسان) کے عمل سے اپنی ملوكہ شیخ سے سلک کا ازالہ کر رہا ہے۔^{۶۴}

وقف علی الاولاد ۱۹۱ - کسی شخص کے لیے جو مذهب اسلام کا بیرو ہو جائز ہوگا کہ وہ کوئی وقف جو شرع اسلام کی شرائط کے مطابق ہو منجملہ دیگر مقاصد کے حسب ذیل مقاصد کے لیے قائم کرے :

(الف) کلینٹا یا جزا اپنے خاندان، اولاد یا نسل کی پرورش با گزارے کے لیے -

(ب) نیز اگر واقف حنفی مسلمان ہو تو اپنی زندگی میں خود اپنی پرورش یا گزارے کے لیے یا جائیداد موقوفہ کی آمدنی یا منافع سے اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے -

(۶۳) البسطو، امام سرخسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھجری، جلد ۱۲، صفحہ ۷۲

(۶۵) البسطو، امام سرخسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ھجری، جلد ۱۲، صفحہ ۷۲

مگر شرط یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں آخری مفاد، صراحتاً یا کفایہ سماکین کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے مخصوص کر دیا جائے جواز روئے شرع اسلام مستقل نوعیت کا مذہبی صالح اور خیراتی مقصد تسلیم کیا جاتا ہو۔

توضیح : کوئی ایسا وقف، محض اس وجہ سے ناجائز متصور نہ ہو گا کہ اس کے ذریعہ سے جو مفاد سماکین یا دیگر مستقل نوعیت کے مذہبی صالح یا خیراتی مقصد کے لیے مخصوص کیا جائے وہ واقف کی خالدانی اولاد یا نسل کے منقطع ہو جانے کے وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔

تشریح

وقف علی الاولاد اہل خاندان وغیرہ کے لیے جائداد وقف کرنے سے متعلق ہے۔ یوں تو شرعاً ہر قسم کا وقف کرنا کارث وتاب ہے لیکن اپنی اولاد، اہل خاندان اور اقرباء کے لیے وقف کرنا دیگر اوقاف سے افضل اور زیادہ موجب ثواب ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ چہلے ان لوگوں کی پروردش کا کفیل ہو جن کی پروردش اس کے ذمہ ہے۔

مسلمانوں کے وقف علی الاولاد کی الفرادیت :

مسلمانوں کے قانون وقف علی الاولاد کے مقابل کسی دوبارے مذهب میں کوئی قانون نہیں ہے۔ صرف قانون هندو میں کسی خاندانی دیوتا کے لیے وقف ہو سکتا ہے لیکن اولاد وغیرہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ البتہ بلحاظ نتائج کسی حد تک هندوؤں کا قانون خاندان مشترکہ اور جائداد مشترکہ مسلمانوں کے وقف علی الاولاد کے قانون سے مشابہ رکھتا ہے۔ لیکن قانون وقف علی الاولاد اپنی اصل اور جزئیات کے اعتبار سے ایک انفرادی نوعیت کا مالک ہے۔

بر صغیر ہند و پاکستان میں :

بر صغیر ہند و پاکستان میں وقف علی الاولاد کے بارے میں پریوی
کونسل کے فیصلے بقدمہ ابو الفتح محمد اسحاق بنام رسالایا مندرجہ الذین
لاه ریورٹ، کلکتہ، جلد ۲۲، صفحہ ۶۱، ۱۸۹۳ع کی بناء پر وقف علی الاولاد
کو ناجائز قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس فیصلے کی منجملہ دیگر وجہ
کے ایک وجہ یہ بھی قرار دی گئی کہ اس کی رو سے اہل خاندان کو
فائده پہنچتا ہے اور چونکہ مساکین کا نمبر عرصہ دراز کے بعد آئے گا جو
غیر یقینی بھی ہے اس لیے وقف علی الاولاد برائے نام وقف ہے۔ نیز یہ کہ
کسی کا اپنی اولاد کے لیے وقف کرنا شرعاً کار خیر میں داخل نہیں ہے۔
یہ فیصلہ مسلمانوں کے شرعی قانون کے بالکل خلاف تھا۔ چنانچہ اس کے اثر
کو زائل کرنے کے لیے مسلمانوں کے مطالیے پر قانون جواز اوقاف مسلمانان
ایکٹ نمبر ۶ بابت ۱۹۱۳ع نافذ کیا گیا جس کی رو سے وقف علی الاولاد
کو جائز اور نافذ العمل قرار دیا گیا۔

۱۹۳۰ع میں ایک اور ترمیمی وقف ایکٹ منظور کیا گیا جس کی رو
سے ان تمام اوقاف علی الاولاد کو جائز قرار دیا گیا جو شرع اسلام کی مقرر
کردہ شرائط کے مطابق ہوں، خواہ ایسے اوقاف ۱۹۱۳ع سے قبل ہی
کیوں نہ تشکیل پذیر ہوئے ہوں۔

آخری مفاد :

وقف علی الاولاد کی صورت میں اس کا آخری فائدہ مستقل نوبت کے
مذہبی صالح یا خیراتی مقاصد کے لیے محفوظ کیا جانا لازمی ہے مثلاً مساکین
اور محتاجوں کی بروش اور گزارہ کے لیے، مساجد کی تعمیر اور ان کے متعلق
اخراجات کے لیے، مساکین کے لیے کفن مہیا کرنے اور قبریں کھدوائے
کے لیے اور اخراجات تجهیز و تکفین کے لیے نیز تمام قسم کے خیراتی کاموں

کے لیے جن کے ذریعہ سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتا ہو جیسے سرائیں ، پل ، سڑکیں وغیرہ وغیرہ - اولاد اور اقرباء وغیرہ کے معدوم ہو جانے کے بعد جس مستقل نوعیت کے مذہبی مقصد کے لیے وقف کیا جائے اس کا ذکر خواہ صریح طور سے کیا جائے یا اس قسم کا منشاء معنوی طور سے ظاہر ہوتا ہو ، کافی ہوگا ۔

آخری مفاد مستقل نوعیت کا مذہبی صالح یا خیراتی مقصد کے لیے ہونے کی غایت یہ ہے کہ وقف فی الاصل دوامی ہوتا ہے اور چونکہ اولاد یا اقرباء اصلاً معدوم ہونے والے ہیں یا ایک نہ ایک دن ضرور معدوم ہوں گے اور متوفی واقف کی نسل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا امن لیے وقف کو دوام بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ امن کا آخری مفاد مستقل نوعیت کا ایک ایسا مذہبی صالح یا خیراتی مقصد ہو جو دوامی ہو ۔

اولاد سے کون مراد ہیں ؟

الفاظ ”علی الاولاد“ یا ”اہل خاندان“ میں وہ تمام رشتہ داران شامل ہیں جن کا سلسلہ نسب واقف ہے (یا اس کے مورث اعلیٰ سے) مل جاتا ہو ۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے نام وقف کرے تو اس میں اولاد ذکور و اناث دونوں شامل ہوں گے جو اس وقت یا واقف کی موت کے وقت موجود ہوں ۔ لیکن وقف کے بعد لفظ اولاد کے مفہوم میں صرف اولاد ذکور نسلًا بعد نسل شامل ہیں ، الا یہ کہ وقف نامے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو کہ اولاد ذکور و اناث نسلًا بعد نسل سب شامل ہیں ۔ اگر واقف نے وقف علی الاولاد کی صورت میں اپنی صرف ایک یا دو پشتوں کے لئے وقف کیا ہو تو وقف کا استفادہ محض ایک یا دو پشتوں تک محدود رہے گا تاوقتیکہ اس کے خلاف واقف کا منشاء ظاہر نہ ہو ۔ لیکن اگر اس نے وقف کا استفادہ تین یا تین سے زیادہ پشتوں کے لئے کیا ہو تو وقف کا

استفادہ نسلاً بعد نسل ہوگا۔

آمدنی کی تقسیم :

اگر وقف بلا صراحة چند مقاصد یا چند موقوف علیہم کے لیے کیا جائے تو ان کے درمیان وقف کی آمدنی ایک ساتھ اور مساوی تقسیم کی جائے گی۔ اگر وقف اولاد کے حق میں نسلاً بعد نسل کیا جائے اور ان کے حصے تقسیم شدہ نہ ہوں تو تمام موقوف علیہم اور ان کی اولاد بشرط اناث مساوی حصہ آمدنی کی مستحق ہوں گی۔ قانون وراثت کا مسلمہ قاعدہ جس کی رو سے مرد کو عورت کے مقابلہ میں دگنا ملتا ہے قانون وقف سے متعلق نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر زید نے وقف علی الاراد کیا۔ اس کی وفات پر دو بیٹے عمر اور بکر اور ایک بیٹی جمیلہ تھی۔ وقف کی آمدنی ان تینوں ہن بھائیوں پر مساوی تقسیم ہوگی۔ فرض کیجیے کہ عمر کا انتقال ہو گیا اور اس نے دو بیٹے دو بیٹیاں چھوڑیں تو اب جاندار کی آمدنی بکر، جمیلہ اور عمر کی چاروں اولادوں میں پیکسان تقسیم ہوگی یعنی ہر ایک کو کن آمدنی کا چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن اگر وقف علی الاراد میں واقف کا یہ منشاء ظاهر ہوتا ہو کہ متوفی پسر یا دختر کے مرنے پر اس کی اولاد کو اس متوفی پسر یا دختر کا حصہ ملتا رہے تو حصہ شاخ وار تقسیم ہوگا نہ کہ فی کس۔ اور یہ سلسلہ اولاد ذکور و اناث دونوں میں جاری رہے گا۔

مصری قانون کے تحت وقف علی الاراد :

قانون تنظیم اوقاف مصر، مجریہ ۱۹۳۶ع کے تحت وقف کی بلحاظ مدت تین قسمیں کی گئی ہیں:

- (۱) وہ وقف جو صرف ابدی ہونا چاہیے اور موقتی ناجائز ہوگا۔ ایسے وقف میں مسجد کا وقف شامل ہے۔ بالفاظ دیگر مسجد کا وقف ابدی ہونا لازمی ہے۔

(۲) ایسا وقف جو ابدی اور موقتی دونوں طرح جائز ہے۔ یعنی یہ امر واقف کی صرضی پر منحصر ہے کہ وہ وقف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرے یا ایک خاص مدت کے لیے کرے۔ ایسے وقف میں علاوہ مسجد کے دوسرے خیراتی اوقاف شامل ہیں۔

(۳) ایسا وقف جو صرف موقتی جائز ہوگا اور ابدی نہ ہوگا۔ ایسے وقف کا اطلاق وقف علی الاولاد پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ از رونے قانون مصر وقف علی الاولاد کی زیادہ سے زیادہ مدت واقف کی وفات کے بعد ۶۰ سال مقرر کر دی گئی ہے یا وہ وقف واقف کے علاوہ دو پشتون تک کے لیے ہوگا۔

اس مسئلے سے متعلق راج' الوقت مصری قانون کی متعلقہ دفعات ذیل میں بیان کی جاتی ہیں :

۵ - مسجد کا وقف دائمی ہوگا البته خیراتی وقف کے ماسوا وقف موقتی اور ابدی دونوں طریق پر صحیح مانا جائے گا۔ جب مطلق وقف کیا گیا ہوگا تو اس کو ابدی وقف تصور کیا جائے گا۔ اور جو وقف خیراتی طبقوں پر ہو وہ محض موقتی (ایک مقررہ وقت تک) وقف سمجھا جائے گا اور (سلی) دو طبقوں سے زیادہ طبقات تک جائز تصور نہ ہوگا۔

اگر واقف نے وقف کے وقت موقوف علیہم کے اہماء کے ساتھ تصریح سے کام لیا ہو یا ان کو معین کر دیا ہو تو یہ لوگ ایک طبقہ متصور ہوں گے، خواہ واقف نے ان کے درمیان ترتیب بیان کی ہو یا نہ بیان کی ہو، لیکن اگر واقف نے ان موقوف علیہم کا نام لیے کر متعین نہ کیا ہو تو اس وقت ہر بطن ایک طبقہ سمجھا جائے گا خود واقف کی ذات ان طبقات سے خارج ہوگی۔ (یعنی کسی طبقہ میں شمار نہ ہوگی)۔

اور جب واقف نے غیر خیراتی وقف میں وقت کا تعین کیا ہو تو اس

وقت یہ ضروری ہو گا کہ واقف کی وفات کے بعد سے ۶۰ سال سے زیادہ وقف نہ ہو ۔

اور واقف کے لیے یہ جائز ہو گا کہ جو کچھ اس نے وقف کیا ہے اس قانون (مجریہ ۱۹۳۶ع) پر عمل ہونے سے پہلے اپنے وقف میں وقت کا تعین کر دے جس طرح اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ وقف سے رجوع کرے ۔

۱۶ - جس وقف کی مدت معین ہوگی وہ وقف اپنی مدت ختم ہو جانے پر یا موقوف علیہم کے منقطع ہو جانے پر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس وقف کا کوئی حصہ اس کے موقوف علیہ کے عدم وجود پر مدت معینہ ختم ہونے سے قبل ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس پورے طبقے کے ختم ہونے سے قبل ہی یہ حصہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہو گا جب کہ وقف نامہ میں امن حصے کا باقی موقوف علیہم کے یا ان میں سے بعض کی طرف رجوع کر جانے کی کوئی صراحة موجود نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وقف اسی وقت ختم ہو سکے گا جب کہ یہ باقی موقوف علیہم ختم ہو جائیں یا وقف کی مدت اپنی انتهاء کو نہ پہنچ جائے ۔

۲۸ - واقف کو یہ حق حاصل ہو گا کہ یہ شرط کر دے کہ اس کی حیات میں زوجین یا والدین وقف میں مستحق ہوں گے اور وفات کے بعد یہ استحقاق اس کی ذریت کو حاصل ہو جائے گا ۔

۲۹ - واقف کو یہ حق بھی حاصل ہو گا کہ وہ اپنی حیات میں اپنی فوت شدہ اولاد میں سے کسی کی اولاد کو جو واقف کی حیات میں موجود ہے، اپنے وقف میں اپنی فوت شدہ اولاد کے میرے حصے کا مستحق قرار دے دے یا اپنے حصے کا جو میت کے حصے کی تکمیل کرتا ہو، اگرچہ یہ استحقاق تہائی مال کی حد سے متجاوز ہی کیوں نہ ہو ۔

۳۰ - اور جب کہ واقف نے ایسے اشخاص کو محروم رکھا ہو جن

کو اس قانون کے تحت اس وقف میں کل یا بعض کا حق حاصل تھا ، تو ابی صورت میں ان لوگوں کو ان کا واجب حق دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا وہ ان محرومین کو چھوڑ کر باقی موقف علیہم پر ان کے حصوں کے مطابق اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہیں (جن کا میراث کے لحاظ سے حق واجب ہوتا ہے) تقسیم کیا جائے گا اور اگر ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں تو ان کے حصہ وقف کے اعتبار سے ان پر تقسیم کیا جائے گا۔

لیکن اگر مستحق محروم نے باوجود قدرت کے اپنے حق کا دعوی نہ کیا اور نہ کوئی شرعی عذر عدم دعوی کے لیے پایا گیا اور اس پر واقع کی موت سے شمسی دو سال کا عرصہ گزر گیا ، یا واقع کی وفات کے بعد وقف کے متعلق کوئی ایسی دستاویز تحریر کر دی تو اب وقف میں کوئی تغیر نہیں کیا جائے گا۔

اور اس محروم کے بعض حق کو ترک کرنے پر رضامندی بھی قابل نفاذ سمجھی جائے گی - جس کے بعد مابقی کا حقدار نہ رہے گا۔

۳۲ - اگر واقع کی ذریت پر وقف کیا گیا ہو جو طبقات کی ترتیب کے ساتھ مقرر ہو ، اسی حالت میں کوئی اصل غیر (دوسرے موقف علیہ) کی فرع کے لیے محرومی کا سبب نہ ہو سکے گا ، اور ان میں سے جو فوت ہوگا اس کا استحقاق حصہ اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

اور وقف کی آمدنی کی تقسیم کسی طبقہ کے ختم ہونے سے نہیں تווڑی جائے گی جب تک ان اصول کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا۔ وہ اسی طریقہ پر یا قریب رہے گی جس طرح وقف میں اس کو بیان کیا گیا ہو الا یہ کہ اس تقسیم کے باطل نہ کرنے سے موقف علیہم کی محرومی لازم آتی ہو۔

۳۳ - دفعہ ۱۶ کے احکام کی رعایت کرنے ہوئے جب کوئی مستحق اس طرح فوت ہو جائے گا کہ اس کے بعد اس حصہ موقفہ کا پانے والا

اس کی اولاد میں کوئی نہ ہوگا تو یہ حصہ اصل وقف کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔

اور جب واقف نے طبقات کی ترتیب کے ساتھ وقف کیا ہو اور فوت ہونے والوں یا وقف سے محروم ہو جانے والوں یا استحقاق باطل ہو جانے والوں کے بعد ان کے نتیجے کے طبقہ کے لیے یا ان سے قریب تر طبقہ کے لیے وقف کیا ہو تو اس وقت اس شخص کو استحقاق حاصل ہوگا جو ان لوگوں کے طبقہ سے ہوگا، بشرطی کہ وہ ایسے لوگوں میں داخل ہو جو وقف میں حصہ دار ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

۳۶ - جو شخص استحقاق سے محروم ہو گیا ہو یا اس کا استحقاق باطل ہو گیا ہو، اس کے حصے کے رد کرنے کا وہی حکم ہوگا جو مستحق کے فوت ہونے پر عائد ہوتا ہے۔ اور محروم کا حق اس وقت پھر واپس ہو جائے گا جبکہ معروضت کا سبب زائل ہو جائے۔

۳۵ - جب ترتیب طبقات کے ساتھ وقف کیا گیا ہو اور طبقہ اولیٰ کلیہ موجود نہ ہو تو پھر وقف کی آمدنی کا استحقاق اس سے متصل قریبی طبقے کو ہوگا اور جس وقت اول طبقہ کا کوئی فرد وجود میں آیا یہ استحقاق اس کی جانب رجوع کر جائے گا۔

مصری قانون کی بنیاد:

مندرجہ دفعات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پھونچا جاسکتا ہے کہ مصری قانون کی مندرجہ بالا دفعات میں دفعہ ۵ کسی سلمہ بذہب پر مبنی نہیں جبکہ دفعہ ۶ مصالح پر مبنی اجتنبادی نوعیت کی حامل ہے۔ دفعات ۲۸ تا ۳۰ مذاہب اربعہ سے ماخوذ ہیں مگر تغیر کے ساتھ۔ دفعہ ۳۱ ہنی اور حنبیلی فقہ کا امتزاج ہے جبکہ دفعہ ۳۲ مالکی اور حنبیلی فقہ کا مجموعہ ہے۔ نیز دفعہ ۳۳ مالکی فقہ، دفعہ ۳۴ حنبیلی فقہ اور دفعہ ۳۵ شافعی فقہ سے ماخوذ معلوم ہوتی ہیں۔

۱۹۲ - جو وقف واقف کی زندگی میں تکمیل پا چکا ہو منسوخ نہ کیا جا سکے گا - البتہ وقف بذریعہ وصیت واقف کی موت سے قبل کسی وقت بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے ۔

تشریع

وہ وقت جو شرعی طور پر واقف کے ذمہ لازم ہو گیا ہو ناقابل تسبیح ہے - البتہ وصیتی وقف کرنے کے وقت واقف تسبیح وقف کا حق اپنے لیے محفوظ کر لے تو ایسا وقف جو ابھی وجود ہی میں نہیں آیا (مثلاً وصیت نامے) کے ذریعے واقف کی زندگی کے بعد وجود میں آئے گا) تو واقف کی زندگی کے دوران ہر وقت منسوخ کیا جا سکتا ہے - اس کی حیثیت ہبہ بالوصیت کی ہے ۔

امام سرخسی اپنی کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں کہ "وقف میں کوئی وقت مقرر کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ بیع میں وقت کے تقرر کی شرط کر دی جائے جو وقف کے لیے بطل (باطل کر دینے والا) ہو جائے گا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے لہذا ابو یوسف کے نزدیک منقطع ہونے والا وقف باطل نہ ہو ۔^{۶۶}

مصری قانون :

رایغ الوقت مصری قانون کے تحت واقف کو وقف میں رجوع کا حق حاصل ہے جیسا کہ حسب ذیل دفعات سے ظاهر ہوتا ہے :

۱۱ - واقف کو اپنے کل وقف یا اس کے بعض حصے سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے ، جس طرح کہ اس کو وقف کے مصارف اور شرائط میں تغیر کرنے کا حق حاصل ہے حتیٰ کہ اپنی ذات کے محروم کر دینے کا ، مگر یہ

(۶۶) المبسوط ، امام سرخسی ، مطبوعہ مصر ، ۳۴۳ هجری ، صفحہ ۱۱

تغیر اس قانون (میریہ ۱۹۶۶ع) کی حد میں رہ کر نافذ ہوگا۔ اور اس قانون پر عمل کیئے جانے سے قبل واقف کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ اپنے وقف میں رجوع کرے یا اس میں کوئی تغیر کرے، اور یہ کرے کہ جب اپنی ذات اور ذریت کو استحقاق سے ان دس شرطوں سے محروم رکھا ہو تو کسی غیر شخص کو اس کا مستحق قرار دے دے۔ یا یہ ثابت ہو جائے کہ یہ استحقاق کسی غیر مالی عوض کی بناء پر واقع ہوا ہے، یا واقف پر ایسے حقوق کی ضہان کے معاوضہ میں دیا گیا ہے۔ جو وقف سے قبل واقف پر ثابت تھے۔

مسجد پر جو اشیاء وقف ہوں گی ان کا رجوع کرنا جائز ہوگا اور رجوع یا تعین اسی حالت میں صحیح ہوں گے جب کہ صراحت کے ساتھ کیئے گئے ہوں۔

۱۶۔ جس وقف کی مدت معین ہوگی وہ وقف اپنی مدت ختم ہو جانے پر یا موقوف علیہم کے ختم ہو جانے پر ختم ہو جائے گا اسی طرح اس وقف کا کوئی حصہ اس کے موقوف علیہ کے عدم وجود پر مدت معینہ ختم ہونے سے قبل ہی ختم ہو جائے گا اور اسی طرح اس پورے طبقہ کے ختم ہونے سے قبل ہی یہ حصہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ وقف نامہ میں اس حصے کا باقی موقوف علیہم کے یا ان میں سے بعض کی طرف رجوع کر جانے کی کوئی صراحت موجود نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں وقف اسی وقت ختم ہو سکرے گا جب کہ یہ باقی موقوف علیہ ختم ہو جائیں یا وقف کی مدت اپنی انتہاء کو چھنج جائے۔

۳۳۔ موقوف کی تقسیم واقف کی زندگی میں اس کی رضائندی کے بغیر جائز نہ ہوگی اور واقف کو اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

۳۶۔ جب محکمہ وقف کو تقسیم کر دے گا یا وقف کا کوئی حصہ کسی شخص کے حق میں بالکل جدا کیا ہوا ہو تو اس صورت میں ضروری

ہو گا کہ ہر مستحق کو اپنے حصہ کا نگران مقرر کر دیا جائے بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہو، اگرچہ یہ واقف کی شرط کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
مصری قانون کی بنیاد:

مصری قانون کی مندرجہ بالا دفعات میں دفعہ ۱۱ میں واقف کے وقف سے رجوع کرنے کے حق کا جہاں تک تعلق ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق ہے البتہ اس دفعہ میں مذکور دوسرے احکام حنبلی فقہ اور وقتی مصالح کے تحت قیاس بالاجتهاد پر مبنی نظر آتے ہیں۔ دفعہ ۱۶ میں مصالح عامہ پر مبنی اجتہاد سے کام لیا گیا ہے۔ مندرجہ دفعات ۳۳۶، ۳۴۳ متأخرین حنفی فقہا کے اقوال سے متاثر نظر آتی ہیں۔

تولیت وقف
۱۹۳ - (۱) واقف اس امر کا مجاز ہو گا کہ وقف کی تولیت اپنی ذات یا کسی دیگر فرد یا افراد کے لیے بالترتیب مخصوص کر دے۔

(۲) تولیت کی عدم صراحت کی صورت میں واقف وقف کا متولی تصور ہو گا۔ واقف کے بعد تولیت کا حق وصی اور اس کے بعد حاکم وقت کو حاصل ہو گا۔

تفسیر

از روئے شرع اسلام واقف اس امر کا مجاز ہے کہ وہ خود ہی وقف کا متولی ہو۔^{۶۴} واقف اس امر کا بھی مجاز ہے کہ وقف نامے میں یہ تحریر کر دے کہ فلاں طریقے کے مطابق اور فلاں شرط کے ساتھ اور اس قدر عرصہ کے لیے فلاں شخص یا اشخاص کی جماعت متولی ہوگی یا شخص یا اشخاص کی جماعت متولی کرنے کی مجاز ہوگی۔ اگر وقف نامے میں متولی اور اس

(۶۴) فتاویٰ عالیٰ گیری (عربی)، مطبع عبیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۲
فتح القیر، ابن ہام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶، صفحہ ۶۴
بحر الرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱، هجری، جلد ۵، صفحہ ۳۸۸
ردد المحتار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶، هجری، جلد ۳، صفحہ ۳۹۶

کے جانشین کے متعلق صراحتاً یا کنایتاً کوئی ہدایت نہ پائی جائے تو خود واقف متولی مقرر کرنے کا مستحق ہوگا۔ واقف کی وفات کے بعد اس کا وصی (Executor) اور وصی کے جانشین کی وفات کے بعد عدالت متولی مقرر کرنے کی مجاز ہوگی۔^{۶۸}

واقف کو اختیار حاصل ہے کہ وہ یکرے متولیوں کو نامزد کر سکتا ہے یا وہ اگر نام بنام متولیوں کو نامزد نہ کرے تو کسی خاص جماعت میں سے متولیوں کے تقریر کی بابت تحریر کر سکتا ہے۔ اسے یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ متولیوں کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا مجاز کر دے۔

امام سرخسی نے اپنی کتاب المبسوط میں لکھا ہے کہ «اگر وقف کا متولی واقف کی حیات میں فوت ہو جائے تو دوسرے متولی کے تقریر کا اختیار خود واقف کو حاصل ہوگا۔ جس کو پسند کرے گا مقرر کر سکے گا۔۔۔ وقف کا متولی واقف کے نائب کے درجہ میں ہوتا ہے تاکہ موقوف علیہم کی منفعت کا عمل (اس کی نائی) میں کرتا رہے۔ لہذا اول متولی کے فوت ہونے کے بعد دوسرے کے تقریر میں واقف کی رائے کا شرط ہونا وقف کے مقصود کا محقق ہونا ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں پیدا کرتا۔ اور اگر متولی کا انتقال واقف کے بعد ہوا اور اس نے اپنے بعد کے لیے کسی کو اپنا وصی بنا دیا تو یہ وصی متولی کے بعد اس کا قائم مقام ہوگا۔ اس لیے کہ واقف نے متولی کو اپنے وقف کی نگرانی اور اپنی غرض کی تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب چونکہ فوت ہو جانے کی بناء پر وہ اس عمل سے بذات خود عاجز ہو گیا یہ عجز ہی اس کے لیے اس امر کی اجازت ہو گیا

(۶۸) در مختار برحاشیہ ردمختار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۲۵۶، هجری، جلد ۵، صفحہ ۳۹۶

بعرالرائق، ابن نعیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱، هجری، جلد ۵، صفحہ ۲۳۷-۲۳۸
فتح التدیر، ابن همام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶، هجری، جلد ۵، صفحات ۵۸-۶۰

کہ وہ اپنے فوت ہونے کے بعد وقف کے انتظام میں کسی دوسرے شخص سے مدد لے۔ جس طرح کہ وصی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو وصی مقرر کر دے۔ اور یہ حکم بعض علماء پر بھی پوشیدہ رہا اس لیے ان لوگوں نے یہ جائز نہ سمجھا کہ وصی کسی دوسرے کو وصیت کرے۔ اگر متولی کسی کو وصیت کریں بغیر فوت ہو گیا تو اب متولی کے تصریح کا حق قاضی (حاکم) کو حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ حاکم کا تقریر ہی اس لیے ہے کہ جو شخص اپنے فرائض کی انجام دھی سے معذور ہو جائے اس کی نگرانی کرے۔ اب واقف فوت ہو چکا ہے اور جو موقعہ کا مصرف ہے وہ اپنی ذات کے ذریعہ کرنے سے عاجز ہے لہذا متولی مقرر کرنے کا اختیار حاکم (قاضی) کو حاصل ہوگا۔ جب تک کہ واقف کے خاندان اور اس کی اولاد میں سے کوئی شخص متولی بننے کی صلاحیت رکھنے والا موجود ہو، کسی اجنبی شخص کو متولی مقرر نہ کیا جائے۔ اگر واقف یہ شرط نہ رکھے تو حاکم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وقف کی مصلحت کسی اجنبی کے متولی مقرر کرنے میں مضر ہے تو اس کو متولی مقرر کر دے۔ اور واقف کا مقصد یہ تھا کہ تولیت اس کی اولاد اور خاندان میں رہے تاکہ وقف اس کی ذات کی طرف منسوب ہوتا رہے یا اس لیے کہ اس کی اولاد وقف کے حق میں ایک غیر شخص سے زیادہ شفیق ثابت ہوگی، اس لیے اس شرط کا وقف نامے میں ذکر کر دے تاکہ (حاکم وقت) اس شرط کے خلاف نہ کرے۔ اور واقف کے اقرباء میں کوئی ایسا موجود نہ ہو تو پہر کسی اجنبی کو متولی مقرر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد جب کبھی بھی کوئی ایسا شخص اس کے خاندان میں پایا جائے کہ وہ تولیت کی صلاحیت رکھتا ہو تو یہ تولیت اس کی طرف منتقل کر دی جائے۔^{۶۹}

(۶۹) البسوط، امام سرخسی مطبوعہ، مصر، ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۶۰ء، جلد ۱۷، صفحہ ۲۲۲

مصری قانون :

قانون وقف مجریدہ ۱۹۳۶ع مصر، میں وقف کی نگرانی سے متعلق حسب ذیل دفعات یا ان کی گئی ہیں :

- ۳۴۔ نگران وقف کا کسی غیر کے لیے نگرانی کا اقرار کرنا وقف کے حق میں باطل ہو گا خواہ یہ اقرار کسی فرد کے لیے ہو یا بطور اشتراک چند افراد کے لیے ہو -

- ۳۵۔ کسی نگران وقف کے لیے یہ جائز نہ ہو گا کہ بغیر اجازت محکمہ شرعیہ وقف پر کسی قسم کا قرضہ لے لیکن یہ ان امور کے علاوہ تصور کیا جائے گا جو وقف کے مقررہ امور میں شامل ہے -

- ۳۶۔ جب محکمہ کسی وقف کو تقسیم کر دے گا یا کوئی حصہ وقف کا کسی شخص کے حق میں بالکل جدا کیا ہوا ہو تو اس صورت میں ضروری ہو گا کہ ہر مستحق کو اس کے اپنے حصے کا نگران مقرر کر دیا جائے بشرطے کہ وہ اس کا اہل ہو۔ اگرچہ یہ واقف کی شرط کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

- ۳۷۔ جب کہ وقف کسی کار خیر کی جہت پر ہو تو اس کی تولیت اسی شخص کے ذمے ہو گی جس کے لیے واقف نے شرط کر دی ہو گی۔ اس کے بعد اس شخص کے لیے ہو گی جو واقف کی ذریت یا اس کے اقارب میں سے اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے بعد نگرانی کا حق محکمہ اوقاف کو حاصل ہو گا۔ امن صورت میں جب کہ واقف غیر مسلم نہ ہو۔ لیکن اگر وقف کا مقصد غیر اسلامی جہت ہے تو اس کی نگرانی کا حق صرف اس شخص کو ہو گا جس کو محکمہ اپنی طرف سے متعین کرے۔ لیکن محکمہ کو اس اس کا لحاظ رکھتا ہو گا کہ نگران متولیان میں ترتیب ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ہو گی۔

۴۸۔ جب وقف کی تقسیم نہ کی گئی ہو تو ایسی صورت میں مکملہ ایک سے زائد نگران مقرر نہیں کرے گا الا یہ کہ جب کوئی مصلحت اس کے خلاف واقع ہو۔ اور متولیان کے ایک سے زائد ہونے کی صورت میں مکملہ کا یہ فرض ہوگا کہ ان متولیوں کی اکثریت کو ایسے امور میں تصرف کا حق دے جن میں ان کے اختلاف کا اندیشه ہو۔

تمام حالات میں یہ جائز ہوگا کہ وقف کی تقسیم کی صورت میں ہر نگران وقف کو نگرانی کا مستقلًا حق حاصل ہو۔

۴۹۔ جب تک مشخصین میں سے کوئی ایک شخص متولی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو کسی اجنبی کو متولی نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن جب ایسے مشخص جو اپنے استحقاق میں اونچا درجہ رکھتے ہوں، اس پر مستقیم ہو جائیں کہ کسی خاص شخص کو وقف کا نگران مقرر کر دیا جائے تو اس وقت حاکم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کو متولی مقرر کو دے الیا یہ کہ حاکم کی مصلحت اس کے خلاف ہو۔

اور وظیفہ خوار یا تنخواہ دار مستحق اسی درجے میں سمجھا جائے گا کہ جس درجہ میں مستحق وقف کو سمجھا جائے گا۔ نگران کی عدم اہلیت یا غائب ہونے کی صورت میں قائم مقام ہو سکے گا۔

۵۰۔ کسی اجنبی کو متولی مقرر کرنے کی صورت میں جب کبھی مشخصین میں ایسا کوئی شخص پایا گیا جو متولی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کو متولی مقرر کر دیا جائے۔

متولی وقف کو مال وقف میں ایک امین کی حیثیت حاصل ہوگی۔ مشخصین کی جانب سے وکیل متصور ہوگا۔ اس کا کوئی قول اوقاف یا مشخصین پر صرف کرنے میں اس وقت تک قابل قبول نہ ہوگا جب تک اس کے سلسلے میں دستاویزی ثبوت مہیا نہ کرے۔ لیکن یہ ان امور کے

علاوہ ہوگا جو عرف و عادت میں ان کے محتاج نہیں ہوتے۔ متولی سے اس کے ان فرائض کے سلسلے میں جو اشیاء وقف اور آمدی وقف الجام دینے سے متعلق ہوں سوال کیا جا سکے گا اور اگر وہ اپنی تولیت کا معاوضہ بھی پاتا ہو تو پھر معقول سی کوتاہی پر بھی اس سے سوال کیا جا سکے گا۔

۵۱۔ جس وقت بھی متولی وقف کو اس کے نگرانی کے تصرفات یا ان حسابات کے جو وقف سے تعلق رکھتے ہوں پیش کرنے کو کہا جائے گا کہ وہ ان کو پیش کرے لیکن وہ ان کو پیش نہ کرے گا، اس میعاد کے اندر جو محکمہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہو یا جن امور کے متعلق محکمہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ اس امر کے سلسلے میں وہ اختیار کرے، وہ اختیار نہ کیا ہو تو اس وقت یہ جائز ہوگا کہ اس پر جرمانہ کا حکم دیا جائے جس کی مقدار ۵ گنی سے زیادہ نہ ہوگی۔ لیکن اگر یہ فعل اس سے بار بار سرزد ہو تو یہ مقدار ۱۰۰ گنی تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ محکمہ کے لیے یہ امر جائز ہوگا کہ وہ متولی کے فریق مقابل کو جو اس کے تصرفات کے دعویٰ میں اس کے مقابل ہے اس جرمانہ کے کل یا جز کو بطور عطیہ کے دے دے۔

اسی طرح محکمہ کے لیے جائز ہوگا کہ وہ متولی کو اس کے مقررہ کل یا بعض معاوضہ سے محروم کر دے۔ اور جب متولی حساب پیش کر دے یا جن امور کا اس کو حکم دیا گیا ہے ان کو نافذ کر دے۔ اور ان کی تاخیر میں کوئی قابل قبول عذر پیش کرے تو محکمہ کو یہ حق ہوگا کہ اس جرمانے کے کل یا اس کا بعض حصہ یا جن حقوق سے اس کو معروف کر دیا گیا ہے اس کا کل یا بعض حصہ معاف کر دے۔

۵۲۔ محکمہ کے لیے یہ جائز ہوگا کہ جب بھی تقاضائے حالات ہو اور جس وقت بھی ہو متولی کی نگرانی کے دوران یا اس پر وقف کے سلسلے

میں کسی قسم کا دعویٰ کیجئے جانے کے وقت مکملہ متولی کو معطل کر دے۔ یا یہ کہ ایسی مصلحت پیش آئے کہ اس کے معزول کرنے میں زیادہ بہتری ہو۔

۵۳۔ متولی وقف کو حوالی کر دینے کے وقت میں یا اس کے تولیتی تصرفات کے دوران مکملہ کو تصرفات کا حق حاصل ہوگا۔ اور یہ کہ متولی پر مقدمہ کے دوران کسی دوسرے کو وقتی طور پر تا انتہائی مقدمہ متولی مقرر کر دے۔

مصری قانون کی بنیاد:

راجح وقت مصری قانون کی مندرجہ بالا دفعات میں دفعہ ۳۳ کے بعض احکام حنبلی فقہ سے اخذ کیے گئے ہیں جبکہ دفعات ۵ تا ۹ متأخرین حنفی فقہاء کے اقوال پر ہیں۔ البتہ دفعات ۵ تا ۳۳ جزوی طور پر اقوال سلف پر مبنی ہیں لیکن زیادہ تر اجتہادی نوعیت کی حامل ہیں۔

۱۹۲۔ وقف کی تولیت کا ایسا شخص (خواہ مرد ہو یا عورت) مستحق ہوگا جو عاقل و بالغ ہو، فسق و فجور کے ساتھ معروف نہ ہو، امن ہو اور انتظامی قدرت رکھنے والا ہو خواہ بذات خود یا بتوسط نائب۔

پیش بخ

هر شخص، مرد یا عورت، خواہ کسی مذہب کا بیرو ہو، متولی ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ بالغ ہو اور فاتر العقل نہ ہو چنانچہ تولیت کے لیے سسلان یا آزاد ہونا شرط نہیں ہے غلام یا ذمی کافر بھی متولی ہو سکتا ہے۔^{۴۰}

متولی اگر فسق و فجور میں بستلا ہو تو معزول کیا جا سکتا ہے لیکن

(۴۰) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۲

وہ بغیر معزول کیجئے خود بخود معزول نہ ہوگا۔^{۱۶}

اگر کوئی متولی نابالغ یا پاکل ہو تو اس کا تقرر من ابتداء باطل ہوگا۔ اگر حق تولیت بذریعہ وراثت کسی نابالغ کو پہنچ گیا ہو تو عدالت اس کی نابالغی کے زمانے میں وقف کے انتظام و انصرام کے لیے دوسرے شخص کو متولی مقرر کرے گی۔^{۱۷}

۱۹۵ - اگر کوئی متولی فرائض تولیت انجام دینے کا اہل نہ ہو تو عدالت معقول وجوہ کی بناء پر موجودہ متولی کو علیحدہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ لیکن متولی مقرر کرنے وقت عدالت حتی الامکان واقف کی منشاء کا لحاظ رکھئے کی اور جہاں تک ممکن ہوگا واقف کے اہل خاندان میں سے کسی موزون شخص کو متولی مقرر کرے گی۔

متولی کی معزولی
اور تقرر جدید

تفسیر

اگر واقف اپنی ذات کے لیے تولیت مختص کر لے اور ساتھ ہی یہ بھی شرط کرے کہ حاکم وقت یا عدالت کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ واقف کو تولیت سے معزول کرے تو واقف کے امین نہ ہونے کی صورت میں اس کی یہ شرط قابل پابندی نہ ہوگی اور عدالت کو اس کے معزول کر دینے کا حق حاصل ہوگا۔ اس طرح عدالت کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ جس شخص کو واقف نے وقف کا متولی مقرر کیا ہو لیکن اس متولی کے برخلاف دوسرا شخص وقف کے حق میں بہتر ہو تو واقف کے مقرر کردہ کو معزول کر دے۔ اگر واقف یہ شرط کرے کہ فلاں شخص اس وقف کا متولی ہوگا اور مجھے یہ حق نہ ہوگا کہ میں اسے تولیت سے علیحدہ کر سکوں تو یہ

(۱۶) بجرالرانق ، این بخیم ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۱۱ هجری ، جلد ۵ ، صفحہ ۲۰۰۰

ردالمحترار ، این عابدین ، مطبوعہ مصر ، ۱۵۵۶ هجری ، جلد ۱ ، صفحہ ۲۹۷

(۱۷) فتاوی عالمگیری (عربی) ، مطبوعہ مجیدی کان بور ، جلد ۲ ، صفحہ ۳۳۶

شرط باطل ہوگی۔^۳ امام محمد کے نزدیک واقف متولی کو مقرر کر دینے کے بعد اس کو علیحدہ کر دینے کا مجاز نہ ہوگا تاوقتیکہ وقف نامے میں اس نے یہ اختیار محفوظ نہ کر لیا ہو۔ امام ابو یوسف کے نزدیک واقف جب چاہے علیحدہ کر سکتا ہے لیکن فتوی امام محمد کے قول پر ہے۔

متولی واقف یا عدالت کی اجازت کے بغیر تولیت نہیں چھوڑ سکتا۔

جب تک واقف کے خاندان میں سے کوئی ایسا شخص پایا جائے جو وقف کا متولی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو وقف کا متولی مقرر کرے۔ اگر واقف کے خاندان میں کوئی شخص تولیت کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور اس وجہ سے کسی غیر کو وقف کا متولی بنایا گیا ہو لیکن کچھ عرصے کے بعد واقف کے خاندان میں مناسب شخص پایا جائے تو اس اجنبی کو معزول کر کے اس فرد کا متولی بنانا درست ہوگا۔^۴

متولی کے تقریب میں سب سے پہلا حق خود واقف کا ہے نہ کہ حاکم یا عدالت کا۔ واقف کے بعد متولی کے تقریب کا حق اس شخص کو حاصل ہے جس کے متعلق واقف نے وصیت کی ہو۔ اگر واقف کے مقرر کیے ہوئے متولی کا واقف کی موت کے بعد انتقال ہو جائے اور واقف کا وصی بھی موجود نہ ہو تو متولی مقرر کرنے کا حق عدالت کو حاصل ہوگا۔^۵

(۳) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۴۴
والمحتر، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ/۱۸۷۲ء، صفحہ ۹۹-۱۰۲

بjur الرائق، ابن نحیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۱ء، صفحات ۶۵-۶۱

(۴) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۴۳
والمحتر، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ/۱۸۷۲ء، صفحہ ۲۳۳

(۵) درالاختار برحاشیہ والمحتر، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھ/۱۸۷۲ء،
جلد ۳، صفحہ ۲۲۳

فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۲۳۲-۲۲۲
بjur الرائق، ابن نحیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۱ء، صفحہ ۲۳۳

اگر کسی وقف کا متول موجود ہو تو اس کے موجود ہوتے ہوئے
عدالت کو وقف میں تصرف کا حق حاصل نہ ہوگا الیہ کہ متول تصرف
سے انکار کر دے۔^{۶۶}

اگر واقف فاسق ہو جائے تو معزول کا مستحق ہو جائے گا لیکن بغیر
حاکم کے معزول کبھی خود بخود معزول نہ ہوگا۔

اگر واقف نے کسی شخص کو متول مقرر کیا ہو اور قاضی وقف کے
حق میں اس کا معزول کرنا بہتر خیال کرتا ہو تو قاضی کو یہ حق حاصل
ہے کہ آئے معزول کر دے۔^{۶۷}

واقف نے جس شخص کو اپنی زندگی اور موت دونوں حالتوں میں
تولیت سپرد کی ہو وہ شخص واقف کی زندگی میں اس کا وکیل اور موت
کے بعد اس کا وصی تصور کیا جائے گا۔ اگر واقف اسی صورت میں توکیل
کا لفظ استعمال کرے تب بھی وہی حکم ہوگا۔ البته اگر یہ کہا کہ میں
نے تم کو اپنی زندگی تک اس وقف کا متول مقرر کیا تو یہ تولیت واقف
کی زندگی تک محدود ہوگی وہ شخص وفات کے بعد متول نہ رہے گا۔ اگر
واقف نے ابھی کسی شخص کو متولی و قیم نہ مقرر کیا ہو حتیٰ کہ حاکم
وقت نے قیم مقرر کر کے اس کی تولیت کا حکم جاری کیا تو اب واقف کو
اس متول کو معزول کر کے خود متول ہونے کا حق حاصل نہ ہوگا۔
اور اگر واقف اپنی موت و حیات دونوں میں اپنے وقف کا کسی کو متول
مقرر کرے بھر وفات کے وقت کسی دوسرے شخص کو وصیت کی تو
امام محمد رحمة اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ وصی متول وقف کے تصرفات
میں شریک متصور ہوگا اور واقف کا اپنے وقف کے لیے دو افراد کو متولی

(۶۶) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۲

(۶۷) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۲

بنانا سمجھا جائے گا۔^{۸۷}

جائیاد موقوفہ کی ۱۹۶ - (۱) بلا هدایت صریح یا بلا اجازت عدالت جائیاد کا متولی جائیاد موقوفہ کو فروخت ، رهن تبادلہ یا کسی دیگر طریقے سے منتقل کرنے کا مجاز نہ ہو کا بجز اس کے کہ وقف نامے کے ذریعہ بصراحت اس کا مجاز کیا ہو ۔

(۲) اگر جائیاد موقوفہ سکنی ہو تو وقف نامے میں کسی برعکس ہدایت کی غیر موجودگی میں متولی اس کو زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے کراہیہ بر اور اگر زرعی ہو تو تین سال کے لیے لگان بر دینے کا مجاز ہے ۔ اس سے زیادہ عرصے کے لیے عدالت کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہوئی ۔

جائیاد موقوفہ ماسوے حسب ذیل صورتوں کے منتقل نہیں ہو سکتی :

(۱) جب کہ جائیاد موقوفہ یا اس کے کسی جز کو رهن ، فروخت یا تبادلے کا حق وقف نامے میں موجود ہو ۔

(۲) جب کہ عدالت مجاز نے جائیاد موقوفہ کو رهن ، فروخت یا تبادلہ کرنے کی اجازت دے دی ہو ، جو معقول عذر کی بنا پر مقاصد وقف کے حصول کا بہتر ذریعہ ہو ۔

(۳) جب کہ جائیاد موقوفہ کے زرعی ہونے کی صورت میں تین سال اور غیر زرعی ہونے کی صورت میں ایک سال کے لیے بٹے بر الہائی گئی ہو ، الا یہ کہ وقف نامے میں مذکورہ بالا مدت سے زائد کے لیے بٹے بر الہائی دینے کا اختیار متولی کو صراحتا دیا گیا ہو ۔ عدالت معقول وجہو کی بناء پر مذکورہ بالا مدت سے زائد عرصے کے لیے متولی کو جائیاد موقوفہ بٹے بر الہائی

(۸۷) فتاوی عالمگیری ، (عربی) ، مطبع مجیدی ، کان پور ، جلد ۲ ، صفحہ ۳۳-۳۴

کے لیے اجازت دے سکتی ہے خواہ واقف نے مذکورہ بالا مدت سے زائد مدت کے لیے جائداد موقوفہ کو پٹے پر انہانے کی بصراحت ممانعت ہی کیوں نہ کر دی ہو۔

جاداد موقوفہ میں کمی، بیشی یا تبادلہ وغیرہ سے متعلق شرالط :

اگر اصل وقف میں وقف یہ شرط کرے کہ مجھے اختیار ہوگا کہ موقوفہ هذا کو جب چاہوں فروخت کر کے اس کی قیمت سے دوسری زمین خرید کروں اور وہ اس کی جگہ موقوفہ ہوگی تو یہ شرط صحیح ہوگی لیکن واقف کو ایک مرتبہ تبدیل کے بعد دوبارہ تبدیل کا حق نہ ہوگا مگر یہ کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے بار بار تبدیلی کا اظہار ہوتا ہو۔^{۷۹}

واقف نے استبدال کی شرط رکھی لیکن مبدل (جس جائداد کے واسطے تبادلہ کرنا ہے) کے بارے میں یہ تفصیل نہ بیان کی کہ وہ زمین ہوگی یا مکان یا فلاں فلاں تو اس صورت میں موقوفہ اول کو فروخت کے بعد اس موقوفہ کے ہم جنس سے تبدیلی کا حق رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شہر یا قریبہ کی وضاحت نہ کی ہو تو ہر مقام پر خریدنے کا حق حاصل ہوگا۔^{۸۰}

(۷۹) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۰۔
بعرالائیق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵، صفحات ۲۳۹-۲۴۰۔
ردمختار و درالمختار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھجری، جلد ۳،
صفحة ۳۹۹

احکام الاوقاف للخصاف (ستوف ۲۶۱ هجری)، صفحہ ۱۵۳۔
فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۵، صفحہ ۵۸۔
(۸۰) فتاوی عالمگیری، (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۰۔
ردمختار و درالمختار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھجری، جلد ۳،
صفحة ۳۹۹

احکام الاوقاف للخصاف (ستوف ۲۶۱ هجری)، مطبوعہ مصر، صفحہ ۱۵۳۔
فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۵، صفحہ ۵۹

اگر یہ شرط کی کہ موقوفہ کے بالعوض زمین خریدے گا یا مکان خریدے گا تو صرف اس کے مطابق ہی حق ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ کہا کہ مبدل بصرے میں خرید کرے گا تو یہ اختیار بصرے ہی کے ساتھ مقید ہوگا لیکن اگر بصرے سے زیادہ بہتر اور منفعت کے لحاظ سے زیادہ مفید کسی دوسرے مقام کی زمین ہے تو اچھا یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہو۔^{۸۱}

قیہ میں ہے کہ مکان موقوف کی تبدیلی اس شکل میں درست ہے جب کہ مستبدل مکان اسی محلے میں ہو جس میں موقوف مکان ہے یا ایسے محلے میں ہو کہ جو موقوف مکان سے کسی بہتری کی صورت رکھتا ہو۔ اس کے برعکس درست نہ ہوگا۔^{۸۲}

اگر واقف نے یہ شرط کی کہ مجھے استبدال کا حق ہوگا پھر اس کے لیے وکیل مقرر کیا تو جائز ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو اس استبدال کی وصیت کی تو واقف کے مرنے کے بعد وصی کو استبدال کا حق نہ ہوگا۔ اگر یہ شرط کی کہ واقف کسی دوسرے کے ہم راہ مل کر استبدال کرے گا تو وہ دوسرا انفرادی طور پر تبادلہ نہ کر سکے گا البتہ خود واقف انفرادی طور پر بھی کر سکے گا اور اگر یہ شرط رکھی کہ جو شخص اس وقف کا متولی ہوگا اس کو استبدال کا حق حاصل ہوگا تو یہ شرط صحیح ہوگی اور ہر متولی کو استبدال کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن اگر واقف نے اس طرح کہا ہو کہ فلاں کو ولایت استبدال حاصل ہوگی۔ اب اگر واقف کا انتقال ہو جائے تو اس فلاں کو بعد انتقال واقف استبدال

(۸۱) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۴۰۔

بعزالرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵، صفحہ ۲۲۰۔

ردالمحთار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۳، صفحہ ۳۹۹۔

فتح القدير، ابن همام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۵، صفحہ ۵۹۔

(۸۲) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۴۰۔

بعزالرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵، صفحہ ۲۲۱۔

کا حق نہ ہوگا۔ الا یہ کہ واقف یہ کہہ دے کہ میری زندگی اور وفات کے بعد دونوں حالتوں میں۔^{۸۲}

متولی وقف کو جب تک کہ واقف اس کے حق میں استبدال کی شرط نہ رکھئی استبدال کا حق حاصل نہ ہوگا لیکن اگر قیم (متولی) کے لیے شرط رکھئی اور اپنے لیے کچھ نہ کہی تو خود واقف کو حق حاصل ہوگا۔^{۸۳}

جب کہ وقف و استبدال وقف بعد بیع دونوں صحیح قرار پائے اب اگر موقوفہ کو اتنی کمی کے ساتھ فروخت کیا جو تاجر انہ نظر سے معروف ہے تو بیع درست ہوگی۔ لیکن اگر قیمت میں اتنی کمی کر دی کہ اس حد کی کمی ناقابل تقسیم و ناقابل برداشت ہے تو بیع صحیح نہ ہوگی نیز یہ کہ دراهم و دنانیر (زر نقد) ہی بالعوض فروختگی درست ہوگی اشیاء کا تبادلہ بطور قیمت کے مفتی یہ قول پر درست نہ ہوگا۔^{۸۴}

اگر یہ شرط رکھی کہ موقوفہ کو فروخت کر کے اس سے افضل کو وقف کرے گا تو حاکم کی اجازت پر موقوف ہوگا اگر حاکم مناسب اور صحیح سمجھئے گا تو اجازت دے گا ورنہ نہیں۔

(۸۲) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع محبیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۰۔

بعرالرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵، صفحہ ۲۰۰۔

ردمختار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھجری، جلد ۳، صفحہ ۳۰۰۔

فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۵، صفحہ ۵۹۔

(۸۳) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع محبیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۰۔

بعرالرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵، صفحہ ۲۰۰۔

احکام الاوقاف للخصاص (ستوف ۲۶۱ھجری)، جلد ۵، صفحہ ۲۰۰۔

(۸۴) فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبع محبیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۰۔

بعرالرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ھجری، جلد ۵، صفحہ ۲۰۰۔

ردمختار، ابن عابدین، مطبوعہ مصر، ۱۲۵۶ھجری، جلد ۳، صفحات ۳۰۱۔۳۰۲۔

احکام الاوقاف للخصاص (ستوف ۲۶۱ھجری)، مطبوعہ مصر، ۱۳۴۲ھجری،

صفحہ ۱۵۰۔

فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھجری، جلد ۵ صفحہ ۵۹

[دفعہ ۱۹۶]

اگر واقف اپنے لیے یہ شرط رکھئے کہ مجھے یہ حق ہو گا کہ میں مقروہ وظائف میں کمی یا بیشی کروں یا کسی کو موقوف علیہ ہونے سے خارج یا کسی کو موقوف علیہ میں داخل کروں یا بدل دونوں تو اس کی یہ شرط صحیح ہوگی مگر متولی کو یہ حق جب حاصل ہو گا کہ واقف اس کے حق میں بھی اس شرط کی تصریح کر دے۔^{۸۶} امام خاصف نے احکام الاوقاف میں لکھا ہے کہ مذکورہ عبارت کے ساتھ شرط لگانے سے واقف کو صرف ایک ہی مرتبہ تغیر ، کمی ، بیشی ، استخراج و استبدال وغیرہ کا حق ہو گا اس کے بعد نہیں ۔ مگر جب کہ وہ اپنی زندگی میں بار بار آخر زندگی تک ایسا کرنا چاہتا ہو تو پھر ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے آخر حیات تک بار بار ایسا کرنا سمجھو میں آتا ہو ، اسی طرح کسی دوسرے کے حق میں بھی ایسا ہی کر سکتا ہے۔^{۸۷}

واقف کا تولیت کے لیے اپنی زندگی تک اپنے لیے اور اپنے بعد متولی کے لیے شرط لگانا درست ہو گا لیکن اگر اس طرح شرط کی کہ متولی کو سیری حیات میں مذکورہ امور کا اختیار ہے تو ایسی صورت میں واقف کی موت کے بعد متولی کو ان میں تبدیلی کا حق نہ ہو گا۔^{۸۸}

(۸۶) فتاوی عالمگیری (عربی) ، مطبع مجیدی ، کان پور ، جلد ۲ ، صفحہ ۴۳
بعزالرائق، ابن نعیم ، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵ ، صفحات ۲۲۰-۲۲۲
احکام الاوقاف للخاصف (متوف ۲۶۱ هجری) ، مطبوعہ مصر ، صفحہ ۲۳
صفحہ ۲۳

(۸۷) فتاوی عالمگیری (عربی) ، مطبع مجیدی ، کان پور ، جلد ۲ ، صفحہ ۴۳
بعزالرائق ، ابن نعیم ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۱۱ هجری ، جلد ۵ ، صفحہ ۲۲۲
احکام الاوقاف للخاصف (متوف ۲۶۱ هجری) ، مطبوعہ مصر ، صفحہ ۱۳۲۲ هجری
صفحہ ۲۳ و ۲۵

(۸۸) فتاوی عالمگیری (عربی) ، مطبع مجیدی ، کان پور ، جلد ۲ صفحہ ۴۳
بعزالرائق ، ابن نعیم ، مطبوعہ مصر ، ۱۳۱۱ هجری ، جلد ۵ ، صفحہ ۴۳
احکام الاوقاف للخاصف (متوف ۲۶۱ هجری) ، مطبوعہ مصر ، صفحہ ۱۳۲۲ هجری
صفحہ ۲۵

وقف

۱۱۳۵

مذکورہ متولی کو مذکورہ صورتوں میں کسی دوسرے شخص کو
یہ حق عطا کرنے کا یا ان امور کی وصیت کا حق حاصل نہ ہوگا۔^{۸۹}

اگر یہ شرط کی کہ میری یہ زمین خدا کے لیے وقف ہے، ہمیشہ کے
لیے اس شرط کے ساتھ کہ اس کی آمدنی (بیداوار) میں جہاں چاہوں صرف
کروں تو وقف و شرط صحیح ہوگی اور واقف کو حق ہوگا کہ وہ جہاں
چاہے صرف کرے پس اگر اول مرتبہ اس نے مسَاکِین یا حج یا کسی معین
انسان پر اس کی آمدنی کو صرف کیا تو اس کے بعد پھر کسی دوسرے محل
پر صرف کرنا درست نہ ہوگا، اسی طرح یہ کہا کہ میں نے فلاں پر
وقف کیا یا فلاں کو دیا، لیکن اگر اپنی ذات پر صرف کیا تو مشہور فقیہہ
ہلال کے بقول وقف باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اپنی شرط ان الفاظ
سے اپنی اولاد کے لیے رکھی تو بھی جائز ہوگا۔ خود واقف اس آمدنی سے
کچھ اپنی ذات پر صرف نہ کر سکے گا۔^{۹۰}

متذکرہ بالا صورت میں اگر صرف کرنے سے قبل متولی کا انتقال ہوگیا
تو آمدنی فقراء پر تقسیم کی جایا کرے گی۔^{۹۱}

ایک شخص نے اپنی زمین اس شرط کے ساتھ وقف کی کہ اس زمین کا
متولی جس شخص کو چاہے اس کی آمدنی دے تو متولی کو حق حاصل ہوگا
کہ وہ اس کی آمدنی فقراء یا اغنياء جن پر چاہئے صرف کرے۔ اور اگر مرض

(۸۹) فتاویٰ عالیگیری (عربی)، مطبع محمدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۰

بعرالرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵، صفحہ ۲۲۲

فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶، ۱۳۵۶ هجری، جلد ۵، صفحہ ۵۹

(۹۰) فتاویٰ عالیگیری (عربی)، مطبع محمدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۱

بعرالرائق، ابن نجیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵، صفحہ ۲۲۲

احکام الوقف هلال ابن یعنی الرائی (متوفی ۲۲۵ هجری)، مطبوعہ مصر

صفحات ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳ اور ۳۹۴

(۹۱) فتاویٰ عالیگیری (عربی)، مطبع محمدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۱

کی حالت میں وقف کرتے ہوئے یہ کہا کہ فلاں شخص کو یہ حق ہوگا کہ سوقوفہ کی آمدنی جس شخص پر چاہے صرف کرے اور وصی نے میت (واقف) کی اولاد پر صرف کیا تو وصی کا یہ فعل درست نہ ہوگا یہ شرط باطل ہوگا اور وقف فقراء کے حق میں متصور ہوگا۔^{۹۲}

اگر واقف یہ شرط کرے کہ موقوف علیہ جب تک فلاں مذہب پر ہے اس کو وقف ہے دیا جائے اور اگر وہ امن مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرے تو مصرف سے خارج تصور کیا جائے تو یہ شرط قابل عمل ہوگی مثلاً کہیے کہ جب تک موقوف علیہ اہل ست کے طریقے پر ہے داخل مصرف ہوگا اور اگر رافضی یا خارجی مذہب یا کسی دیگر مذہب کی طرف منتقل ہوا تو مصرف سے خارج کیا جائے۔^{۹۳}

اگر واقف نے یہ شرط کی جن قرابت داروں پر میں نے وقف کیا ہے ان میں جو بھی بغداد جا کر (یعنی کسی دوسرے مقام پر اقامت کرے) وہ مصرف سے خارج ہوگا یہ شرط معتبر اور صحیح ہوگی لیکن جب موقوف علیہ پھر واقف کے شہر میں واپس آکر اقامت کرے گا مصرف میں داخل ہو جائے گا۔^{۹۴}

اگر واقف نے شرط کی کہ متولی موقوفہ کو اجارے پر نہ دے سکے گا۔ اگر اس کے بعد متولی نے ایسا کیا تو اجارہ باطل ہوگا اسی طرح اگر یہ شرط کی کہ زمین میں جو درخت پہل دار ہیں ان میں معاملت نہ کرے گا یا شرط کی کہ اگر متولی موقوفہ کو اجارے پر دے تو تولیت سے خارج ہوگا تو ان صورتوں میں شرط کے خلاف کرنے پر متولی تولیت سے خارج کیا

(۹۲) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۲۱

(۹۳) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۲۲

(۹۴) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبع مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۲۴

جائے گا۔ حاکم کو یہ حق ہو گا کہ کسی دوسرے این شخص کو متول مقرر کر دے۔ اسی طرح اگر یہ شرط کی کہ اہل وقف میں سے جو شخص ایسا کوئی عمل کرے جس سے وقف کا ابطال ہوتا ہو تو وہ وقف سے خارج ہو گا تو یہ شرط معتبر ہو گی اور ایسا عمل کرنے پر موقوف علیہم سے خارج متصور ہو گا۔ اگر بعض موقوف علیہم کہیں کہ اس نے اپنے عمل سے ابطال وقف پیش نظر رکھا تھا اور بعض کہیں کہ نہیں تو حاکم اس پر غور کرے گا اگر واقعی صحت وقف مقصود تھا تو یہ لوگ مصرف میں داخل رہیں گے ورنہ حاکم ان کو وقف سے خارج کر دے گا۔^{۹۵}

واقف نے پہلے یہ شرط رکھی کہ جائزداد موقوفہ فروخت نہ کی جائے پھر یہ کہا یا لکھا کہ یہ اس کے استبدال کا حق ہو گا تو اس کو استبدال کا حق حاصل ہو گا اسی طرح اگر اولاداً یہ کہا کہ استبدال کا حق ہو گا اور بعد یہ کہ نہیں ہو گا تو بعد والی شرط معتبر ہو گی اور پہلی شرط کے لیے ناسخ تصور کی جائے گی۔^{۹۶}

اگر وقف بوقت وقف یہ شرط کرے کہ مجھے تین یوم کا اختیار ہے یعنی خیار شرط رکھی تو امام ابویوسف کے ایک قول میں وقف و شرط دونوں صحیح ہوں گے اور دوسرے قول میں وقف صحیح ہو گا اور شرط باطل ہو گی۔ امام محمدؐ کے نزدیک وقف و شرط دونوں باطل ہوں گے۔^{۹۷}

امام سرخسی نے اپنی کتاب المبسوط میں لکھا ہے کہ جب کوئی

(۹۵) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبع مجددی کان ہو، جلد ۲، صفحہ ۳۳۲

احکام الاوقاف للخصاف (متوفی ۲۶۱ هجری)، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ هجری

صفحہ ۲۲۰

(۹۶) بحر الرائق، ابن خبیم، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۱ هجری، جلد ۵، صفحہ ۲۸۲

احکام الاوقاف للخصاف (متوفی ۲۶۱ هجری)، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۲ هجری

صفحہ ۲۳۲

(۹۷) فتح القدير، ابن هام، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ هجری، جلد ۵، صفحہ ۵۹

واقف وقف میں یہ شرط کرے کہ اس موقوفہ زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کیا جا سکے گا اور وہ جب چاہے گا ایسا کرے گا، تو امام ابویوسف کے نزدیک یہ جائز ہوگا۔ اور امام محمد کے نزدیک اور مشائخ بصیرہ کے قول کے مطابق وقف جائز ہوگا لیکن شرط باطل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شرط سے وقف کا زوال لازم نہیں آتا اور ابتدیت کے معنی وقف سے زائل نہیں ہوتے لہذا وقف تمام ہو جائے گا اور تبدیلی کی شرط فاسد شرطوں میں شہار ہوگی اور باطل قرار پائے گی۔^{۹۸}

مصری قانون :

قانون تنظیم اوقاف مجریہ، ۱۹۷۶ع مصر کے تحت موقوفہ جائداد کی تبدیلی اور تعمیر وغیرہ سے متعلق جو قانون راجع ہے اس کی متعلقہ دفاتر ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:

۱۴- ذی عزت اصحاب کے مطالبہ پر محکمہ (شرعیہ) ان اموال سے جو محکمہ کے خزانے میں وقف کے مبادلے سے جمع ہوگا جائداد خرید کرے گا جو اصل موقوفہ کے قائم مقام ہوگی، اور اس کو یہ بھی حق ہوگا کہ جدید آمدنی کے ذرائع میں اس مالیہ کو صرف کرنے کی اجازت دے۔ اور یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ تبادله شدہ مال کو کسی ایسے مصراف میں لائے یا اس کی اجازت دے جو اس مال میں اضافہ کا ذریعہ ہو سکے خواہ وہ کوئی بھی ایسا ذریعہ ہو جو شرعاً جائز ہو۔

جس طرح اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی وقف کی تعمیر میں صرف کرنے کی اجازت دے اور پھر اس وقف سے اس کو واپس نہ لینے کی اور جب یہ اموال ایسے ہوئے کہ نہ تو ان سے کسی قسم کے اضافہ کی امید ہوئی اور نہ تعمیر میں صرف کرنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ اموال

(۹۸) البسطو، امام سرخسی، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۳ھجری، جلد ۱۲، صفحہ ۲۴

ایک آمد کی طرح تصور کیجیے جائیں گے اور ان کو ان کے مصرف پر صرف کیا جائے گا۔

۱۵- لیکن اگر صاحبان حق کی طرف سے سابقہ دفعہ کے تحت کوئی مطالبہ کیا گیا، ایسے اموال کے متعلق جو کسی وقف کے مقابلہ میں حاصل شدہ تھے اور محاکم شرعیہ کے خزانے میں جمع تھے، اور اس پر نفاذ قانون هذا سے ایک سال مدت گزر گئی تو اب محکمہ تصرفات حکومت مصر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وزیر عدل کے مطالبے پر وہ ان اموال سے منقول یا غیر منقول جائداد کو خرید لے یا ان کے خریدنے کی اجازت دے دے۔ اس پر دفعہ (۲) کے فقرہ نمبر ۳ اور ۴ کی رو سے عمل کیا جائے گا۔

اور یہ کہ جو کچھ بھی خریدا جائے گا یا بنایا جائے گا دیگر اوقاف کی طرح ان میں شامل مانا جائے گا اور استحقاق لحاظ سے ان میں بھی وہی استحقاقات پیدا ہوں گے جو اس قسم کے دیگر اوقاف میں ہوں گے۔

اور محکمہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان کی نگرانی کے لیے نگران و سہتمم مقرر کرے تاکہ وہ ان کی آمدی پر نظر رکھیں اور اس کی وصولی و حفاظت کا کام انجام دیں۔

۸- جب اشیاء وقف میں سے کل یا بعض حصہ خراب یا ضائع ہو جائے اور حالت یہ ہو کہ نہ تو ان کی تعییر ممکن ہو اور نہ تبدیلی ممکن ہو جو کہ مستحقین وقف کے حصہ کے مطابق ان کے حق میں مفید ہو سکے اور مستحقین کا اس وقف کی آمدی سے کچھ عرصہ کے لیے محروم ہو جانا ان کے حق میں کچھ زیادہ مضر بھی نہ ثابت ہوتا ہو۔ تو اب وقف کو ختم تصور کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ کسی خاص مستحق کے حصہ آمدی سے ختم ہونے کے موقعہ پر اس حصہ میں مستحبی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ اختتام محکمہ کی قرارداد حسب مطالبہ مستحقین وقف یا ذی وقار

اشخاص کے قرار پائے گا۔ اور جتنے حصہ میں وقف باطل کیا گیا ہو گا وہ واقف کی ملکیت قرار پائے گا اگر وہ زندہ ہو۔ ورنہ محکمہ کے حکم سے جو مستحقین وقف موجود ہوں گے ان کی ملکیت ہو گا۔

۵۴ - نگران وقف ہر سال ۲۵ ف صد کے حساب سے وقف کی آمدنی سے وقف کی تعمیر کے لیے محفوظ رکھ کر مابقی آمدنی محکمہ کے خزانے میں داخل کر دیا کرے گا۔ اور تعمیر کے وقت تک اس کو یہ اجازت ہو گی اس پس ماندہ سے کسی آمدنی کا ذریعہ اختیار کرے لیکن صرف تعمیر اور محفوظ رقم کا خرچ کرنا بغیر محکمہ کی اجازت کے جائز نہ ہو گا۔

لیکن زرعی اراضی کی خالص آمدنی سے ناظر کے لیے کسی حصہ کا پس ماندہ صرف کرنا اس وقت تک جائز نہ ہو گا جب تک کہ حاکم وقت اس کے لیے محفوظ صرف کرنے کی اجازت نہ دے۔ جو اس زمین کی اصلاح یا اضافہ یا تجدید حدود یا آلات زراعت کے مہیا کرنے میں صرف ہو گی، یا ان بنیادوں پر صرف کی جائے گی جو وقف میں مشروط ہوں گی جب کہ معززین قوم ان کا مطالبہ کریں۔

اور ناظر بلکہ مستحقین میں سے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ جب مصلحت سمجھئے اس آمدنی کی رقم کو پس انداز کرنے کی ضرورت کو یا اس رقم کی مقدار میں اصلاح کو محکمہ میں اس لیے پیش کرے کہ محکمہ اس مصلحت کے تحت ان کی منشاء کے مطابق پس اندازی کا طریقہ منسون یا پیش کردہ تعديل رقم کا تقرر کرے۔

یہ احکام اس وقت قابل عمل ہوں گے جب کہ واقف نے اس کے مخالف کوئی شرط نہ لکائی ہو۔

۵۵ - دفعہ سابقہ کی متابعت کرتے ہوئے جب کہ وقف کی ذات کلی یا جزوی طور پر تعمیر کی مقتضی ہو اور اس تعمیر پر سال کی ۱ / ۵ آمدنی

سے زائد صرف ہوتا ہو اور مستحقین وقف اپنے حقوق پر تعییر کو ترجیح دینے پر راضی نہ ہوں، خواہ واقف نے تعمیر وقف کی شرط مقدم کرنے کی وضاحت کی ہو یا نہ کی ہو، تو متول وقف پر لازم ہوگا کہ وہ اس معاملے کو محکمہ شرعیہ میں پیش کرے تاکہ محکمہ مستحقین کے اقوال کو ناقابل سماحت قرار دے کر یہ طے کر سکے کہ آمدنی کا ایک حصہ اس کی تعمیر پر صرف کیا جائے۔ یا اتنا حصہ محفوظ رکھا جائے جو بوقت ضرورت تعمیر کے کام میں لایا جا سکے، یا اس سے احتیاطی طور پر وہ امور اخراج دے جا سکیں جو سابقہ دفعہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور ان ہی احکام کے تابع وہ صورت بھی ہے جب کہ واقف کی شرط کے مطابق وقف کی زیادتی کے لیے وقف میں کوئی اضافہ کیا جانا ہو۔

اور دفعہ ۱۸ کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے محکمہ کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ بعض اشیاء وقف کو تعییر وقف کے لیے فروخت کر دے اور پھر اس کی آمدنی سے اس صرف کو واپس لیتے کا کوئی سوال نہ پیدا ہو سکے، جب بھی مصلحت کا یہ تقاضا ہو۔^{۹۹}

مصری قانون کی بنیاد:

مندرجہ بالا دفعات میں دفعات ۱۲ اور ۱۵ میں تبادلے کے ذریعے آمدنی کا حصول حقیقی مذہب کی بنیاد پر قائم ہے لیکن ان دفعات کے بعض اجزاء مصالح عامہ پر مبنی ہیں البتہ دفعہ ۱۸ حقیقی، مالک اور حنبلی فقه سے مانخوذ ہے جب کہ دفعات ۱۲ اور ۱۵ مالک فقه سے مانخوذ ہیں۔

۱۹۷۔ وقف نامہ میں کسی برعکس هدایت کی عدم موجودگی میں ہر ایک متول بحالت مرض الموت اپنا جالشین نامزد کرنے کا مجاز متصور کیا جائے کا مگر لازم ہے کہ کوئی متول بحالت صحت اپنی زندگی میں عہدہ تولیت کسی دوسرے کو منتقل کرنے کا مجاز نہیں۔

جانشین مقرر
کرنے کا اختیار

تشریح

یعنی اگر وقف نامہ میں واقف کو متولی مقرر کرنے کے اختیارات کی کوئی وضاحت موجود نہ ہو تو ایسا متولی اپنی صحت کی حالت میں کسی دوسرے شخص کو مستقل متولی مقرر کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ البتہ کسی دوسرے شخص سے اپنی زندگی میں بطور وکالت کے کام لے سکتا ہے چنانچہ متولی وقت کے وکیل مقرر کرنے میں مرض موت کی شرط نہیں ہے۔ اور صحت کی حالت میں متولی کو اپنے انتظامی امور میں کسی دوسرے شخص کو وکیل بنانا جائز ہوگا۔ اور یہ بھی جائز ہوگا کہ متول اپنی تولیت کے معاوضہ میں سے کچھ حصہ اپنے مقرر کردہ وکیل کو وکالت کے فرائض انجام دینے کے عوض مقرر کر دے اور یہ بھی جائز ہوگا کہ ایک وکیل کو معزول کر کے اس کی جگہ دوسرے کو وکیل مقرر کر دے، لیکن یہ وکیل متولی کی موت پر یا دیوانگی پر معزول ہو جائے گا اور اب متولی مقرر کرنے کا اختیار حاکم کو ہوگا۔ ۱۰۰۔

قرضہ کا اختیار

۱۹۸۔ تاویلیکہ وقف نامہ میں صریح اجازت موجود نہ ہو، کوئی متول کسی ضرورت کے لیے بھی وقف کے متعلق بغیر اجازت عدالت قرضہ لینے کا مجاز نہیں لیکن اگر اشد ضرورت کی وجہ سے قرضہ لیا ہو تو ضرورت ثابت ہونے پر عدالت قرضہ جائز ہونے کے متعلق بعد میں بھی منظوری دینے کی مجاز ہوگی۔

تشریح

یہاں یہ سمجھو لینا ضروری ہے کہ وقف کے باب میں جس قرضہ کے لینے کی متول کو اجازت نہیں دی گئی ہے اس کو قبہا نے عربی میں "استدانہ"

(۱۰۰) رداد المختار، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۸ھ/جولائی، جلد ۳، صفحہ ۲۵۱

فتح القدير، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۶ھ/جولائی، جلد ۵، صفحہ ۶۹

کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور اب کی یہ تفسیر کی ہے کہ وقف کی آمدنی میں سے جب متولی کے پاس کچھ موجود نہ ہو اور کسی دوسرے شخص سے لیکر ایک معینہ مدت کے وعدے پر صرف کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس حالت میں حاکم سے اجازت کے بغیر لینا جائز نہ ہو گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ متولی کے پاس وقف کی آمدنی موجود ہے۔ اس کے باوجود کسی عذر کی بنا پر اپنی ذاتی رقم سے صرف بکر دینا ہے، اس خیال کے تحت کہ بعد میں وقف کی آمدنی سے یہ رقم وصول کر لے گا۔ اس صورت میں حاکم کی اجازت لینا ضروری نہیں بلکہ اپنی ذات سے صرف کرنے کے بعد وقف کی آمدنی سے اپنی مطلوبہ رقم وصول کر سکتا ہے۔ بعض فقهاء نے اس موقعہ پر یہ شرط رکھی ہے کہ اگر متوفی نے اپنی ذاتی رقم بطور قرض کے صرف کرنے کا اظہار کیا تھا تو اس کو وقف کی آمدنی سے واپس لینے کا حق حاصل ہو گا۔ اور اگر اس کا اظہار نہ کیا تو واپس لینے کا حق حاصل نہ ہو گا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ ہر حالت میں واپس لینے کا حق حاصل ہو گا۔ ۱۰۱

معاوضہ متولی
۱۹۹ - (۱) واقف کے لیے جائز ہے کہ وہ متولی اور اس کے جانشینوں کو مقررہ معاوضہ لینے کا مجاز کر دے۔

(۲) لیکن اگر متولی کے لیے وقف نامہ میں کوئی معاوضہ مقرر کیا گیا ہو تو بیز پہلے متولی کے اور کوئی متولی ما بعد بلا حکم عدالت اس کی وصول یا ان کا مستحق نہ ہو گا بشرطیکہ وقف نامہ کی عبارت سے واقف کا منشاء اس کے خلاف نہ ظاہر ہوتا ہو۔

(۱۰۱) ردمختار، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۸ھجری، جلد ۳، صفحہ ۳۶۰
درالمستقی بر حاشیہ مجمع الابہر، مطبوعہ مصر، ۱۳۲۷ھجری، جلد ۱،
صفحہ ۳۹
فتاوی عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مجیدی، کان پور، جلد ۲، صفحہ ۳۳۷

(۲) جس مقرہ معاوضہ کے لیئے کا واقف نے بذریعہ وقف نامہ متولی کو مجاز کر دیا ہو وہ اسی قدر وقف کی آمدنی سے وصول کرنے کا مستحق ہوگا لیکن اس وصول یابی کی وجہ سے اس کو جائزداد موقوفہ میں ایسا حق حاصل نہ ہوگا کہ جائزداد موقوفہ اس کے خلاف کسی ذگری میں فرق یا نیلام کرانی جا سکے۔

(۳) اگر وقف نامے میں کوئی معاوضہ مقرر نہ کیا گیا ہو تو متولی کی درخواست پر عدالت اس کو سقرا کر کے وصول کرنے کا مجاز کر سکتی ہے۔

تشریح

جس متولی کے لیے اس کی خدمات کا معاوضہ مقرر کیا گیا ہو اگر وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جس کے بعد وہ عملاء و قولاء کسی طرح وقف کے مصالح کی انجام دھی نہ کر سکے تو اس کا مقرہ معاوضہ ساقط ہوگا۔ لیکن اگر عملاء انجام دینے سے سعدور ہو اور قولاء اس پر قدرت رکھتا ہو۔ مثلاً دوسرے لوگوں سے ہدایت کے ذریعہ کام لے سکتا ہو تو ایسی صورت میں معاوضہ سے محروم نہ کیا جائے گا۔

نیز حاکم وقت کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ مذکورہ متولی کے ساتھ اگر وقف کے لیے ضروری ہو تو اپنی طرف سے مزید متولی کو شریک کر دے اور وقف کی آمدنی سے اول متولی کے معاوضہ کے ماسوا معاوضہ مقرر کر دے، لیکن حاکم یہ نہ کر سکے گا کہ واقف نے متولی کے لیے جو معاوضہ مقرر کیا ہو اگر اس کی مقدار زیادہ ہو تو اس میں کمی کر سکے۔ اگر واقف نے کسی متولی کے لیے یہ کمیہ کر معاوضہ مقرر کیا ہے کہ یہ معاوضہ متولی کو ہر حالت میں دیا جائے گا خواہ حاکم نے کسی وجہ کی بنا پر اس کو تولیت سے علیحدہ کر دیا ہو، اور متولی کے بعد اس کی اولاد در اولاد کو ملے گا تو یہ شرط صحیح اور قابل عمل ہو گی۔^{۱۰۲}

(۱۰۲) فتاویٰ عالمگیری (عربی)، مطبوعہ مجیدی، کانپور، ۱۹۶۹، هجری، جلد ۴

وقف

- متولی کے تصرفات ۲۰۰ - (۱) متولی کے لیے اپسے تمام تصرفات جائز ہوں گے جو قیام وقف کی مصلحتوں پر مبنی ہوں اور واقف کی شرعی شرطوں کے مخالف نہ ہوں ۔
- (۲) اگر کوئی شخص بلا کسی استحقاق و اختیار کے جانداد موقوفہ کا انتظام کرنے لگے تو وہ از روئے قانون "امین" (فرنسی) متصور ہو گا اور وقف کے سلسلے میں اپنے تمام افعال کا ذمہ دار اور جواب دے گا ۔

تشریح

متولی کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وقف کی آمدنی سے اس کی تعمیرات کی اصلاح کرے، اور اگر وقف پر دین کا بار ہو تو حاکم کی اجازت سے اس کی ادائیگی کی کوشش کرے بشرطیکہ وقف کی آمدنی اس صرف کے لیے موجود نہ ہو، خواہ تعمیرات کی اصلاح کی شرط واقف نے وقف نامہ میں رکھی ہو یا نہ رکھی ہو۔ نیز متولی کے لیے یہ امر بھی ضروری ہے کہ اسکے تمام تصرفات میں وقف کی بہتری کا جذبہ دیوانگی کی حد تک موجود ہو، اس کے لیے یہ مناسب نہ ہو گا کہ جس امر کا اس کو مکلف کیا گیا ہے اس میں کوتاہی سے کام لے ۔

سوالے مستحبات کے، متولی پر واجب ہے کہ وہ واقف کی شرائط کا لحاظ رکھیں۔ موقوفہ کی دوکانیں، مکانات، زمین کو کرانٹ پر دینے کا حق واقف کی مقرر کردہ شرائط کے بموجب متولی کو حاصل ہو گا۔ موقوف علیہم اس تصرف کا حق نہیں رکھیں گے، اور اس کرانٹ کی آمدنی پر قبضہ کرنے کا حق وقف کے متولی ہی کو حاصل ہو گا۔ موقوف علیہم اس انہیں کر سکیں گے۔ اگر اجارہ پر دینے کے بعد متولی معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا متولی مقرر کیا گیا تو متولی ثانی کو آمدنی کرایہ کے وصول کرنے کا حق

(۱۰۳) اسعاف، مطبوعہ مصر، بولاق (۱۹۹۷ء)، صفحہ ۵۶۶
ردمختار، مطبوعہ مصر، بولاق (۱۹۹۹ء)، صفحہ ۵۶۶

حاصل ہو گا۔ ۱۰۳ مตول کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ وقف کی زمین میں بذات خود رزاعت کا عمل اختیار کرے اور اس کی آمدنی سے رزاعت کے آلات و دیگر لوازمات خرید کرے اور کھبٹی باڑی کرنے والے مزدوروں کو ان کی اجرت ادا کرے۔ اس کو یہ بھی حق ہو گا کہ اگر زمین کی آباد کاری میں کاشتکاروں کے بسانے کی ضرورت ہے تاکہ وقف کی زمین کی آمدنی میں ترق ہو، تو اس میں ان کو آباد کر دے۔ ۱۰۵

اسی طرح اگر موقوفہ زمین میں باغ ہے تو متول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود شجر کاری کرے یا دوسرے لوگوں کو مدت معینہ پر اس شرط کے ساتھ دیدے کہ جو پہل پیدا ہون گے اس کا نصف حصہ عامل یا عاملوں کا ہو گا اور باقی حصہ وقف کا ہو گا۔ ۱۰۶

اگر کوئی موقوفہ زمین شہر سے اتنی قریب ہے کہ اس میں مکانات تعمیر کیے جائیں تو لوگ ان میں سکونت کی طرف پورے طور پر راغب ہوں گے، اوز رزاعت کی نسبت یہ وقف کی آمدنی زیادہ ہو گی تو متول کو یہ حق ہے کہ مکانات تعمیر کر دے، لیکن مختلف صورت میں یہ تصرف جائز نہ ہو گا۔ ۱۰۷

متولی کو یہ بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اجارے پر دی ہوئی موقوفہ کے اجارے کو اگر وقف کے لیے منید ہو تو فسخ کر دے خواہ خود اس

(۱۰۳) الردالمعتار و دررختار، مطبوعہ مصر، بولاق (۱۹۹۱)، جلد ۳ صفحہ ۵۵۲

اسعاف، مطبوعہ بولاق، ۱۹۹۱ھ/۱۹۷۶ء، صفحہ ۵۶

تفییع الحامدیہ، مطبوعہ مصر، ۱۹۰۰ھ/۱۹۷۸ء، صفحہ ۲۲۸-۲۳۱

(۱۰۴) اسعاف محولہ بالا، صفحہ ۵۸

عالیگیری، مطبوعہ مصر، ۱۹۸۲ھ/۱۹۶۳ء، صفحہ ۳۳۱

(۱۰۵) ردالمعتار، مطبوعہ مصر، ۱۹۹۹ھ/۱۹۷۸ء، صفحہ ۵۹۳ تا آخر

تفییع الحامدیہ مطبوعہ مصر محولہ بالا، صفحہ ۱۷۳

اسعاف، محولہ بالا، صفحہ ۷۷

(۱۰۶) عالیگیری، محولہ بالا، صفحہ ۳۳۲

متولی نے اجارے پر دیا ہو یا اس سے قبل کسی دوسرے متولی نے دیا ہو - اجارے کی مدت قریب الختم ہو یا نہ ہو ، اور اگر وقف کا مکان کسی تعمیر کا محتاج ہو ، لیکن تعمیر کے لیے وقف میں پس انہے رقم نہ ہو تو تو حاکم کی اجازت سے قرض لے کر تعمیر میں صرف کر دے۔ (ابن ضمن میں راجعِ الوقت ملکی قانون کا لحاظ بھی ضروری ہو گا)

اگر مسجد کے اوقاف سے مسجد کی تعمیر و دیگر ضروریات ، موذن و امام وغیرہ ، پر صرف کرنے کے بعد مسجد کی مزید آمدنی باق ہو اور متولی نے مسجد کی بہتری اور مصلحت کے لیے باجازت حاکم کوئی جائزداد خرید لی تاکہ اس سے مسجد کے لیے آمدنی میں اضافہ ہو تو متولی کا یہ عمل جائز ہو گا ، لیکن یہ جائزداد موقوفہ نہیں سمجھی جائے گی ، اس لیے ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے مسجد کے دیگر شرعی مقاصد میں صرف کرنا جائز ہو گا ، اسی طرح اگر متولی نے وقف کی آمدنی سے کوئی جائزداد خریدی تھی اور پھر اس کو فروخت کر دیا تھا ۔ اب اگر دوبارہ مشتری سے اسی قیمت پر خریدنا چاہے تو متولی ایسا کر سکے گا ، اور اگر یہ متولی معزول کر دیا گیا ہو اور دوسرا متولی اس کے قائم مقام ہوا ہو تو اس کے لیے بھی مذکورہ تصرف مذکورہ شرطوں کے ساتھ جائز ہو۔^{۱۰۸}

اگر وقف علی الفقراء یا وقف مسجد الجامع کی آمدنی متولی کے پاس ان وقوف کی ضرورت سے زائد جمع ہو اور اسلام پر کوئی وقت ایسا آپڑے جس میں مال کی ضرورت ہو مثلاً دشمنان اسلام سے مقابلہ وغیرہ تو حاکم

(۱۰۸) رد المحتار مطبوعہ مصر ، ۱۲۹۹ھ/۱۸۷۶ء صفحات ۵۹۳-۵۸۰

عالگیری ، مطبوعہ مصر ، ۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵ء صفحہ ۳۳۸

(۱۰۹) اسعاف فی احکام الاوقاف م Gould بالا ، صفحہ ۲۷۷

رد المحتار بح در غنار م Gould بالا ، صفحہ ۵۹۲-۵۶۲

عالگیری ، م Gould بالا ، صفحہ ۳۲۳

وقت کو یہ اجازت ہو گی کہ اس آمدنی سے قرض لے کر اس محل پر صرف کر دے اور یہ حکومت پر وقف کا دین ہو گا جو اس حالت کے دور ہو جانے کے بعد ادا کرنا واجب ہو گا، اور اگر خیرات و صدقات پر وقف کیا گیا ہو اور اس کی آمدنی اس کے موقوف علیہ ہے فاضل جمع ہو نیز اس کی ضرورت کا وقف کی تعمیر کے لیے خطرہ نہ محسوس ہوتا ہو یا ضرورت ہو لیکن تاخیر کر دینا ممکن ہو، کم از کم ایک سال تک کے لیے، متولی کے لیے جائز ہو گا کہ کسی ایسے امر خیر پر جو اس کے نزدیک اس موقعہ پر صرف نہ کرنے سے ضائع ہو جائے گا یا اس خیر کا حصہ ناممکن ہو جائے گا مثلاً دیگر فقراء کی ایک جماعت اس کی محتاج ہو یا کسی مسلمان قیدی کا دشمن کی قید سے چھڑانا ہے یا کسی غازی کی اعانت ہے، تو متولی کو اس کا بھی حق حاصل ہے، البتہ ایسے وقف کی آمدنی کا مسجد کی تعمیر یا مسافر خانہ یا پانی کے لیے کنوں کھودنے پر صرف کرنا جائز نہ ہو گا۔ یعنی جن امور میں تملیک و تملک کی صلاحیت نہ ہو وہاں صرف کرنا درست نہ ہو گا۔ ۱۱۰

ناجائز تصرفات :

متولی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وقف کی زمین کو اپنی ذات کے لیے اجارے پر لے لے یا اس میں سکونت اختیار کرے اگرچہ کراہی وہی ادا کرے جو دوسرے لوگ ادا کرنے پر تیار ہوں، مگر یہ کہ حاکم کے سامنے اس معاملہ کو پیش کر کے اجازت حاصل کر لی ہو۔ یہی حکم متولی کے اصول و فروع کو اجارے پر دینے یا سکونت اختیار کرنے کی حالت میں برقرار رہے گا، نیز متولی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ایک سال کی آمدنی دوسرے سال میں صرف کرے الیہ کہ واقف نے ایسی شرط کی ہو،

(۱۱۰) اسعاف عولہ بالا صفحہ ۳۹۶
عالیگیری مولہ بالا، صفحہ ۳۳۴

اور نہ یہ جائز ہے کہ واقف کے زمانے کی وہ تعمیرات جن سے وقف کی آمدی ہوئی ہو، آن میں کوئی ایسی زیاکتی کرے جو واقف کے زمانے کے حالات سے مختلف ہو۔ البته اگر واقف نے اس کی وضاحت کر دی ہو، یا مستحقین وقف ایسا کرنے پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوں تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔^{۱۱۱}

اگر مسجد یا مدرسہ پر وقف کیا گیا ہو اور واقف نے متولی کے لیے یہ شرط رکھی ہو کہ وہ جدید وظیفہ مقرر کر سکے گا، تو ایسی صورت میں حاکم کی اجازت کے بغیر متولی یہ عمل کر سکے گا، بصورت دیگر جائز نہ ہوگا بلکہ اب حاکم کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور حاکم بھی ایسا اس وقت کر سکے گا جب کہ ضرورت اور مصلحت کا تقاضہ ہو۔^{۱۱۲}

اگر متولی کوئی ایسا امر بیان کرے جس کے کرنے کی اس کو اجازت نہ تھی۔ اگر یہ امر ایسا ہے جس سے کسی دوسرے کی ذات پر ڈنڈ لازم آتا ہے تو متولی کے بیان کی تصدیق نہ کی جائے گی، اور اگر یہ امر ایسا ہے جس سے اپنی ذات سے ڈنڈ کو دفع کرنا مقصود ہے تو متولی کا بیان قابل قبول ہوگا اس بنا پر متولی کا وقف پر دین یا کسی عین (شئی) کا اقرار صحیح نہ ہوگا۔^{۱۱۳}

متولی کو زمین موقوفہ کی آمدی غیر امین کے پاس امانت رکھے دینے کا حق حاصل نہیں اور نہ اس کو قرض دیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ اس آمدی کے حق میں حفاظت کا سبب ہو۔ اگر حاکم نے متولی کو کسی امر

(۱۱۱) ردائمعتار مخولہ بالا صفحہ ۵۲۰، ۵۲۸، ۵۴۷، ۵۹۳

عالیگیری، مخولہ بالا صفحہ ۳۳۶

حقةٌ للعامديه، صفحہ ۲۱۹

(۱۱۲) ردائمعتار مخولہ بالا صفحہ ۵۳۳، ۵۲۲

(۱۱۳) ردائمعتار مع درختار، مخولہ بالا، صفحہ ۶۰۱

نقیب العامدیه مخولہ بالا، صفحہ ۲۱۲ مع صفحہ مابعد

کے انجام دینے کا حکم دیا ہو اور متولی نے وہ کام کر دیا ہو اس کے بعد ظاہر ہوا ہو کہ یہ امر شرعاً ذرست نہ تھا تو اس صورت میں متولی اس کا خامنہ نہ ہوگا۔ ۱۱۳

وقف کی آمدنی کا مستحقاق :

وقف کی آمدنی میں مستحقین کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آمدنی یا پیداوار وجود میں آجائے۔ کہیتی میں جب کہ اناج بوبیا گیا ہو اس وقت حق پیدا ہوگا جب کہ اناج قابل قیمت قرار پا جائے اور درختوں کے پہلوں میں اس وقت جب کہ پہلی ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ کسی آفت کا خطرہ نہ رہے اور اگر وقف کا مکان ہے یا زراعت کے لئے زمین اجارے پر دی گئی ہے جس کی آمدنی قسط وار ہوئی ہے تو اس وقت حق پیدا ہوگا جب کہ هر قسط کی ادائیگی کا وقت آجائے گا۔ ۱۱۴

جو بچہ آمدنی کے وجود سے قبل رحم مادر میں قرار پا جائے گا وہ اس آمدنی کا حقدار مقصود ہوگا۔ چنانچہ اگر یہ بچہ آمدنی یا قسط کے وجود سے چھ ماہ کے اندر پیدا ہوگیا اور اس کی مان ایسی حالت میں تھی کہ (اگر شوہر موجود ہوتا) تو اس سے ہم بستری حلال ہوتے مثلاً زوجہ ہوتی یا طلاق رجعی کی عدت میں ہوتی تو اس بچے کو حصہ دار سمجھا جائے گا اگر تقسیم سے قبل فوت ہوگیا تو اس کا حصہ شرعی حصہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر وجود آمدنی چھ ماہ یا اس کے بعد پیدا ہو اور مان کی وہی حالت ہو جو بیان کی گئی تو پھر یہ وقف کی آمدنی کا مستحق نہ ہوگا۔ ۱۱۵

(۱۱۳) تبیح العادمیہ محولہ بالا صفحہ ۲۲۹

مابعدہ فتاویٰ انقریویہ، مطبوعہ مصر، ۱۲۸۱ هجری، صفحہ ۲۲۶

(۱۱۴) محولہ بالا صفحہ ۶۰۶ تا آخر

(۱۱۵) رد المحتار محولہ بالا، صفحہ ۶۰۶

وقف علی الولاد میں آمدنی کا حق آمدنی کے وجود کے وقت ہے پیدا ہوگا نہ کہ وقف کرنے کے وقت ہے لہذا جو اولاد وقف کرنے کے وقت موجود تھی اور جو اس کے بعد پیدا ہوئی لیکن آمدنی کے وقت موجود تھی برابر کی مستحق ہوگی، اور حمل وقف علی الولاد میں داخل ہوا کرتا ہے۔ ۱۱۴

وقف قراءہ قرابت میں آمدنی کے وجود کے وقت فقیر ہونے کا اعتبار ہوگا۔ لہذا اس وقت جو فقیر ہوگا وہ آمدنی کے حصہ کا مستحق ہوگا۔ اگرچہ بعد میں غنی ہو جائے۔ یا اس سے قبل غنی ہو، اگر وقف کی آمدنی دو سال تک مؤخر رہی تو جو لوگ ان سالوں کی آمدنی کے وقت فقیر ہوں گے وہ ہر سال کی آمدنی سے اپنے حصہ کے مستحق ہوں گے اور ہر مابعد کے سال میں اول کے حصہ کی بنا پر غنی متصور نہ ہوں گے چنانچہ اول سال کی آمدنی کا حصہ جب دیا گیا تو اس حصہ پر مستحق کے قبضہ کر لینے کے بعد یہ تصور نہ کیا جائے گا کہ وہ مالدار ہو گیا بلکہ اس کے بعد دوسرے سال کے وظیفہ کا مستحق رہے۔ ۱۱۸

وقف کی آمدنی میں مستحقین کو اس وقت حق پیدا ہوتا ہے جب کہ تمام وقف کے مصارف ضروریہ سے ملا۔ عشر و خراج دین و عارت کی اصلاح سے آمدنی فارغ ہو جائے۔ لیکن جب تک اس قسم کے بار وقف پر مرجدود ہوں آمدنی مستحقین کو نہ دی جائے گی، چنانچہ اہل وقف کے مستحقین کو جسب شرالط واقف اس خالص آمدنی سے ان کا مقروہ وظیفہ دیا جائے گا۔ اور جو مستحق خالب یا مفقود کا درجہ ہا گیا ہو اس کا وظیفہ بغیر کسی شرمنی وجہ کے کسی دوسرے مستحق کو نہ دیا جائے گا۔ جب متولی وقف کی آمدنی پر قبضہ کر لے اور ادائیگی وظائف کا وقت آجائے تو اہل وقف کو متولی سے اپنے وظیفہ کے مطالبہ کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن اس سے قبل

(۱۱۷) رداد المحتار حمولہ بالا، صفحہ ۹۰۹

(۱۱۸) رداد المحتار حمولہ بالا، صفحہ ۹۰۹

حاصل نہ ہوگا۔ ایک مستحق کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اُنہیں اس پر کسی کا دین ہے تو وہ اپنے دائن کو متول وقف سے اپنے وظیفہ پر قبضہ کرنے کا وکیل بنادے یا متول کی طرف حوالہ دیدے لیکن حوالہ کی صورت میں متول کا حوالہ کو قبول کرنا اور آئندی کا اُس کے قبضے میں آ جانا لازمی ہوگا۔ اور جس وظیفہ کا موقف علیہ کسی آئندہ زمانے میں مستحق ہوگا اس کے متعلق حوالہ دینا درست نہ ہوگا۔^{۱۱۹}

اگر کسی مستحق نے کسی دوسرے شخص کے حق میں یہ اقرار کیا کہ اس کے وظیفہ کا یہ شخص مستحق ہے وہ خود نہیں ہے اور دوسرے شخص نے اس کی تصدیق کر دی تو یہ دوسرा شخص مستحقین میں شمار ہوگا اور پہلا ہمیشہ کے لیے اس حصہ سے محروم سمجھا جائے گا خواہ یہ اس وقف نامہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جب اقرار کرنے والا فوت ہو جائے اور جس کے حق میں اقرار کیا گیا ہے زندہ موجود ہو تو یہ وظیفہ اُس جانب رجوع کر جائے گا جو واقع نے وقف نامہ میں تغیریں کیا ہوگا لیکن ایک مستحق کا اپنے حق کو کسی دوسرے کے حق میں ساقط کر دینا بعوض یا بلاعوض جائز نہ ہوگا۔^{۱۲۰}

(۱۱۹) در مختار مع رد المحتار م Gould بالا صفحہ ۵۲۲

تفییح الحامدیہ ، م Gould بالا صفحہ ۱۸۸

(۱۲۰) رد المحتار ، م Gould بالا صفحہ ۵۸۳ ، ۵۸۴

اشاریہ

موضوع وار

عراق کا راجع وقت قانون ' ۸۸۷-۸۸	
علی بن ابی طالب' اور ۸۲۹	۸۸۱
قرآن میں ظاہر نص نہیں' (حضانت کے مستہل میں) ' ۸۴۸-۴۹	۸۸۵
مالک' امام' اور ۸۴۸	۸۸۵
مان کا حق فائق' ۸۸۵-۸۶	۸۸۵
مان کے حق فائق کی علت' ۸۸۵-۸۶	۸۸۵
مان کا حق فائق مشروط بد عقد ثانی' ۸۸۰	۸۸۰
محمد (امام) ' ۸۴۸	۸۴۸
مصر کا راجع وقت قانون' ۸۸۸	۸۸۸
تبیج' فکر (مؤلف) ' ۸۸۶-۸۷	۸۸۶
برورش کنندوں کی شرائط	
ابن قاسم کا نقطہ نظر' ۸۹۵	۸۹۵
ابوئور کا نقطہ نظر' ۸۹۵	۸۹۵
الحمد اربعہ کا نقطہ نظر' ۸۹۵	۸۹۵
تیونس کا راجع وقت قانون ' ۸۹۵-۹۶	۸۹۵
حسن بصری کا نقطہ نظر' ۸۹۵	۸۹۵
شام کا راجع وقت قانون ' ۸۹۶	۸۹۶
تجویز (مؤلف) '	
مائیں کب ناقابل حضانت قرار پاتی ہیں ' ۹۰۸-۹	۹۰۸-۹
تیونس کا راجع وقت قانون برورش کا حق ' ۸۸۸-۸۹	۸۸۸
حافظ ابن قیم کا مسلک'	
احناف کے اعتراض کا جواب ' ۹۲۴-۹۸	۹۲۴-۹۸
حسن بصری کا نقطہ نظر	
برورش کنندوں کی شرائط' ۸۹۵	۸۹۵

حضرات

اب تعییری حضانت رکھتا ہے	
مائیں کب ناقابل حضانت قرار پاتی ہیں ' ۹۰۶	۹۰۶
برورش کا حق ' ۸۸۳-۸۵	۸۸۳-۸۵
کستانی عدالتون کے فیصلے	
مائیں کب ناقابل حضانت قرار پاتی ہیں ' ۸۹۲-۹۰۳	۸۹۲-۹۰۳
برورش کا حق ' ۸۴۴	۸۴۴
ابن ابی شیبہ ' ۸۸۵	۸۸۵
ابن قدامہ مقامی کی رائے ' ۸۸۳	۸۸۳
ابن ہام' کمال الدین کی تصریح ' ۸۸۳-۸۵	۸۸۳-۸۵
ابویکر صلیقہ کا فیصلہ ' ۸۸۲-۸۳	۸۸۲-۸۳
ابوحنفیہ ' ۸۴۴	۸۴۴
ابویوسف' ۸۴۸	۸۴۸
اجاع ' ۸۸۴	۸۸۴
احادیث نبوی ' ۸۷۹-۸۸۳	۸۷۹-۸۸۳
احمد بن حنبل' ۸۴۸	۸۴۸
اردن کا راجع وقت قانون ' ۸۹۰	۸۹۰
انہم ثلاثہ کا نقطہ نظر' ۸۷۸	۸۷۸
برہان الدین مرغینانی کی تصریح ' ۸۸۰-۸۸۵	۸۸۰-۸۸۵
تعزیز' (مؤلف) ' ۸۸۶	۸۸۶
تیونس کا راجع وقت قانون ' ۸۸۸-۸۹	۸۸۸-۸۹
حنفیہ مسلک ' ۸۴۴-۸۴۸	۸۴۴-۸۴۸
رغبت اولاد کے مطابق ' ۸۸۰ اور ۸۸۱	۸۸۰-۸۸۱
شافعی ' امام' ۸۴۸	۸۴۸
شام کا راجع وقت ' ۸۹۰-۹۱	۸۹۰-۹۱
شیعہ فقهاء کی رائے ' ۸۷۸	۸۷۸

مجموعہ قوانین اسلام

مائن کب ناقابل حضانت قرار باتیں' ۸۹۶	امد بن حبیل' ۸۹۲
حضور (صلیم) کا، فیصلہ رغبت اولاد کے مطابق بروزش کے حق بر فیصلہ' ۸۸۳ اور ۸۸۰-۸۱	تیونس کا راجع الوقت قانون' ۸۹۲-۹۳
حق حضانت' ۸۹۱-۹۳	شافعی (اماں)' ۸۹۲
شام کا راجع الوقت قانون' ۸۹۳	شام کے حق فائٹ کی علت بروکش کا حق' ۸۸۵-۸۶
مانیں کب ناقابل حضانت قرار باتیں' ۸۹۶-۹۷	مالک (اماں)' ۸۹۲
مانیں کب ناقابل حضانت قرار باتیں' ۸۹۷	مال کے حق فائٹ کی علت بروکش کا حق' ۸۹۸-۹۰
مانیں کب ناقابل حضانت قرار باتیں' ۸۹۸-۹۰	(جشن) اخلاق حسین' ۸۹۸-۹۰
مانیں کب ناقابل حضانت قرار باتیں' ۸۹۹	امد اربعہ کا نقطہ نظر' ۸۹۶
باب تعبیری حضانت رکھتا ہے (عدالت عالیہ مغربی پاکستان لاپور کا فیصلہ)' ۹۰۶	امد بن حبیل کا نقطہ نظر' ۸۹۷
بہبود افضل کے بنیادی اصول بر فیصلہ۔۔۔	(جشن) اخلاق حسین' ۸۹۸-۹۰
جشن شیر احمد' ۹۰۳	امد اربعہ کا نقطہ نظر' ۸۹۶
جشن جمیل حسین رضوی' ۹۰۶	باب تعبیری حضانت رکھتا ہے (عدالت عالیہ مغربی پاکستان لاپور کا فیصلہ)' ۹۰۶
شافعی (اماں)' ۹۰۳	بہبود افضل کے بنیادی اصول بر فیصلہ۔۔۔
عدالت عالیہ آزاد جموں و کشمیر' ۹۰۳-۹۰۴	جشن شیر احمد' ۹۰۳
عدالت عالیہ مغربی پاکستان لاپور کا فیصلہ' ۹۰۳	جشن جمیل حسین رضوی' ۹۰۶
عدالتون کے فیصلے (پاکستانی)' ۸۹۲-۹۰۳	شافعی (اماں)' ۹۰۳
تجویز (مؤلف)' ۹۰۸-۹	عدالت عالیہ آزاد جموں و کشمیر' ۹۰۳-۹۰۴
تیونس کا راجع الوقت قانون' ۸۹۲	عدالت عالیہ مغربی پاکستان کراچی بینج' ۹۰۲
حسن بصیری کا نقطہ نظر' ۸۹۶	کیکاؤں (جشن) کا فیصلہ' ۸۹۸
حق حضانت' ۸۹۶-۹۰۹	مالک (اماں) کا نقطہ نظر' ۸۹۸
شافعی (اماں) کا نقطہ نظر' ۸۹۷	محمد شفیع (جشن) کا فیصلہ' ۹۰۰-۱
شام کا راجع الوقت قانون' ۸۹۷	نایابی کی بہبود، حضانت کا بنیادی اصول' ۹۰۳-۶
عدالت عالیہ مغربی پاکستان کراچی بینج' ۹۰۲	ترتیب استحقاق' ۸۹۶

اشاریہ—موضع وار

۱۱۵۵

شام کا قانون ^{۸۶۳-۶۶}	نتیجہ فکر (مؤلف) ^{۹۰۷-۸}
ثبوت نسب بذریعہ دعویٰ ^{۸۶۶-۶۴}	وحید الدین احمد (جسٹن) ^{۹۰۲-۳}
نسب اولاد ^{۸۶۶-۶۴}	مردوان کا حق حضانت
جائز النسبی ^{۸۵۰-۶۰}	عورتوں کا حق فائق ^{۸۹۳}
نسب اولاد ^{۸۵۰-۶۰}	نصر کاراجع الوقت قانون ^{۸۸۸}
حق نفعہ ^{۸۴۶}	پروووش کا حق ^{۸۸۸}
متبنی بنانا ^{۸۴۶}	نایاب کی بیبود (حضانت کا بنیادی اصول)
حق وراثت ^{۸۴۶}	مائیں کب تقابل حضانت قرار یاتی ہے ^{۹۰۳-۶}
متبنی بنانا ^{۸۴۶}	نتیجہ فکر (مؤلف) ^{۹۰۷-۸}
حمل کی زائد سے زائد مدت ^{۸۵۳}	پروووش کا حق ^{۸۸۶-۸۴}
احمد بن حنبل 'امام' اور ^{۸۵۲}	مائیں کب تقابل حضانت قرار یاتی ہے ^{۹۰۷-۸}
احتف کا نقطہ نظر ^{۸۵۱-۵۲}	(حق حضانت) ^{۹۰۷-۸}
انہ تلاش کا سلک ^{۸۵۲-۵۳}	— — لبس اولاد
حنفیہ کا جواب ^{۸۵۳}	اسلامی مالک میں اقرار بالنسب کے احکام نسب بذریعہ اقرار ^{۸۴۳-۴۳}
شافعی امام ^{۸۵۴}	اسلامی مالک میں راجع الوقت قوانین نسب اولاد ^{۸۴۳}
شیعہ نقطہ نظر ^{۸۵۴}	اقرار بالنسب سے رجوع 'نسب اولاد' ^{۸۴۴-۵}
عثمان بن عفان ^{۸۵۴}	اقرار بالنسب کی شرائط ^{۸۴۴}
علی ابن ابی طالب ^{۸۵۴}	پاکستان میں ملت حمل کا تعین ^{۸۴۵-۶}
مالک 'امام' ^{۸۵۴}	نسب اولاد ^{۸۴۵}
حمل کی زائد سے زائد مدت کا تعین ^{۸۵۴}	تعريف (ات) ^{۸۴۵}
طبی نقطہ نظر ^{۸۵۸-۵۹}	نسب اولاد ^{۸۴۵}
عارف صدق 'ڈاکٹر (شام)' ^{۸۵۹}	تیونس کا قانون ^{۸۴۶}
نتیجہ فکر (مؤلف) ^{۸۵۹-۶۰}	ملت حمل کا تعین ^{۸۴۶}
حمل کی کم از کم مدت ^{۸۵۰-۵۱}	تیونس کا قانون شخصی ^{۸۴۶}
نسب اولاد ^{۸۵۰-۵۱}	نسب اولاد ^{۸۴۶}
خلاصہ بحث (نسب بذریعہ شہادت) ^{۸۵۰}	ثبوت نسب بہ حکم شرعی ^{۸۶۳}
امام ابو حنفیہ ^{۸۵۰}	امام احمد بن حنبل ^{۸۶۳}
شام کا قانون ^{۸۵۰}	امام زفر ^{۸۶۳}
ثبوت نسب بہ حکم شرعی ^{۸۶۳-۶۶}	امام شافعی ^{۸۶۳}
ملت حمل کا تعین ^{۸۵۶}	"آنسہ" لفظ کی تعریف و معنی ^{۸۶۳}
نسب بذریعہ اقرار ^{۸۶۳-۶۶}	
نسب اولاد ^{۸۶۹-۵۰}	
شیعہ نقطہ نظر ^{۸۶۹}	

حمل کی زائد سے زائد مدت ^{۸۵۱-۹۰}	حمل کی زائد سے زائد مدت ^{۸۵۳}
حمل کی کم از کم مدت ^{۸۵۰-۵۱}	حمل کی نقطعہ نظر ^{۸۵۴}
شام کا قانون شخصی ^{۸۳۹}	حمل کی زائد سے زائد مدت کا تعین ^{۸۵۸-۵۹}
متینی بنانا ^{۸۲۵-۲۶}	عدالتی فیصلے (پاکستان)
عکس اسلامی مالک میں راجح وقت قوانین ^{۸۳۹}	نسب بذریعہ اقرار ^{۸۴۳-۲۵}
مالک اسلامی میں مدت حمل کا تعین ^{۸۵۳-۵۵}	عراق کا قانون ^{۸۴۴}
نسب بذریعہ اقرار ^{۸۴۲}	مدت حمل کا تعین ^{۸۵۵}
نسب بذریعہ شہادت ^{۸۶۲-۲۱}	نسب بذریعہ اقرار ^{۸۴۳}
نسب کے اثرات ^{۸۳۹}	متینی بنانا ^۸
نسب بذریعہ اقرار	حق لفظ ^{۸۴۶}
اسلامی مالک میں اقرار بالنسب کے احکام ^{۸۴۳-۲۷}	حق وراثت ^{۸۴۶}
اقرار بالنسب کی شرائط ^{۸۴۲}	زید بن حارثہ (متینی حضور صلعم) ^{۸۴۵}
شام کا قانون ^{۸۴۳-۲۳}	زینب (زوجہ حضور صلعم) ^{۸۴۵}
عدالتی فیصلے (پاکستان) ^{۸۴۳-۲۵}	سورة احزاب، پارہ ۲۲ ^{۸۴۵}
عراق کا قانون ^{۸۴۳}	عقد مواہات ^{۸۴۶}
نسب اولاد ^{۸۴۳}	محمد (رسول صلعم) ^{۸۴۵-۲۶}
نسب بذریعہ شہادت	نسب اولاد ^{۸۴۵-۲۶}
ابن ابی شہبہ ^{۸۶۸}	مالك اسلامی میں مدت حمل کا تعین
ابن شہاب ^{۸۶۸}	تونس ^{۸۵۶}
ابوحینف ^{۸۶۸} اور ^{۸۶۹}	شام ^{۸۵۶}
ابویوسف ^{۸۶۸} اور ^{۸۶۹}	عراق ^{۸۵۵}
خلافہ بعثت ^{۸۴۰-۲۱}	مصر ^{۸۵۵}
رسول مقبول (صلعم) کا ارشاد ^{۸۶۸}	نسب اولاد ^{۸۵۳-۵۵}
شافعی ^{۸۶۹}	نبیعہ فکر (مؤلف)
محمد (امام) ^{۸۶۸}	حمل کی زائد سے زائد مدت کا تعین ^{۸۵۹-۶۰}
الشیعی (امام) ^{۸۶۸}	اقرار بالنسب سے رجوع ^{۸۴۵}
نسب اولاد ^{۸۶۴-۲۱}	اقسام نسب ^{۸۳۸}
— × × —	پاکستان میں مدت حمل کا تعین ^{۸۵۶}
لفظ اولاد	تعريف ^{۸۳۷}
اردن کا راجح وقت قانون	نیونس کا قانون شخصی ^{۸۶۹}
دیگر رشتہ داروں کا لفظ ^{۹۲۱-۲۲}	نبوت نسب بہ حکم شرعی ^{۸۶۱-۶۶}
اولاد کا صحیح النسب ہونا ضروری ہے ^{۹۱۳-۱۳}	نبوت نسب بذریعہ دعویٰ ^{۸۶۶-۶۷}
	جانز النسبی ^{۸۵۰-۶۰}

اشاریہ—موضع وار

۱۱۵۴

اقرار وقف بجالت صحت ومرض الموت' ۱۰۹۶-۹۹	محبوبیز (مؤلف) ۹۱۳
مرتضی کا اقرار وقف' ۱۰۹۸-۹۹	ضابطہ فوجداری پاکستان' ۹۱۳
الفاظ وقف' ۱۰۵۰-۵۲	نقد اولاد' ۹۱۳-۱۳
اولاد سے کون مراد ہیں	اولاد کے نفعی کی ذمہ داری
وقف علی الاولاد' ۱۱۱۲	ابویوسف' امام (تعین خوشحالی) ۹۱۲
اہلیت متولی' ۱۱۲۶-۲۴	اعضورت (صلعم) کا حکم' ۹۱۰
ایعاب یا اعلان وقف	الشیبان' امام (تعین خوشحالی) ۹۱۲
اویحینہ کی رائے' ۱۰۵۲-۵۸	ولسن' (صنف اینکلاؤ مسلمان لا) کا نقطہ نظر' ۹۱۱
ابویوسف کا قول' ۱۰۵۲ اور ۵۸	آبا و اجداد کا نقد' ۹۱۰-۱۶
احمد ابن حنبل کا قول' ۱۰۵۵	محبوبیز (مؤلف)
احناف کا مسلک' ۱۰۵۵	اولاد کا صحیح النسب ہونا ضروری ہے' ۹۱۳
حسن ابن زیاد' ۱۰۵۸	دیگر رشتہ داروں کا نقد' ۹۲۲
حنبلیہ مسلک میں مختلف آراء' ۱۰۵۶	دیگر رشتہ داروں کا نقد۔
سرخسی' ۱۰۵۲-۵۸	تیونس کا رابع الوقت قانون
شافعی کا قول' ۱۰۵۵	دیگر رشتہ داروں کا نقد' ۹۲۰-۲۱
شیعہ امامیہ مسلک' ۱۰۵۶	اردن کا رابع الوقت قانون' ۹۲۱-۲۲
عبد الرحمن ابن ابی لبی' ۱۰۵۶	ایت (ات) قرآن' ۹۱۲
قاضی ابو عاصم' ۱۰۵۸	محبوبیز (مؤلف) ۹۲۲
مالک کی رائے' ۱۰۵۶	تیونس کا رابع الوقت قانون' ۹۲۰-۲۱
محمد الشیبان کی رائے' ۱۰۵۶-۵۸	شام کا رابع الوقت قانون' ۹۱۸-۲
تجزیہ (مؤلف)	عراق کا رابع الوقت قانون' ۹۱۴-۱۸
وقف' ۱۰۴۱-۸۳	شام کا رابع الوقت قانون
ترمیی وقف ایکٹ' ۱۹۳۰-۱۹۳۱	دیگر رشتہ داروں کا نقد' ۹۱۸-۲۰
وقف علی الاولاد' ۱۱۱۱	ضابطہ فوجداری پاکستان
تعريف (ات)	اولاد کا صحیح النسب ہونا ضروری نہیں' ۹۱۳
تشريع' ۱۰۰۳	عراق کا رابع الوقت قانون
تنسیخ وقف	دیگر رشتہ داروں کا نقد' ۹۱۴-۱۸
ابویوسف' ۱۱۱۸	مان اور دادا کی ذمہ داری
سرخسی' ۱۱۱۸	دادا ہر ماں کا تقدم' ۹۱۳
قانون تنظیم اوقاف مصر' ۱۹۳۶-۱۹۳۷	—XX—
مصری قانون' ۱۹۹۸-۲۰	وقف
مصری قانون کی بنیاد' ۱۱۲۰	ابدیت وقف کے مسئلے کا تفصیل جائزہ' ۱۰۶۰-۸۶
تویلیت وقف	اغراض وقف' ۱۰۶۹

شیعہ نقطہ نظر، ^{۱۰۹۰}	سرخسی، ^{۱۱۲۱}
شرط موقوفہ، ^{۱۰۹۰-۹۱}	قانون تنظیم اوقاف مصر، ^{۱۹۳۶ ع}
شرط موقوف علیہ، ^{۱۰۹۱}	۱۱۲۳-۲۶
شرط وقف، ^{۱۰۹۱}	مصری قانون کی بنیاد، ^{۱۱۲۶}
شرط وقف، ^{۱۰۹۱}	جائزین مقرر کرنے کا اختیار
شرط موجود اور مشخص ہو، ^{۱۰۵۹}	وقف، ^{۱۱۳۱-۳۴}
شرط موقوف کا قیمتی بونا، ^{۱۰۸۹}	جائزداد موقوفہ کی منتقلی وغیرہ، ^{۱۱۳۰-۳۱}
شیعہ امامیہ مسلک	جائزداد موقوفہ میں کسی، ^{۱۱۲۳} یا بیشی یا تبادلہ وغیرہ
ایجاد یا اعلان وقف، ^{۱۰۵۶}	متعلق شرائط، ^{۱۱۳۱-۳۸} اور
شیعہ فدہ میں وقف کی تعریف، ^{۱۰۳۲}	امام ابویوسف کی رائے، ^{۱۱۳۷}
علامہ جمیل الدین ابی جعفر العلی، ^{شیعہ (قدر)}	امام سرسخی کی تحریر، ^{۱۱۳۲}
۱۰۳۲	مصری قانون، ^{۱۱۳۸-۳۱}
شیعہ نقطہ نظر	مصری قانون کی بنیاد، ^{۱۱۳۱}
شرط و جواز وقف کی اقسام، ^{۱۰۹۰}	جديد نقطہ نظر (ابدیت وقف)، ^{۱۰۲۰-۲۱}
وقف کے الفاظ، ^{۱۰۵۲}	ابو زہرہ (استاد الشریعت جامدہ قاهرہ)، ^{۱۰۲۰}
شیعہ مسلک	لبنانی قانون، ^{۱۰۴۷}
وقف بمالت مرض الموت، ^{۱۱۰۸}	مصری قانون، ^{۱۰۴۱}
صاحبین کی تعریف وقف، ^{۱۰۰۵}	جوزا کے لیے تحریر ضروری نہیں
صدقة اور ہبہ میں فرق، ^{۱۰۳۶-۳۷}	الفاظ وقف، ^{۱۰۵۲-۵۳}
صدقے اور وقف میں فرق، ^{۱۰۳۷-۳۸}	امام ابویوسف کا قول، ^{۱۰۵۳}
ابراهیم نغمی کی روایت، ^{۱۰۳۷}	جوزا وقف
ابن حزم، ^{۱۰۸۰}	ترشیح و تعریف، ^{۱۰۵۳-۵۴}
ابن عباس کا قول، ^{۱۰۳۷}	دوام وقف، ^{۱۰۵۴-۶۰}
ابن مسعود کا قول، ^{۱۰۳۷}	امام ابن حزم، ^{۱۰۶۰}
احناف کا مسلک، ^{۱۰۳۷}	امام ابوحنین، ^{۱۰۶۰}
العلی، ^{۱۰۳۹}	امام ابویوسف، ^{۱۰۶۰}
امام محمد کا فتوی، ^{۱۰۳۹}	امام احمد ابن حنبل، ^{۱۰۶۰}
حضرت علی کا قول، ^{۱۰۳۷}	امام شافعی، ^{۱۰۶۰}
حضرت عمر کا قول، ^{۱۰۳۹}	امام مالک کی رائے، ^{۱۰۶۰}
حضرت معاذ بن جبل کا قول، ^{۱۰۳۷}	امام محمد، ^{۱۰۶۰}
شیعہ نقطہ نظر، ^{۱۰۳۹-۴۰}	Zahriyah مسلک، ^{۱۰۶۰}
ظاهریہ مسلک، ^{۱۰۴۰}	وقف کی شرط، ^{۱۰۵۹-۶۰}
قاضی شرع کی روایت، ^{۱۰۳۷}	شرط و جواز وقف کی اقسام، ^{۱۰۸۶-۹۰}

وقت بحالت مرض الموت ^۱	۱۱۰۸	ظاہریہ کا نقطہ نظر
متولی کی معزولی اور تقرر جدید ^۲	۱۱۲۴-۳۰	وقت کے ابدی ہونے کے مسئلے کا تفصیلی جائزہ ^۳
متولی کی معزولی اور تقرری جدید —		ظاہریہ مسلک
امام محمد کی رائے ^۴	۱۱۲۸	بحالت مرض الموت ^۵
امام ابو یوسف کی رائے ^۶	۱۱۲۸	دوم وقف ^۷
متولی کے تصرفات		نوری اور بلا شرط ^۸
ناجائز تصرفات ^۹	۱۱۳۸-۵۰	قانون تنظیم اوقاف مصر ^{۱۰} ۱۹۳۶ع
وقف ^{۱۱}	۱۱۳۵-۵۲	تسیخ وقف ^{۱۲}
وقف کی آئندگی استحقاق ^{۱۳}	۱۱۵۰-۵۳	توالت وقف ^{۱۴}
(امام) محمد کی تعریف ^{۱۵}	۱۰۰۵	جائداد موقوفہ کی منتقلی وغیرہ (جائداد موقوفہ
(امام) محمد کی رائے ^{۱۶}	۱۰۳۶	میں کسی یہی یا تبادلہ وغیرہ سے متعلق
سرپیض کا اقرار وقف		شرطان ^{۱۷}
بحالت صحت و مرض الموت ^{۱۸}	۱۰۹۸-۹۹	وقف علی الاولاد ^{۱۹}
مسجد کے مشاع کا وقف		وقف علی الاولاد ^{۲۰}
مشاع کا وقف ^{۲۱}	۱۱۰۲-۵	قرض دار کا وقف ^{۲۱}
مسلمانوں کے وقف علی الاولاد کی انفرادیت		قرض دار کا وقف ^{۲۲}
وقف علی الاولاد ^{۲۳}	۱۱۱۰	ابطال کا حق ^{۲۴}
مشاع کا وقف ^{۲۴}	۱۱۰۱-۵	امام ابو یعنیہ کی رائے ^{۲۵}
مشاع کا وقف —		نتیجہ فکر (مؤلف) ^{۲۶}
ابو یوسف کی رائے ^{۲۶}	۱۱۰۳	قرض خواہ کا اختیار ^{۲۷}
(امام) سرخسی کی بحث ^{۲۷}	۱۱۰۳	وقف ^{۲۸}
لبنان کے قانون ^{۲۸}	۱۱۰۴	لبنان کے قانون کی رو سے
(امام) محمد کی رائے ^{۲۹}	۱۱۰۳	دوام وقف کی نوعیت ^{۳۰}
مسجد کے لیے مشاع کا وقف ^{۳۱}	۱۱۰۲	لبنانی قانون (وقف)
مشاع کے مسئلہ کی بنیاد ^{۳۲}	۱۱۰۱-۲	جدید نقطہ نظر ^{۳۳}
مصر کا قانون ^{۳۳}	۱۱۰۲	لبنان کا قانون
مشاع کے مسئلے کی بنیاد		مشاع کا قانون ^{۳۴}
مشاع کا وقف ^{۳۵}	۱۱۰۱-۲	(امام) مالک کا نظریہ
مصر کا قانون		وقف کے ابدی ہونے کے مسئلے کا تفصیلی
تسیخ وقف ^{۳۶}	۱۱۱۸-۴۰	جائزہ ^{۳۷}
تولید وقف ^{۳۷}	۱۱۲۳	مالکیہ مسلک
جائداد موقوفہ کی منتقلی وغیرہ (جائداد موقوفہ		
میں کسی یہی یا تبادلہ وغیرہ سے منتقلی		
شرطان ^{۳۸}	۱۱۳۸-۳۱	

وقف کے ابتدی ہونے کے سلسلہ کا تفصیل جائزہ،	۱۰۷۱	وقف کا جدید نقطہ نظر،	۱۰۷۱
۱۰۶۰-۶۴		مشاع کا وقف،	۱۱۰۲
ان قدامہ مقدسی،	۱۰۶۱-۶۲	مصری قانون کی بنیاد،	۱۰۹۵-۹۶
امم احناں کا مذہب،	۱۰۶۲	مصری قانون کی بنیاد۔	
امام محمد کا نقطہ نظر،	۱۰۶۲	تسبیح وقف،	۱۱۲۰
شیعہ امامیہ کی رائے۔		توہیت وقف،	۱۱۲۶
ان هام کی روایت،	۱۰۶۳	جانشاد موقوفہ کی منتقلی وغیرہ (جانشاد موقوفہ	
ابو یوسف کی موافقت کی روایت،	۱۰۶۴	میں کمی بیشی یا تبادلہ وغیرہ) سے متعلق	
امام سرخسی کی روایت،	۱۰۶۵	شرط،	۱۱۳۱
ظاہریہ کا نقطہ نظر،	۱۰۶۲-۶۳	وقف،	۱۰۹۵-۹۶
وقف کی شرط،	۱۰۶۰-۶۴	وقف علی الاولاد،	۱۱۱۴
وقف بالوصیت،	۱۱۰۲-۸	مصری قانون کی رو سے دوام وقف کی نوعیت،	۱۰۸۵
وقف بمالت مرض الموت،	۱۱۰۰-۹	مصری قانون وقف کے تحت جواز وقف،	۱۰۹۲-۹۵
وقف بمالت مرض الموت۔		مصری قانون کے تحت وقف علی الاولاد	
امام ابو حنیفہ کی رائے،	۱۱۰۹	وقف علی الاولاد،	۱۱۱۳-۱۴
حنبلیہ مسلک،	۱۱۰۸	مماوہ متوالی،	
شافعیہ مسلک،	۱۱۰۸	وقف،	۱۱۳۳-۳۳
شیعہ مسلک،	۱۱۰۸	مقاصد وقف کا تعین،	
طحاوی کا بیان،	۱۱۰۹	مقصد وقف،	۱۰۹۹
ظاہریہ مسلک،	۱۱۰۸	مقصد وقف،	۱۰۹۹-۱۱۰۱
مالكیہ مسلک،	۱۱۰۸	مقصد وقف جزاً جائز اور جزاً ناجائز،	۱۱۰۰
(امام) محمد کی رائے،	۱۱۰۹	مقصد وقف فوت ہو جانے کی صورت میں،	۱۱۰۰
وقف،	۱۱۰۸-۹	سلکت شرط نہیں	
وقف علی الاولاد۔		وقف،	۱۰۵۴-۵۵
انثنیں لا ریورٹ لکھتہ،	۱۱۸۹۳	ناجائز تصرفات۔	
جلد،	۱۱۱۱	ستولی کے تصرفات،	۱۱۳۸-۵-۵
اولاد نہ کون مراد ہیں،	۱۱۱۲	تبیہ، تکر (مؤلف)،	۱۰۸۳-۸۵
آخری مفاد،	۱۱۱۱-۱۲	قرض دار کا وقف،	۱۱۰۲
امدی کی تقسیم،	۱۱۱۳	وقف ایکٹ (پاکستان)،	
برصیر ہندو یا کستان میں،	۱۱۱۱	وقف کی تعریف،	۱۰۳۸-۳۹
بڑی کونسل کا فصلہ،	۱۱۱۱	وقف بالوصیت،	۱۱۰۲-۲۸
ترمیمی وقف ایکٹ،	۱۱۹۳۰	وقف علی الاولاد،	۱۱۰۹-۱۴
قانون تنظیم اوقاف مصر،	۱۱۹۳۶		
۱۱۳۲-۱۲			

ابویوسف کا حنفیہ مسلک سے مشروط اتفاق، ۹۶۳	قانون جواز اوقاف سلطانان بیہر ۱۹۱۳ع، ۹۶۳
احادیث رسول (صلعم) و آثار صحابہ و تابعین، ۹۵۶-۶۲	سلطانوں کے وقف علی الولاد کی انفرادیت، ۱۱۱۱
احمد بن حنبل، احمد ثالثہ کے بر عکس لزوم رجوع بر زور، ۹۶۵	نصری قانون کی بنیاد، ۱۱۱۴
اخلاق مسین (جسٹس) کا فیصلہ، ۹۹۱	نصری قانون کے تحت وقف علی الولاد، ۱۱۱۰
الشیبان کا مسلک، ۹۶۵	وقف کے دامنی ہونے کے قائلین کے دلائل، ۱۱۱۳-۱۴
ولاد کو ہبہ کرنے کی آئندہ اسکان صورتیں، ۹۸۰-۸۱	حضرت عمر کی تعبیر بہ اتباع سنت، ۱۰۶۵-۶۶
باوجود مستحق ہونے کے غیر مستحق فرار دیے جانے بر قہاء کی آراء، ۹۸۲	وقف کی آئندگی کا استھان، ۱۱۵۰-۵۲
بعض حالات میں جائز ہونے بر (حبلی قہاء کا) استدلال، ۹۶۷-۶۸	حضرت عمر والی حدیث کا جواب، ۱۰۶۸
تبذیر کی تعریف، ۹۸۶	وقف، ۱۰۶۴-۶۷
تجزیہ (مؤلف)، ۹۲۹-۹	—xx—
ترجع کے عمل کا بشرط کرابت جواز امام ابوحنینہ، ۹۶۹	ہبہ انقاد ہبہ، ۹۲۵
امام شافعی، ۹۶۹	اہلیت ہبہ، ۹۰۳-۰۲۲
امام مالک، ۹۶۹	اشراف کی تعریف، ۹۸۶
تعديل و تسویہ (ساوات) وجوب کے قائلین کے استدلال پر بحث، ۹۶۵	انتقال جانشاد ایکٹ، ۹۲۸ ع (پاکستان)
ذائی تصرفات میں اسراف و تبذیر بر حاکم وقت کو ہابندی کا اختیار، ۹۸۲	تعريف ہبہ، ۹۲۳
شافعی (امام) کا استدلال، ۹۶۶-۶۷	حق ملکیت و اختیار سے دستبرداری، ۹۲۸
شافعی (امام) کی رائے بحوالہ شعرانی، ۹۶۳-۶۵	تفصیلی ہبہ۔
شافعیہ (مسلسلک) قہاء کی آراء، ۹۶۵-۶۷	ابن حزم کا احادیث، آثار صحابہ اور تابعین کے عمل سے حرمت کا بیان، ۹۶۹
شعرانی (شافعی) کا بیان، ۹۶۸-۶۵	ابن قیم کا مسلک، ۹۴۶
شیعہ (مسلسلک) قہاء کی آراء، ۹۶۸	ابن قیم کے مسلک بر احناف کا رد، ۹۴۴
ظاہریہ (مسلسلک) اور قہاء کی آراء، ۹۶۸-۶۷	ابن قیم کے مسلک بر احناف کے اعتراضات کا جواب، ۹۴۴-۴۸
عدلی نظر، ۹۹۱-۹۲	ابو حنینہ کی رائے بحوالہ شعرانی، ۹۶۳-۰۶۵
قرآن پدایت، ۹۵۳-۵۶	ابویوسف، حسن نبی کی شرط بر استدلال، ۹۶۵-۶۶
کیکاؤس کا فیصلہ، ۹۹۱	

- چنگیز خان 'جشن' ۹۳۷
 حبیب اللہ خان 'جشن' ۹۳۸
 سپریم کورٹ پاکستان 'جشن' ۹۳۸ اور ۹۳۹
 کیالی 'جشن' ۹۳۸
 یعقوب علی خان 'جشن' ۹۳۸
 قبضہ لازمی ہے۔
 ہائی کورٹ مغربی پاکستان ۹۳۸
 قبضے کے لیے اجازت ضروری ہے۔
 امام محمد کا استدلال '۹۳۱-۳۳
 نابالغ کا مان کے زیر بروش ہوئے کی صورت
 میں مان کے قبضے کی نوعیت '۹۳۱-۳۲
 نابالغ کے حق میں ہب کی صورت میں ہب کی
 نوعیت '۹۳۰-۳۱
 عجم الدین العلی کی بیان کردہ شرائط '۹۳۳-۳۵
 ہم لڑکے کے چھا کے زیر بروش وونے کی
 صورت میں '۹۳۴-۳۳
 تسلیح ہب۔
 ابراہیم غنی (ذی رحم محروم کے ہب سے رجوع
 کی مانعت) '۱۰۱۶-۱۷
 ابو بیریہ کی حدیث '
 احتاف کے دلائل '۱۰۲۱-۲۳
 ابو المردا احتاف کے دلائل '۱۰۲۱-۲۴
 احتاف کے دلائل۔
 حضرت علی کا قول '۱۰۲۱
 حضرت عمر کی روایت '۱۰۲۳
 امام مسلم '۱۰۱۵
 امام نووی '۱۰۱۵
 بریان الدین سرخیانی '۱۰۱۵
 پاکستانی عدالتون کے فیصلے '۱۰۳۶
 حبیب اللہ خان 'جشن' ۱۰۳۸
 حق رجوع ایک ذاتی حق ہے '۱۰۳۵-۳۶
 جشن محمد شیع '۱۰۳۵
 عدالت عالیہ مغربی پاکستان '۱۰۳۵-۳۶
 جشن کیالی '۱۰۳۸
- مالک کی رائے بحوالہ شعرانی '۹۶۳-۶۵
 مالکیہ (سلک) فقہاء کی آراء '۹۶۵-۶۶
 محمد (امام) کا حنفیہ سلک سے کامل اتفاق '۹۶۳
 محمود الشلتوت کا فتوی '۹۹۰-۹۱
 مختلف فقہاء مذاہب کی آراء '۹۶۳-۶۹
 تیجہ فکر (مؤلف) '۹۹۲
 نعیان بن بشیر والی روایت '۹۵۶-۵۲
 دیگر احادیث و آثار سے علامہ ابن حزم کا
 استدلال '۹۴۰-۶۷
 ہائی کورٹ پشاور کا فیصلہ '۹۹۲
 بائی کورٹ ہب اور مذہب کی تکمیل ہے۔
 احتاف کی دلیل '۹۲۶-۶۷
 ابراہیم بنی (تابعی) '۹۲۶
 امام مالک کا نقطہ نظر '۹۲۶
 اسانت کی صورت میں جلید قبضے کی ضرورت
 نہیں '۹۳۶
 شیعی نقطہ نظر '۹۳۶
 باب کا بالغ زیر بروش بیٹھنے کے حق میں ہب '۹۳۰-۳۱
 بلا اجازت قبضے کے بارے میں پاکستان سپریم
 کورٹ کا فیصلہ '۹۳۵-۳۶
 حنفیہ اور مالکیہ کا اختلاف '۹۲۶
 حنفیہ نقطہ نظر '۹۲۶
 زیر بروش موبہب لہ کو قبضہ دھی کی
 نوعیت '۹۳۹-۰۰
 ظاہریہ فرقہ کا نقطہ نظر '۹۳۵
 عائشہ صدیقہ کی حدیث '۹۲۴
 عائشہ کی حدیث سے اخذ نتائج '۹۲۹-۰۰
 قبضے کی شرط پر حضرت ابو یکر کا فیصلہ '۹۲۴
 قبضے کی شرط پر المسوط کی بیٹھ '۹۲۸-۲۹
 قبضے کی شرط پر حضرت عمر کا فیصلہ '۹۲۴
 قبضہ لازمی ہے (پاکستانی عدالتون کے فیصلے) '۹۳۶-۳۹

۔۔ موصوع وار

۱۱۶۳

جشن کیاں' ۹۵۳	جب زوجہ شوہر کی طرف سے جوچک مدعی ہو'
ذاتی تصرفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت کو پابندی کا اختیار —	۱۰۱۹-۲۰
ابراهیم شخصی' ۹۸۲ اور ابن سیرین' ۹۸۲ اور ابو حنفید' ۹۸۲ اور ابو یوسف' ۹۸۲ اور امام بخاری کی بحث' ۹۸۳' ۹۸۳ اور ۹۸۵	ذی رسم محروم کے ہبہ سے رجوع کی مانعت —
امام طحاوی' ۹۸۳ امام محمد' ۹۸۲ اور ۹۸۳ ابن حجر عسقلانی کی بحث' ۹۸۳ اور ۹۸۵ مغیرہ بن شعبہ' ۹۸۴	ابراهیم شخصی' ۱۰۱۶-۱۷ حضرت عمر کا فصلہ' ۱۰۱۷ حنفیہ اور شافعیہ میں اختلاف' ۱۰۲۰ رجوع کی چند مزید صورتیں' ۱۰۲۳ شوہر کی طرف سے زوجہ کے ہبہ میں رجوع —
(ہبہ) رقبی —	شیعہ امامیہ مسلک' ۱۰۱۸ شے موهوبہ کی قیمت میں اضافہ یا تبدیل کی صورت میں —
امام ابو حنفید کا فتوی' ۹۹۸	شیعی نقطہ نظر' ۱۰۲۸-۲۹
امام ابو یوسف کا فتوی' ۹۹۸	خابری مسلک —
امام محمد کا فتوی' ۹۹۸	علامہ ابن حزم ظاہری' ۱۰۲۳ عدالت عالیہ مغربی پاکستان، پشاور —
تعريف (ات) و معنی' ۹۸-۹۹	حق رجوع ایک ذاتی حق ہے' ۱۰۳۵-۳۶ عوض کے بعد رجوع کا حق نہیں' ۱۰۲۵-۲۸ موہوب لہہ کی ملکیت سے نیکل جانے کے بعد —
شیعی نقطہ نظر' ۹۹۵-۹۷ ظاہریہ نقطہ نظر' ۹۹۸	شیعی نقطہ نظر' ۱۰۲۲-۲۳ موہوب لہہ کی وفات کے بعد' ۱۰۳۴ موہوب لہہ کے مرض الموت میں رجوع' ۱۰۳۸ وابیب کی موت کے بعد' ۱۰۳۳-۳۸
شهادت ہبہ' ۹۲۵	خبریں مغلستان کا ہبہ —
شوہر کی طرف سے زوجہ کے ہبہ میں رجوع	حضرت عائشہ کے نام' ۹۵۹ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے نام ہبہ' ۹۵۲-۵۳
تنصیح ہبہ' ۱۰۱۸	سیدھ فتحاء کا فتوی' ۹۵۳ متاخرین کا نقطہ نظر' ۹۵۴ متقدمین کا نقطہ نظر' ۹۵۲ سولف کی رائے' ۹۵۲
عاریت	دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے نام ہبہ پر عدالتی تیصلے —
تشريع و تعريف' ۱۰۳۱	جشن حبیب اللہ خاں' ۹۵۳
ظاہریہ مسلک' ۱۰۳۱	
ہبہ اور عاریت کا فرق' ۱۰۳۱	
مجلہ الاحکام العدلیہ میں عاریت کے احکام' ۹۵۳	
۱۰۳۱-۳۳	
عدالتی فصلے —	
دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے نام ہبہ' ۹۵۳	
غلام کو مددیر کرنے والی روایت میں ضمی بحث —	
نعم بن عبد اللہ بن حام' ۹۸۸	
کر مال کا صدقہ منوع اور مذمومہ فقر ہے	

مجموعہ قوانین اسلام

ڈھاکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ^۱	۹۹۹-۱۰۰	محمود بن لبید ^۲	۹۸۸-۸۹
رجوع کا جواز ^۳	۱۰۰-۳-۴	کن اشیاء کا ہبہ جائز ہے ^۴	۹۸۵-۸۶
عدالتی نقطہ نظر ^۵	۹۹۹-۱۰۰	مدبر کرنے سے متعلق روایت ^۶	—
(جسٹس) کیکاؤں کا فیصلہ ^۷	۱۰۰-۱	امام مسلم ^۸	۹۸۸
ہب عوض خدمات کا جواز ^۹	۱۰۰-۲	مذکور کی اصطلاح کے معنی ^{۱۰}	—
جسٹس وحید الدین احمد کا فیصلہ ^{۱۱}	۱۰۰-۳	تجزیہ (مؤلف) ^{۱۲}	۹۸۸
پندو پاکستان میں نوعت ^{۱۳}	۱۰۰-۳-۳	شاع کا ہبہ ^{۱۴}	—
جسٹس چنگر کا فیصلہ ^{۱۵}	۱۰۰-۴-۳	زمینداری کے خیر منقسم حصے کا ہبہ ^{۱۶}	—
ہب بالعوض میں رجوع —	—	۹۵۰-۵۲	—
امام ابو یوسف کا فیصلہ ^{۱۷}	۱۰۰-۳-۴	ظاہریہ فرقہ کا مسلک ^{۱۸}	۹۷۹-۵
ہب بحالت مرض الموت ^{۱۹}	۱۰۰-۴-۱	شاع کا ہبہ (ظاہریہ فرقہ کا مسلک)	—
ابن ابی لیل ^{۲۰}	۱۰۰-۸	ابراہیم تعمی ^{۲۱}	۹۵۰
اختلاف کے دلائل ^{۲۲}	۱۰۰-۸-۱	ابو تور ^{۲۳}	۹۷۹
سپریم کورٹ پاکستان ^{۲۴}	۱۰۱۱-۱	ابو سلیمان ^{۲۵}	۹۷۹
سرخسی ^{۲۶}	۱۰۰-۸-۱	احمد ^{۲۶}	۹۷۹
شیعی نقطہ نظر ^{۲۷}	۱۰۱۰	اسحاق ^{۲۷}	۹۷۹
عدالتی نقطہ نظر ^{۲۸}	۱۰۱۰-۱	معمر ^{۲۸}	۹۷۹
قانون جانشین ایکٹ مجریہ ^{۲۹} ۱۹۴۵ع (پاکستان)	۱۰۱۳-۱۲	شاع کا ہبہ (تعزیف) ^{۲۹}	۹۳۶-۳۷
قانون روما ^{۳۰}	۱۰۱۳	شاع کا ہبہ (عدالتی نقطہ نظر) —	—
کیکاؤں، جسٹس ^{۳۱}	۱۰۱۲-۱۲	جسٹس ظہیر الحسن لاری ^{۳۰}	۹۵۰
نجم الدین ابی جعفر الحلی ^{۳۲}	۱۰۱۱	جسٹس کانشن نائن ^{۳۱}	۹۵۰
بانی کورٹ مغربی پاکستان پشاور ^{۳۳}	۱۰۱۰-۱۱	شاع کا ہبہ (قبضہ مشترک) —	—
لابور ^{۳۴}	۱۰۱۰-۱۱	امام ابو حنیفہ ^{۳۵}	۹۵۱-۵۲
ہب بشرط عوض ^{۳۵}	۱۰۰-۵-۶	امام ابو یوسف ^{۳۶}	۹۵۲
ہب بشرط العوض اور ہب بالعوض میں فرق —	—	امام محمد ^{۳۷}	۹۵۲
الحلی ^{۳۶}	۱۰۰-۵	صاحبین کی رائے ^{۳۸}	۹۵۱
ستی نقطہ نظر ^{۳۷}	۱۰۰-۵	شاع کا ہبہ (وارث کے حق میں) ^{۳۹}	۹۳۸-۳۹
شیعی نقطہ نظر ^{۳۸}	۱۰۰-۵-۶	مشروط ہبہ —	—
ظاہریہ کا مسلک ^{۳۹}	۱۰۰-۶	برہان الدین مرغیبانی ^{۴۰}	۱۰۰-۷
ہب عوض خدمات کا جواز —	—	عدالتی فیصلے ^{۴۱}	۱۰۰-۷
ہب بالعوض ^{۴۲}	۱۰۰-۴	بانی کورٹ مغربی پاکستان لابور ^{۴۲}	۱۰۰-۷
ہب تاحیں حیات —	—	تجزیہ (ات) و تشریع ^{۴۳}	۹۹۸-۹۹

اشاریہ - موضوع وار

نجم الدین العلی' ۹۹۵-۹۷	عبد الملک بن مروان کا فیصلہ' ۹۹۵
ہبہ تحریری ہونا ضروری نہیں ہے۔	جسٹس وحید الدین' ۹۳۶
ہبہ تقاضی' ۹۵۳-۵۲	ہبہ زبان جائز ہے۔
جسٹس اے۔ آر۔ خان' ۹۳۶	ہبہ موقوف' ۱۰۰۶

احادیث سے استناد' ۹۹۳	امام مسلم' ۹۹۳
جابرین عبد اللہ کی روایت' ۹۹۳	شیعی نقطہ نظر' ۹۹۳-۹۷
اسکان کے معنی و تعریف' ۹۹۵-۹۶	رقی کے معنی و تعریف' ۹۹۵-۹۶
سکنی کے معنی و تعریف' ۹۹۵-۹۶	عطیہ کے معنی' ۹۹۳
'عمری' کے معنی' ۹۹۳-۹۳	

اشاریہ

نام وار

اہر ابیم غنی	تکمیل ہے، ۹۲۶
ذائق تصرفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت	کو بابنی کا اختیار، ۹۸۲ اور ۹۸۸
ذی رحم محروم کے ہب سے رجوع کی مانعت	(تسبیح ہب)، ۱۰۱۶
مشاع کا ہب (ظاہریہ فرقے کا سلک)، ۹۵۰	صدقی اور وقف میں فرق، ۱۰۳۷
ابن ابی شیبہ	ابن ابی شیبہ
نسب بدزیرعہ شہادت، ۸۶۸	ابن ابی لیلی
ہب بجالت مرض الموت، ۱۰۰۸	ابن احمد بن الجهم، محمد
ہب تفضیل، ۹۶۰	ابن جریج،
ہب تفضیل سے متعلق روایت، ۹۶۱	ہب تفضیل سے متعلق روایت، ۹۶۱
ابن حجر عسقلانی، ۹۶۹	ذائق تصرفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت
کو بابنی کے اختیار پر بحث، ۹۸۲	کو بابنی کے اختیار پر بحث، ۹۸۲
ابن حزم، امام احادیث و آثار صحابہ اور تابعین کے عمل سے	تسبیح ہب (ظاہری سلک)، ۱۰۴۳
ہب تفضیل کی حرمت کا بیان، ۹۶۹	صدقی اور وقف میں فرق، ۱۰۳۰
تسبیح ہب (ظاہری سلک)، ۱۰۴۳	نیمان بن بشیر والی روایت و دیگر احادیث و آثار سے ہب تفضیل کے بارے میں استدلال، ۹۴۰-۶
ابویکو صدیق، حضرت	ابویکو صدیق، حضرت

ایجاب یا اعلان وقت ^{۱۰۵۸}	برورش کے حق پر فصلہ ^{۸۸۳-۸۳}
ابو مسعود انصاری [*] حضرت اولاد کے نقد کی ذمہ داری ^{۹۱۰}	رغبت اولاد کے مطابق برورش کے حق پر فصلہ ^{۸۸۲-۸۳}
اولاد کے نفی کی ذمہ داری [*] تعین خوشحالی ^{۹۱۲}	ہبہ تفضیلی سے متعلق روایت ^{۹۵۹}
برورش کا حق ^{۸۷۸}	ابو حنفہ [*] امام
تسیخ وقت ^{۱۱۱۸}	برورش کا حق ^{۸۷۷}
ذائق تصرفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت کو بابتی کا اختیار ^{۹۸۲} اور ^{۹۸۳}	نسب پر شہادت ^{۸۷۰}
مشاع کا ہبہ (قبضہ مشترک) ^{۹۵۲}	ذائق تصرفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت کو بابتی کا اختیار ^{۹۸۲} اور ^{۹۸۳}
نسب بذریعہ شہادت ^{۸۶۸-۶۹}	مشاع کا ہبہ (قبضہ مشترک) ^{۹۵۱} اور ^{۹۵۲}
وقف کے ابدی ہونے کے مسئلے کا تفصیلی جائزہ (شیعہ امامیہ کی رائے) ^{۱۰۶۰}	نسب بذریعہ شہادت ^{۸۶۸-۶۹} اور ^{۸۷۰}
ایجاب یا اعلان وقت ^{۱۰۵۵}	وقف ابدی ہونے کے مسئلے کا تفصیلی جائزہ ^{۱۰۶۲}
۱۰۵۸	وقف کا ایجاب یا اعلان ^{۱۰۵۲-۵۸}
وقف جائداد کی منتقلی وغیرہ—	وقف بحال مرض الموت ^{۱۱۰۹}
جائداد موقوفہ میں کمی ویشی یا تبادلہ وغیرہ سے متعلق شرائط ^{۱۱۲۴}	وقف کی تعریف ^{۱۰۳۸-۴۵}
جواز کے بارے میں قول ^{۱۰۵۳}	وقف دوام ^{۱۰۶۰}
وقف دوام ^{۱۰۶۰}	وقف قرض دار کا ^{۱۱۰۵}
وقف سے متعلق رائے ^{۱۰۶۶}	وقف سے متعلق نقطہ نظر ^{۱۰۶۵}
وقف کی تعریف ^{۱۰۵۵}	ہبہ تفضیلی یہ کراپت جائز ہے ^{۹۶۹}
وقف میں متول کی معزولی اور تقرر جدید ^{۹۶۳-۶۵}	ہبہ تفضیلی سے متعلق رائے جواہ شعرانی ^{۹۶۳-۶۵}
مشاع کا وقف ^{۱۱۰۴}	ہبہ رقی برقتوی ^{۹۹۸}
ہبہ بالموض میں رجوع کے بارے میں فتویٰ ^{۱۰۰۳-۳۳}	ابو ثور—
ہبہ تفضیل کا حسن نیت کی شرط پر استدلال ^{۹۶۵-۶۶}	مشاع کا ہبہ (ظاہریہ فرقے کا مسلک) ^{۹۳۹}
مشروط اتفاق ^{۹۶۴}	ابو سلیمان
ہبہ رقی برقتوی ^{۹۹۸}	مشاع کا ہبہ (ظاہریہ فرقے کا مسلک) ^{۹۳۹}
ابو الدرداء [*] حضرت	ابو سعثیان
تسیخ ہبہ (احناف کے دلائل) ^{۱۰۴۱-۴۲}	ہبہ تفضیلی سے متعلق روایت کے راوی ^{۹۵۸-۵۹}
	ابو زیبرہ (استاد الشریعة، قاهرہ)
	وقف (جدید نقطہ نظر) ^{۱۰۷۰}
	ابو عاصم، قانی

شیعہ قدم میں وقف کی تعریف ^۱	۱۰۳۷	ابی لیلی ^۲ عبدالرحمن بن۔۔۔
بھبھے۔۔۔		ایجاد یا اعلان وقف ^۳
بجالت مرض الموت ^۴	۱۰۱۰	ابو هریرہ ^۵ حضرت
بشرط العوض اور بالعوض میں فرق ^۶	۱۰۰۵	برورش کا حق ^۷
تائین حیات سے متعلق شیعی نقطہ نظر ^۸	۹۹۵-۹۷	احمد بن حنبل ^۹ امام
تکمیل کی شرائط ^{۱۰}	۹۳۳-۳۵	برورش کا حق ^{۱۱}
الشیعی ^{۱۲} امام محمد۔۔۔	۹۱۲	نبوت نسب بہ حکم شرعی ^{۱۳}
اولاد کے نقطے کی نسہ داری (تعین خوشحالی) ^{۱۴}		حمل کی زائد سے زائد مدت
نسب پذیریہ شہادت ^{۱۵}	۸۶۸	(نسب اولاد) ^{۱۶} اور ^{۱۷}
وقف۔۔۔		مان کے بعد رشتہ دار عورتوں کا حق ^{۱۸}
ایجاد یا اعلان وقف ^{۱۹}	۱۰۵۶-۵۸	وقف ابدی ہونے کے مسئلے کا تفصیلی جائزہ ^{۲۰}
بجالت مرض الموت ^{۲۱}	۱۱۰۹	۱۰۶۱-۶۲
تعریف ^{۲۲}	۱۰۵۵	وقف میں ایجاد و اعلان ^{۲۳}
دوان وقف ^{۲۴}	۱۰۶۰	وقف دوام ^{۲۵}
مشاع ^{۲۶}	۱۱۰۳	بہ تفضیل کے مسئلے میں آئندہ ثلاثة سے اتفاق ^{۲۷}
بھبھے۔۔۔		۹۶۵
تفضیل سے متعلق مسلک ^{۲۸}	۹۶۳-۶۵	بہ تفضیل مشروط طور پر جائز بوجاگ ^{۲۹}
زبانی جائز ہے (خریری ہونا ضروری) ^{۳۰}	۹۶۶	بہ تفضیل میں آئندہ ثلاثة کے بر عکس لزوم رجوع پر زور ^{۳۱}
باقی ^{۳۲}	۹۹۸	اخلاق حسین ^{۳۳} جسٹس
بخاری ^{۳۴} امام		بہ تفضیل سے متعلق فیصلہ ^{۳۵}
ذائق تصرفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت کے پابندی کے اختیار پر بحث ^{۳۶}	۹۸۳	مائیں کب ناقابل حضانت قرار پائیں ^{۳۷}
اور ^{۳۷}	۹۸۵	۸۹۸-۹۰۰
برہان الدین ریغینانی ^{۳۸}		اسحاق بن راہویہ
تسیخ ^{۳۹} ہبہ	۱۰۱۵	مشاع کا بہ (ظاہریہ فرقے کا مسلک) ^{۴۰}
بہ مشروط ^{۴۱}	۱۰۰۰	التعلی ^{۴۲} بجم الدین (شیعی مجہتہ)
بکری		تسیخ ہبہ (شیعی موهوبہ کی قیمت میں اضافہ پا تبدیلی کی صورت میں 'شیعہ نقطہ نظر')
بہ تفضیل سے متعلق روایت ^{۴۳}	۹۶۱	۱۰۲۹
بیضاوی ^{۴۴} علامہ		حمل کی زائد سے زائد مدت (شیعہ نقطہ نظر)
بہ تفضیل پر بحث ^{۴۵}	۹۸۶-۸۷	۸۵۳
		صدیق اور وقف میں فرق ^{۴۶}
		شرائط جواز وقف کی اقسام ^{۴۷}

وق کے ابتدی ہونے کے مسئلے کا تفصیل جائزہ (شمع امامیہ کی رائے) ۱۰۶۳	جابر بن عبد اللہ، حضرت ہدی تاحین حیات سے متعلق روایتین ۹۹۰
ایجاد یا اعلان وقف ۱۰۵۴ اور ۱۰۵۸	ہدی تفضیل سے متعلق روایت ۹۵۸
مشاع کا وقف ۱۱۰۳	جعیل حسین رضوی، جشن مائیں کتب ناقابل حضانت قرار باتیں بس (بیہود اطفال کا بنیادی اصول) ۹۰۶
تابانی کے حق میں ہدی کی صورت میں قبضہ کی نوعیت پر استدلال ۹۲۰	چنگیز، جشن ہدی بالموض کی (ہند و پاکستان میں) نوعیت کا فصلہ ۱۰۰۲-۰۳
ہدی بجالت مرض الموت ۱۰۰۸-۱۰	ہدی کی تکمیل میں قبضہ لازمی ہے ۹۳۷
سعد ابن وقار، حضرت ہدی تفضیل سے متعلق روایت ۹۵۴-۵۸	چودھری، جشن مشاع کا ہدی (زمینداری کے غیر منقسم حصے کا ہدی) ۹۵۰
شافعی، امام پروزش کا حق ۸۷۸	جیب اللہ خاں، جشن تنسیخ ہدی۔
پروزش کے حق میں مان کا حق فائق ۸۸۵-۸۶	پاکستانی عدالتون کے فیصلے ۱۰۳۴
ثبوت نسب بہ حکم شرعی ۸۶۳	دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے نام ہدی پر فصلہ ۹۵۳
حمل کی زائد سے زائد مدت (نسب اولاد) ۸۵۲	ہدی کی تکمیل میں قبضہ لازمی ہے ۹۳۶
حتفیہ اور شافعیہ میں اختلاف (نسیخ ہدی) مان کے بعد رشتہ دار عورتوں کا حق ۸۹۲	حسن ان زیاد ایجاد یا اعلان وقف ۱۰۵۸
مان کے بعد رشتہ دار عورتوں کا حق ۸۹۲	زنفر، امام
مائیں کتب ناقابل حضانت قرار باتیں بیں (بیہود اطفال کا بنیادی اصول) ۹۰۲	ثبوت نسب بہ حکم شرعی ۸۶۳
نسب پذریعہ شہادت ۸۶۹	زید بن حارثہ (متینی حضور صلم) متینی بنانا، ۸۴۵
وق۔	زیر بن فاعل، ہدی تفضیل سے متعلق روایت ۹۶۱
ابتدی ہونے کے مسئلے کا تفصیل جائزہ ایجاد یا اعلان ۱۰۵۵	سرخسی، شمس الانہ شمس الدین امام تنسیخ وقف ۱۱۱۸
دوام وقف ۱۰۶۰	تولیت وقف ۱۱۲۱
ہدی تفضیل بشرط کراحت جائز ہے ۹۶۹	جائناداد موقوفہ کی مستقلی وغیرہ (جائناداد موقوفہ میں کمی یعنی یا تباہی وغیرہ سے متعلق شرائط) ۱۱۳۷
تفضیل سے متعلق استدلال ۹۶۶-۶۷۴	
تفضیل سے متعلق رائے بحوالہ شعری ۹۶۸-۶۵	
تفضیل بر بیان ۹۶۸-۶۵	
شیخ احمد، جشن مائیں کتب ناقابل حضانت قرار باتیں بیں (بیہود اطفال کا بنیادی اصول) ۹۰۳	

شفعی، جسش محمد
باکستانی عدالتون کے فیصلے،
(تسنیخ هبہ) ۱۰۲۵

مائیں کب ناقابلِ حضانت قرار پائی بیں (بہبود
اطفال کا بیانی دی اصول) ۹۰۰-۱

شلتوت، علامہ محمود (نقی مصر)
ہبہ تفضیل کے خلاف فتویٰ ۹۹-۹۱
طحاوی، امام

ذائق تصریفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت
کے ہائیکورٹ کے اختیار پر رائے ۹۸۳

وقف عجالتِ مرض الموت ۱۱۰۹
ظہیر الحسینی لاری، جسش

مشاعر کا ہبہ (عدالتی نقطہ نظر) ۹۵۰
عارف صدق (شام) ڈاکٹر

حمل کی مدت کا تعین (طبی نقطہ نظر) ۸۵۹
عامر۔

ہبہ تفضیل سے متعلق احادیث کے راوی ۹۵۶
عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین

پروروش کے حق میں مان کا حق فائق ۸۸۵-۸۶
خیر میں مخلستان کا ہبہ ۹۵۹

ہبہ تفضیل سے متعلق واقعہ ۹۵۹
عبدالرحمن بن ابی الزنان

پروروش کا حق ۸۸۱-۸۲
عبدالرحمن ابن عوف، حضرت

ہبہ تفضیل سے متعلق روایت ۹۶۲
عبدالرزاق

تکمیل ہبہ (احناف کی دلیل) ۹۲۶-۲
ہبہ تفضیلی ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۸ اور ۹۶۹

عبدالملک بن مروان
ہبہ تاہیین حیات سے متعلق فیصلہ ۹۹۵

عبدالله بن عمر، حضرت
اسراف کی تعریف ۹۸۶
عبدہ، علامہ

اسراف کی تعریف ۹۸۷
عثمان ابن عفان، حضرت

حمل کی زائد سے زائد مدت (نسب اولاد) ۸۵۲
مشاعر کا ہبہ (ظاہریہ فرقہ کا مسلک) ۹۳۹

نابالغ کے حق میں ہبہ کی صورت میں قبضہ کی
نویعت پر فیصلہ ۹۳۰

ہبہ تفضیل کے بارے میں فیصلہ ۹۶۰
عروة ابن زبیر، حضرت

ہبہ تفضیل سے متعلق روایت ۹۶۸
ہبہ تفضیل سے متعلق روایت ۹۶۰

عطاء ابن ابی ریاح،

ہبہ تفضیل پر فیصلہ ۹۶۱

ہبہ تفضیل کے بارے میں حدیث کی حجت ۹۵۹
علی ابی طالب، حضرت

پروروش کا حق ۸۲۹

پروروش کے حق پر فیصلہ ۸۸۱

تسنیخ ہبہ (احناف کے دلائل) ۱۰۲۱

جب زوجہ شوہر کی طرف سے جبر کی مدعی
ہو ۱۰۱۹

حمل کی زائد سے زائد مدت (نسب اولاد)
۸۵۲

صدقی اور وقف میں فرق ۱۰۳۷

عمر ابن الخطاب، حضرت

تسنیخ ہبہ۔

احناف کے دلائل ۱۰۲۱-۲۲

ذی رحم محروم کے ہبہ سے رجوع کی مانعت ۱۰۱۷

صدقی اور وقف میں ۱۰۳۹

نابالغ کے حق میں ہبہ کی صورت میں قبضہ کی

نویعت ۹۳۰

وقف کے دائمی ہوئے کے ثانین کے دلائل ۱۰۶۵-۶۶

عمرو بن شعیب

مان کے بعد رشته دار عورتوں کا حق' ۸۹۲	پرورش کا حق' ۸۸۰
وقف	قاسم ابن محمد
ابدی ہونے کے مسئلے کا تفصیلی جائزہ' ۱۰۶۳	ہبہ تفضیل سے متعلق روایت' ۹۵۹
ایجاب یا اعلان وقف' ۱۰۵۶	قاسم ابن عبدالرحمٰن
دوام وقف' ۱۰۶۰	ہبہ تفضیل سے متعلق روایت' ۹۶۱
ہبہ تفضیل' ۹۶۹	قاسم بن محمد'
ہبہ تفضیل سے متعلق رائے بعوالہ شعراؤ	پرورش کا حق' ۸۸۲
۹۶۳-۹۶۵	قاضی شیعی
'مجاہد' حضرت	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرق' ۱۰۳۷
تبذیر کی تعریف' ۹۸۶	قدوری علامہ ابوالحسن
ہبہ تفضیل کے بارے میں نتوی' ۹۶۱	دیگر رشته داروں کا نقشہ' ۹۱۷
محمد' امام	کاسافی' امام
پرورش کا حق' ۸۴۸	ہبہ تفضیل پر حنفیہ کا استدلال' ۹۶۸
ذائق تصرفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت	کائنات' جشن
کو ہابندی کا اختیار' ۹۸۲ اور ۹۸۸	مشاع کا ہبہ (عدالتی نقطہ نظر)' ۹۵۰
صلیع اور وقف میں فرق' ۱۰۳۹	کعب' حضرت
تبضیر کے لیے اجازت کے ضروری ہونے پر	ہبہ تفضیل کے عمل سے متعلق امام محمد کا
استدلال' ۹۳۱-۳۳	استدلال' ۹۶۶
متوالی کی معزوں اور تقریر جدید' ۱۱۲۸	کیکاوس' نبی - زین' جشن
مشاع کا ہبہ (قبضہ مشترک)' ۹۵۲	مائین کب ناقابل حضانت قرار باقی یہ' ۸۹۰
نایاب کے حق میں ہبہ کی صورت میں قبضہ کی	ہبہ بجالت مرض الموت' ۱۰۱۲-۱۳
نوعیت پر استدلال' ۹۳۱	ہبہ بالغوض' ۱۰۰۰-۱
نسب پذریعہ شہادت' ۸۶۸	ہبہ تفضیل سے متعلق فیصلہ' ۹۹۱
وقف۔	کیان' امام - آر' جشن
ابدی ہونے کے مسئلے کا تفصیلی جائزہ' ۱۰۶۶	تسیخ ہبہ (پاکستان عدالتوں کے فیصلے)' ۱۰۳۸
محمد بن منکدر' حضرت	دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے نام ہبہ پر
ہبہ تفضیل سے متعلق روایت' ۹۶۲	فیصلہ' ۹۵۳
محمد (رسول اللہ صلیم)	ہبہ کی تکمیل میں تبصرہ لازمی ہے' ۹۳۶
منہجی بنانا' ۸۴۵-۶	مالک' امام
نسب پذریعہ شہادت' ۸۶۸	پرورش کا حق' ۸۴۸
مسلم' امام	تکمیل ہبہ (احناف کی دلیل)' ۹۲۶-۶۲
احادیث سے اسناد بابت ہبہ، تاجین حیات' ۹۹۷	ثبوت نسب بد حکم شرعی' ۸۶۳
تسیخ ہبہ' ۱۰۱۵	حل کی زائد سے زائد مدت (نسب اولاد)' ۸۵۲

۹۰۰۳	سعاذ بن جبل ' حضرت صدقے اور وقف میں فرق ' ۱۰۳۲
۹۵۰	سعاویہ بن جیدہ ہبہ تفضیلی کی روایت ' ۹۶۰
۹۴۶	مغیرہ بن شعبہ ذائق تصرفات میں اسراف و تبذیر پر حاکم وقت کے پابندی کے اختیار سے ' متعلق روایت ' ۹۷۰
۸۵۲	نہمن بن بشیر ' حضرت ہبہ تفضیلی سے متعلق روایت ' ۹۵۶-۵۴
۹۱۱	نعمی بن عبد الله بن نحیم علام کو مدبر کرنے والی روایت میں صفتی ذکر ' ۹۸۸
۹۳۲	بودی ' امام ہبہ کی تکمیل میں قبضہ لازمی ہے ' ۹۳۲
۱۰۱۵	تسبیح ہبہ ' جسٹس وحید الدین احمد ' جسٹس

كتب استفاده وحواله

- العنى 'ابن قدامه مقدسى (٥٦٢٠)' مطبوعه مصر،
١٣٦٤، جلد ٢
- الذهب 'ابن اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف
القىروز آبادى الشيرازى (٥٣٧٦)' مطبوعه
مصر، ١٩٥٩، جلد ١
- الوقف، شيخ ابو زير، مطبوعه مصر، ١٩٥٩
انثنين لا ببورث، كلكته جلد ٢٢، ١٨٩٣، ع
- بعرالرائق، ابن نعيم مطبوعه مصر، ١٣٥٦، جلد ٣
- بدائع الصنائع، امام كاسانى، (٥٥٨٢) مطبوعه
مصر، ١٣٢٨، جلد ٣
- في ايل ذى ١٩٥٠، بشارور
- في ايل ذى ١٩٥١، لا بور
- في ايل ذى ١٩٥٢، بشارور
- في ايل ذى ١٩٥٣، لا بور
- في ايل ذى ١٩٥٤، بشارور
- في ايل ذى ١٩٥٥، ذهاكه
- في ايل ذى ١٩٥٥، لا بور
- في ايل ذى ١٩٥٦، بشارور
- في ايل ذى ١٩٥٧، بشارور
- في ايل ذى ١٩٥٨، ذهاكه
- في ايل ذى ١٩٥٩، لا بور
- في ايل ذى ١٩٦٠، ذهاكه
- في ايل ذى ١٩٦٠، كراچي
- في ايل ذى ١٩٦٠، لا بور
- في ايل ذى ١٩٦١، كراچي
- في ايل ذى ١٩٦١، لا بور
- في ايل ذى ١٩٦٣، بغداد الجديد
- في ايل ذى ١٩٦٣، كراچي
- أحكام الاوقاف، شقيق العان، مطبوعه بغداد، عراق
١٩٦٠
- أحكام الاوقاف، خصاف (٥٢٦١)، مطبوعه مصر،
١٣٦٦
- أحكام الاوقاف، مصطفى زرقا، مطبوعه مصر، ١٣٦٦
- أحكام الوقف، عبد الوهاب العلاف، مطبوعه مصر،
١٣٦٧
- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن
مودود، (٥٩٨٣) مطبوعه مصر، ١٩٥١، ع
- الاستبصار، جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٥٦٧٠)
مطبوعه بيف، جلد ٢
- الاسعاد في احكام الاوقاف، مطبوعه بولاق (مصر)
١٤٩٢
- الاتقان شرف الدين المقدسى، مطبوعه مصر، جلد ٣
- الدرایا في تغريب احاديث الہادیہ، محبوب المطابع
دبل، ١٣٥٠
- السنن الکبری، یہقی، مطبوعه دکن، جلد ٨
- المبسوط، امام سرسخی (٥٣٨٢)، مطبوعه مصر،
١٣٢٢، جلد ١٢
- المجلة الامامية العدلية مع شرح الاتاسي مطبوعه
حسن، ١٩٣٠، ع
- المحجر في النقد، عبدالدين ابو البركات، مطبوعه
مصر، ١٣٦٩، جلد اول
- المحل، ابن حزم، (٥٥٥٦)، مطبوعه مصر،
١٣٥٢، جلد ٦
- المختصر المزنی، آخر جلد كتاب الام، مطبوعه
مصر، ١٣٨١
- المختصر، القنوری، علامه ابوالحسن قاسمی مطبوعه
مصر، ١٣٣٠

مجموعة قوانين اسلام

- قانون الاحوال الشخصية، شام
قانون الاحوال الشخصية، ١٩٥٩ ع، عراق
قانون المصري، نمبر ٢٥ بابت ١٩٢٩ ع
قانون جواز اوقاف مسلمانان ايكت نمبر ٦، بابت
١٩١٣ ع
قانون الوصيحة مصر، مطبوعة مصر، ١٩٣٨ ع
قرآن حكم
كتاب الرسالة، امام شافعى، مطبوعة مصر،
١٣٥٨
كتاب الام، امام شافعى، مطبوعة مصر، ١٣٨١ هـ
لكلت، ويكلر ربورث، ١٨٤١ ع
كتز الدافتلى، عيد الله نفى، مطبع جنتانى، دليل،
١٣٣٨
مجلة الاحوال الشخصية، تونس
مجمع الائمه، داماد أفندي (١٠٢٨)، مطبوعة
مصر، جلد ١
مجمعه قوانين اسلام، تنزيل الرحمن، مطبوعة
لابور، جلد اول
سودون، امام سخون (٦٢٣٠)، مطبوعة مصر،
١٣٢٣ هجري، جلد ١
مشكوة، مطبوعة كراچي
مؤطرا امام مالك مع شرع زرقاني مطبوعة مصر،
١٣٨٢ هـ جلد ٢
ميزان الکبرى، شعران، مطبوعة مصر، جلد ٢
سيغارى، ایکٹ ١٨٤٥ ع
پدايد، بربان الدين مرغنى (٥٥٩٣)، مطبوعه
کراچي، جلد ٣
١٨٨١، آن - آئے
(١٩٢١) ع، ٣٨، آن - آئے، ١١٣
١٩٢٧ ع، ٥٥ انلين ايجاز، ٢٣، ٢٢=١٩٢٢ ع
آل اندیا رپورٹ پرسپوئی کونسل، ٢٢
- پ ایل ڈی، ١٩٦٣ ع، ڈھاکہ
پ ایل ڈی، ١٩٦٣ ع، سپریم کورٹ
پ ایل ڈی، ١٩٦٥ ع، سپریم کورٹ
پ ایل ڈی، ١٩٦٥ ع، کراچی
پ ایل ڈی، ١٩٦٦ ع، آزاد جموں و کشمیر
پ ایل ڈی، ١٩٦٦ ع، لاہور
نفسیت المختار، علامہ عبدہ، مطبوعہ مصر، جلد ٣
تفسیر البیضاوی، علامہ بیضاوی، مطبوعہ مصر،
جلد اول
تفسیر الكشاف، علامہ کشاف، مطبوعہ بیروت،
جوابر الکاکل، شرح مختصر الخلیل، مطبوعہ
مصر، ١٩٣٤ ع، جلد ٢
ذنجست آف محمدن لاء، بیلی، جلد ٢
رحمۃ الامتد ف اختلاف الائمه، مطبوعہ مصر،
زاد المعاد، ابن قیم (اردو ترجمہ)، مطبوعہ نقیض
اکٹیشنی، کراچی، جلد ٣
سن، ابن ماجہ، مطبوعہ کراچی
سن، نسانی، مطبوعہ کراچی
شرح الاسلام، نجم الدین، جعفر العلی (٦٢٣)،
مطبوعہ بیروت، جلد اول
شرح وقایہ، مطبوعہ دیوبند، جلد ٢
صحیح بخاری، مطبوعہ مصر، ١٣٥٦ جلد ٣
صحیح مسلم مع شرح نووی، از امام نووی،
مطبوعہ مصر،
عده القاری شرح صحیح بخاری، امام عینی، کتاب
الوصیت، جلد ٧
عنایہ برحاشید فتح القدير، مطبوعہ مصر، ١٣٥٩
فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، مطبوعہ مصر،
١٣٥٩ ع، جلد ٥ اور ١٣
فتح القیری، ابن ہمام، شیخ کمال الدین (٦٨٦١)،
مطبوعہ مصر، ١٣٥٦ جلد ٣
فتح المعین، مطبوعہ مصر،



 **marfat.com**

Marfat.com